

حَبْلُ الْقَرْآنِ

قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ



فَلَمَّا قُرِئَتِ

كُلُّ أَعْجَمٍ عَارِفٌ لِمَا يَنْتَهِي بِهِ حَصْرُهُ أَقْرَأَهُ اللَّهُ شَرِيفٌ كَمِيرٌ حَكِيمٌ حَمَدٌ لِلَّهِ أَنْزَلَهُ شَرِيفًا

ناشر خانقاہ امدادیہ اشرفیہ: گلشن قبان، پرچی

﴿ ضروری تفصیل ﴾

نام کتاب:

خزانہ القرآن

(حضرت والاکی تالیفگات سے آیاتِ قرآنی کی الہامی تشریحات کا مجموعہ)

نام مؤلف:

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختصار صاحب دام ظلالہم علیہنا

الی مائہ و عشرين سنه

کمپوزنگ:

مفتی محمد عاصم صاحب مقیم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشنِ اقبال، کراچی

اشاعتِ اول: محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

تعداد:

۲۲۰۰

ناشر:

کتب خانہ مظہری

گلشنِ اقبال - ۲ کراچی، پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۱۸۲

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
۱۷	تلاوت سے پہلے تعوذ کی حکمت
۱۸	تلاوت سے پہلے تسمیہ کی حکمت
۱۹	لطائف و معارف سورہ فاتحہ
۳۰	الحمد للہ کی چار تفسیریں
۳۱	معرفتِ الہیہ کا تعلق ربویتِ الہیہ سے
۳۲	ربویتِ الہیہ کا حکمتِ الہیہ سے ربط
۳۲	ملکِ یومِ الدین میں شانِ عظمت و شانِ حمدِ الہیہ کا ظہور
۳۳	نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی کی درخواست
۳۳	صراطِ مستقیم منعم علیہم کا راستہ ہے
۳۳	انعام یافتہ بندے کون ہیں؟
۳۳	صراطِ مستقیم کے لیے منعم علیہم بندوں کی رفاقت شرط ہے
۳۴	صراطِ منعم علیہم صراطِ مستقیم کا بدل الکل ہے
۳۵	کلام اللہ کا اجایزہ بلاغت اور علماء نحو کی حیرانی
۳۶	منعم علیہم اپنے اور مغضوب علیہم غیر ہیں
۳۶	غیروں سے دل لگانے والا محروم رہتا ہے
۳۶	صراطِ مستقیم کے لیے مغضوب علیہم سے دوری بھی ضروری ہے
۳۷	نبی کی تعریف
۳۷	شہید کی تعریف
۳۸	صالحین کی تعریف
۳۸	کرمیم کی شرح
۳۹	صدیقین کی تعریف

آخرت کو اللہ پر فدا کرنے کے معنی	۴۰
مقامِ صدیقین	۳۹
صدیقین کے شہدا سے افضل ہونے کی وجہ	۳۱
جان پاک نبوت میں صدیق اکبر کی محبت	۳۱
دروازہِ صدیقیت قیامت تک کھلا رہے گا	۳۱
صدیق کی پہلی تعریف	۳۲
صدیق کی دوسری تعریف	۳۲
صدیق کی تیسرا تعریف	۳۲
صدیق کی چوتھی تعریف	۳۳
نمازِ باجماعت کو رکوع سے تعبیر کرنے کی حکمت	۳۵
جماعت کے وجوہ کا ایک عاشقانہ راز	۳۶
جمع و عیدین و حج کے اجتماعات کا مقصد	۳۶
اصلاحِ قلب کی اہمیت	۳۷
طواف بیتِ الرب اور طوافِ ربِ الbeit	۳۷
مسلمان بیتِ اللہ کو نہیں اللہ کو وحدہ کرتے ہیں	۳۸
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تفسیر	۳۸
سمیع و علیم کارباط	۳۹
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ سے کیا مراد ہے؟	۳۹
تمام مناسک حج و حج سے بتائے گئے	۴۰
کعبہ شریف زمین کے بالکل وسط میں ہے	۵۰
تفسیر تُبْ عَلَيْنَا	۵۰
انبیاء علیہم السلام کی توبہ سے کیا مراد ہے؟	۵۰
تَوَّابُ رَحِيمُ کے تقدم و تأخر کے دو عجیب نتائے	۵۰
فرقة معتزلہ کا رد	۵۱
غفور اور و دود کارباط	۵۱

مقاصدِ بعثتِ نبوت	۵۲
مکاتبِ قرآن اور دارالعلوم کا ثبوت	۵۲
وَيُرَكِّبُهُمْ سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت	۵۳
تعلیم اور تزکیہ کے تقدم و تاخیر کے اسرار عجیب	۵۳
تعلیمِ کتاب میں حکمت کی اہمیت	۵۳
حکمت کی پانچ تفییریں	۵۳
دخول مسجد کی دعا اور قعدہ میں تسلیم کے رموز	۵۵
مسجد سے نکلنے وقت روzi مانگنے کا راز	۵۵
صَلُوًا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصْلَى کی شرح اور طریق السنۃ کی تعلیم	۵۶
حکمت کی تیسرا تفسیر	۵۷
حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت دینیہ	۵۷
حکمت کی چوتھی تفسیر	۵۸
حکمت کی پانچویں تفسیر	۵۸
تفسیرِ انکَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ	۵۹
مکاتبِ قرآنیہ کے قیام کا ثبوت	۶۱
مدارسِ علمیہ کے قیام کا ثبوت	۶۱
تعلیمِ کتاب اور حکمت کا رابط	۶۲
خانقاہوں کے قیام کا ثبوت	۶۳
ترکیہ کی اہمیت	۶۳
ترکیہ کی پہلی تفسیر	۶۳
ترکیہ کی دوسری تفسیر	۶۳
ترکیہ کی تیسرا تفسیر	۶۳
بعثتِ نبوت کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے	۶۳
تعلیم و ترکیہ کی تقدم و تاخیر کے بعض عجیب اسرار	۶۴
اسماءِ عظیم عزیز اور حکیم کا ترکیہ نفس سے رابط	۶۶
آیت فَإِذْ كُرُونَى اذْ كُرُوكُمْ کے لائنِ عجیب	۶۷
ابتلاء و امتحان کا مفہوم	۶۹

۷۰	عاشقانِ خدا کے امتحان کا مقصد
۷۰	اللہ تعالیٰ کے امتحان کے منصوص پرچے
۷۱	اللہ تعالیٰ کے امتحان کا پہلا پرچہ
۷۱	انبیاء علیہم السلام پر مصائب کی وجہ
۷۲	اولیاء اللہ پر مصائب کی وجہ
۷۲	امتحان کا دوسرا پرچہ
۷۳	امتحان کا تیسرا پرچہ
۷۳	امتحان کا چوتھا پرچہ
۷۴	امتحان کا پانچواں پرچہ
۷۴	مصیبہ اور لفظ بشارت کا رابطہ
۷۵	صبر کی تین قسمیں
۷۶	استرجاع کی سنت
۷۸	تعریفِ مصیبہ بزبان نبوت ﷺ
۷۸	اس امت کی ایک امتیازی نعمت
۷۹	حقیقی صبر کیا ہے؟
۷۹	پہلی بشارت.....رحمت خاصہ
۷۹	دوسری بشارت.....رحمت عامہ
۸۰	تیسرا بشارت.....نعمتِ احتداء
۸۱	سنتِ استرجاع کی تکمیل
۸۸	آیت کوُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے تاقیامت اولیاء کے وجود کا استدلال
۸۹	آیتِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے اہل اللہ سے تعلق پر استدلال
۸۹	شیطان اور نفس کا فرق
۹۰	روزہ کی فرضیت میں شانِ رحمت کا ظہور
۹۱	روزہ اور صحبتِ اہل اللہ کا ایک انعام عظیم
۹۲	روزہ کی ایک حکمت

۹۲	ماہِ رمضان میں تقویٰ سے رہنے کی برکات
۹۳	حسنَةٌ فِي الدُّنْيَا کے معانی
۹۴	فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ کی تفسیر
۹۸	اللَّهُعَالَیٰ کی محبوبیت کا ایک راستہ
۹۹	آیتِ شریفہ میں دوبارہ یُحِبُّ نازل ہونے کا راز
۱۰۰	ایک مسئلہ سلوک کا استنباط
۱۰۱	محبوبِ الٰہی بنانے والی دعا
۱۰۱	آیت وَيُحِبُّ الْمُنْظَهِرِينَ بَابِ تَفْعُلٍ سے نازل ہونے کا راز
۱۰۳	ضرورتِ مرشد پر فائدہ علمیہ برائے اہلِ علم
۱۰۳	ولی کس کو کہتے ہیں؟
۱۰۵	ولایت عامہ اور ولایت خاصہ
۱۰۸	آیت وَأَعْفُ عَنَّا کی تفسیر
۱۰۹	کون سی جاہِ محمود ہے؟
۱۱۱	استقامت علی الدین اور حسن خاتمه کی دعا کے عجیب تفسیری اطائف
۱۱۲	استقامت کی دعا حدیث سے
۱۱۵	حسن خاتمه نصیب ہونے کا طریقہ
۱۱۸	اللَّهُعَالَیٰ کی محبت کا راستہ ابتداء رسول ہے
۱۱۹	محبت کی دو قسمیں
۱۱۹	عشقِ رسول کی بنیاد ابتداء رسول ہے
۱۲۰	حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے
۱۲۰	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی معافی کا واقعہ
۱۲۱	اللَّهُعَالَیٰ کی عظمت و عید کو یاد کرنے والے
۱۲۲	اللَّهُعَالَیٰ کے حضور اپنی پیشی کو یاد رکھنے والے
۱۲۲	قیامت کے دن کے حساب کو یاد رکھنے والے
۱۲۳	اللَّهُعَالَیٰ کی عظمت و جلال سے ڈرنے والے

۱۲۳	آیت فَلَمَّا دَمَّ عَلَيْهِمْ الخ کی تفسیر
۱۲۳	جمالِ الہی کو یاد کر کے گناہوں پر نادم ہونے والے
۱۲۵	اصلی شکر کیا ہے؟
۱۲۹	شہادت کے رُموز و اسرار
۱۳۳	تفکر فی الخلوقات سے استدلال تو حیدر پر مغفرت
۱۳۳	قرآن پاک میں عاشقانِ حق کی شان
۱۳۴	تفکر فی خلق اللہ شیوه خاصان خدا
۱۳۵	ذکر برائے خالق فکر برائے مخلوق
۱۳۵	ممانعت تفکر فی اللہ کی حکمت
۱۳۷	اہلِ عقل کون لوگ ہیں
۱۳۸	موجودہ دور میں صحابہ کے اعمالِ منصوصہ کے اختیار کی صورت
۱۳۰	صلدر جی کے حق دار کون ہیں؟
۱۳۷	کفار سے دوستی کا انجام ارتدا دے ہے
۱۳۷	کفار سے معاملات جائز، موالات حرام
۱۳۷	سلوک کا ایک اہم مسئلہ
۱۳۸	عنایاتِ الہبیہ کو شمرہِ مجاہدات سمجھنا ناشکری ہے
۱۳۸	قرآن پاک سے استدلال
۱۳۹	حسن اتفاق و سوء اتفاق کفار و ملاحدہ کی ایجاد
۱۳۹	جزءِ بھی دراصل عطااء ہے
۱۴۹	جنت کو جزِ عمل فرمانا بھی رحمت ہے اور اس کی عجیب مثال
۱۵۰	یُحِبُّونَہُ پر یُحِبُّہُمُ کی تقدیم کی ایک حکمت
۱۵۰	تقدیم یُحِبُّہُمُ کی دوسری حکمت از تفسیر روح المعانی
۱۵۱	اہلِ محبت کی تین علامات
۱۵۱	پہلی علامت مونین کے ساتھ تو اوضع و فائیت نفس
۱۵۱	بوقت مقابلہ اہلِ محبت کی کفار پر شدت

اہل محبت کی دوسری علامت یُجَاهِدُونَ فِی سَبِّیْلِ اللّٰهِ	۱۵۲
اہل محبت کی تیسرا علامت مخلوق کی ملامت کا خوف نہ ہونا	۱۵۳
فضل قانون سے بالاتر ہے	۱۵۴
واسع اور علیم کا ربط	۱۵۵
سارے عالم کے عاشقان خدا ایک قوم ہیں	۱۵۸
کفار سے موالات و محبت سب ارتدا ہے	۱۵۹
شرح صدر اور اس کے معنی	۱۶۲
دل میں نور ہدایت آنے کی علامات	۱۶۳
نور ہدایت کی پہلی علامت	۱۶۴
نور ہدایت کی دوسری علامت	۱۶۵
نور ہدایت کی تیسرا علامت	۱۶۶
شیطانی و ساویں کا علاج	۱۷۵
اعمال سے مقصود رضاع حق ہے	۱۷۶
قلت وسائل سے گھبرا نہیں چاہیے	۱۷۷
حقیقی زندگی اطاعت حق اور اطاعت رسول کا نام ہے	۱۷۷
حصول ولایت کے پانچ اعمال	۱۸۱
ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۹۱
تصوف کی حقیقت	۱۹۲
معیت صادقین کے دوام و استمرار پر استدلال	۱۹۳
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کی پیشکش	۱۹۵
اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبوبیت کا ایک اور راستہ	۱۹۶
وصول الی اللہ کی شرط	۱۹۶
چودہ سو برس قدیم آسمانی ٹینکانالوجی	۱۹۷
کُوُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی پیوند کاری کا طریقہ	۱۹۸
اولیاء اللہ کی صفت ولی سازی	۱۹۹

۱۹۹	کُوٰنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی شیکنا لو جی کا طریقہ حصول
۲۰۰	نفس و شیطان کو مغلوب کرنے کے داویتیں
۲۰۰	(۱) اہل اللہ سے مستفید ہونے کی شرط اور لیں
۲۰۱	وسو سے شیطانی اور وسو سے نفسانی کا فرق
۲۰۱	شیطان کا نہایت پیارا خلیفہ
۲۰۱	(۲) اہل اللہ کا نور باطن منتقل ہونے کے دورانے
۲۰۲	(۳) اہل اللہ سے شدید تعلق و محبت اور اس کی مثال
۲۰۳	(۴) در و محبت میں اہل اللہ کے خود فیل ہونے کی مثال
۲۰۳	تعلقِ خُلُث (خاص و دوستی) کی علامت
۲۰۵	اللہ تعالیٰ کی شانِ محبویت کی دلیل
۲۰۵	اللہ کے راستہ کاغمِ اللہ کا پیار ہے
۲۰۷	امارة بالسوء جملہ اسمیہ سے نازل ہونے کا راز
۲۰۸	نفس کے خلاف جہاد کا طریقہ
۲۰۸	نفس کا اژدها اور اسبابِ معصیت
۲۰۹	کلامِ اللہ کا اعجازِ بلاغت
۲۱۰	نفس کی تعریف
۲۱۱	نفس کے شر سے بچنے کے نکتے
۲۱۲	علومِ الوہیت اور علومِ رسالت میں مطابقت
۲۱۳	صاحبِ حُونِ اللہ کی راہ جلد طکر لیتا ہے
۲۱۶	عظیم الشان ذکر
۲۲۳	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا مِنْ صِيغَةِ جَمِيعٍ نَازِلٌ ہونے کا راز
۲۲۳	وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ قرآن پاک کی دامگی حفاظت کی دلیل ہے
۲۲۴	قرآن پاک کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں
۲۲۴	حفظِ قرآن پاک کی خدائی ذمہ داری کے منتخب افراد
۲۲۵	قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ ہے

۲۲۵	آیتِ قرآنی سے مکاتب و مدارس کے قیام کا ثبوت
۲۲۶	امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟
۲۲۷	اصحابِ الیل بنے کا آسان نسخہ
۲۲۸	فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرَ إِنْ مِنْ أَهْلٍ ذَكْرٍ سَمِعَ مِنْ أَهْلَ إِلَيْهِ
۲۲۸	علماء کو اہل ذکر کفر مانا ذکر کی تلقین ہے
۲۲۹	لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ سے ایک اہم مسئلہ سلوک کا استنباط
۲۲۹	حرمین شریفین میں حفاظتِ نظر کے متعلق علم عظیم
۲۳۰	آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے متعلق ایک نیا علم عظیم
۲۳۱	آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے لطائفِ عجیبہ
۲۳۲	مال اور جوانی کے بقاء کا طریقہ
۲۳۲	جوانی کے قائم و دائم رکھنے کا طریقہ
۲۳۳	الْعَالَمُ مُنْغِيرٌ کی تقریر سے حدیث کی بقاء باللہ کا منطقی اثبات
۲۳۳	شیخ کے لیے دعا کرنے کی دلیل
۲۳۶	اصلی مریدوں ہے جس کی مراد اللہ ہو
۲۳۸	اللہ والے کون ہیں؟
۲۳۸	متلاشیان رضا حق پر انعاماتِ الہیہ
۲۴۱	مغفرت کے لیے ایک عظیم الشان وظیفہ
۲۴۳	ترکیہ کا سببِ حقیقی افضل و رحمت و مشیتِ الہیہ ہے
۲۴۷	حضرات مشائخ کرام کا ارشاد
۲۴۹	تبديل سیمات بالحسنات کی پہلی تفسیر
۲۵۰	تبديل سیمات بالحسنات کی دوسری تفسیر
۲۵۱	تبديل سیمات بالحسنات کی تیسری تفسیر
۲۵۲	اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا
۲۵۲	اولاد کی تربیت
۲۵۲	غلط عقیدوں سے پا کی

۲۵۳	خواہشات کا غلبہ نہ ہو
۲۵۳	غیر اللہ سے دل پاک ہو
۲۵۵	اللہ تعالیٰ کی وعظیم الشان نشانیاں
۲۶۱	سارق کے قطع یہ کی عجیب و غریب حکمت
۲۶۱	علم اور خشیت لازم و ملزم ہیں
۲۶۲	عزیز اور علیم کا ربط
۲۶۲	وقوع قیامت کے عجیب و غریب دلائل
۲۶۶	قیامت آنے کا سبب
۲۶۶	اجتماعی قیامت اور انفرادی قیامت
۲۶۷	لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَجِيبٌ تَقْرِيرٌ
۲۷۳	طریق سلوک بھی جذب ہی سے طے ہوتا ہے
۲۷۴	جذب کی ایک اور علامت
۲۷۵	حضرت حشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ
۲۷۹	اللہ تعالیٰ کے نام عزیز کے معنی
۲۸۰	اہل اللہ کی قیمت
۲۸۱	اہل اللہ کی مخلوق سے عدم احتیاج پر ایک آیت سے استدلال
۲۸۲	عدم امتنان المرید علی الشیخ پر ایک آیت سے استناظ
۲۸۲	سکینہ کیا ہے اور کہاں نازل ہوتا؟
۲۸۳	نزول سکینہ کے موافع
۲۸۳	سکینہ کی تین تفسیریں
۲۸۳	پہلی تفسیر اور علامت
۲۸۳	نور سکینہ کے حصول اور حفاظت کا طریقہ
۲۸۴	نزول سکینہ کی دوسری علامت
۲۸۴	تیسرا علامت
۲۸۵	ایمان عقلی استدلالی موروثی و ایمان ذوقی حالی وجود ان کی تمثیل

ذکر اللہ سے نزول سینئر کی دلیل نقی اور ایک علم عظیم	۲۸۶
بیعت کی حقیقت	۲۸۷
بیعت کی ایک حسی مثال	۲۸۷
بیعت کے متعلق ایک عجیب عاشقانہ مضمون	۲۸۸
سیما کی تفسیر	۲۸۸
قویٰ ترین نسبت حاصل کرنے کا طریقہ	۲۸۹
گناہ سے بچنے کا غم اور محبو بیت عند اللہ	۲۹۰
اہل محبت کے محفوظ عن الارتداد ہونے کی دلیل	۲۹۰
اللہ تعالیٰ کی نشانی	۲۹۱
خاندان و قبائل کا مقصد تعارف ہے نہ کہ تفاضل و تفاخر	۲۹۳
تقویٰ کی تعریف	۲۹۳
مؤمنین کا ملین کا ایک خاص اعزاز	۲۹۹
الحاقد مع اکملین کے متعلق ایک مسئلہ سلوک	۲۹۹
اصلی امیر کون ہے؟	۳۰۱
اہل اللہ کے استغناء کا سبب ان کی لذت باطنی ہے	۳۰۱
دنیادار الغرور کیوں ہے؟	۳۰۳
دنیوی زندگی۔ دھوکہ کا سامان	۳۰۶
اہل علم کا بلند درجہ	۳۰۷
اہل اللہ کے کاموں میں آسانی کا راز	۳۰۹
زندگی کا مقصد کیا ہے؟	۳۰۹
موت کی حیات پر وجہ تقدیم	۳۱۰
حکم استغفار کے عاشقانہ رموز	۳۱۰
تعمیر حال اور تعمیر مستقبل کا سامان	۳۱۱
گناہ کی تکلیفیں	۳۱۱
گناہ کی تکلیفوں کا مدوا	۳۱۲

۳۱۲	استغفار سے لفظ رب کا ربط
۳۱۲	مغفرت کا غیر محدود سمندر
۳۱۳	فرضیتِ تقویٰ کا عاشقانہ راز
۳۱۳	مغفرت سے طلب رحمت کا ربط
۳۱۴	رحمت کے چار معنی
۳۲۱	اللہ کے خوف کی علامت اور مقدار
۳۲۱	خانقاہ = علم کی روشنی + عشق کا راستہ
۳۲۲	قابلہ جنت اور اس کی علامات
۳۲۹	ملاقاتِ دوستاں یعنی ملاقاتِ اہل اللہ کی اہمیت
۳۳۱	خون آرزو، آفتاب نسبت کا مطلع ہے
۳۳۱	تقديم الہام (الجبو رعلی التقویٰ) کا راز
۳۳۲	ماڑہ فجور تقویٰ کا موقوف علیہ ہے
۳۳۲	تفویٰ کے لیے تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے
۳۳۲	راہِ حق کے غم کی عظمت
۳۳۳	تفویٰ کیا ہے
۳۳۳	متقیٰ کسے کہتے ہیں؟
۳۳۳	تفویٰ پر فجور کے تقدم کا سبب
۳۳۵	الہام فجور و تقویٰ کی حکمت
۳۳۶	تفویٰ کی تعریف
۳۳۶	فرشته مخصوص ہیں متقیٰ نہیں
۳۳۶	فرشتوں کے بجائے انسان کو شرفِ نبوت عطا ہونے کا سبب
۳۳۶	اللہ کا سچا عاشق کون ہے؟
۳۳۷	تفویٰ کے انعامات
۳۳۷	پہلا انعام..... ہر کام میں آسانی
۳۳۷	تفویٰ کا دوسرا انعام..... مصالیب سے خروج

تیر انعام بے حساب رزق	۳۳۷
چوچھا انعام نور فارق	۳۳۸
پانچواں انعام نور سکینہ	۳۳۸
سکینہ آسمان سے نازل ہوتا ہے	۳۳۸
تقویٰ کا چھٹا انعام پُر لطف زندگی	۳۳۹
تقویٰ کا ساتواں انعام عزت واکرام	۳۳۹
تقویٰ کا آٹھواں انعام اللہ کی ولایت کا تاج	۳۳۹
تقویٰ کا نوال انعام کفارہ سینات	۳۴۰
تقویٰ کا دسوائیں انعام آخرت میں مغفرت	۳۴۰
حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان	۳۴۳
صحابہ کرام ﷺ کے حالاتِ رفیعہ سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی معرفت	۳۴۴
عظمتِ رسالت کا منکر جنہیٰ ہے	۳۴۷
رسول اللہ ﷺ کا اوسہ حسنہ کن لوگوں کو محبوب ہوتا ہے؟	۳۴۸
درود شریف کی اہمیت اور لفظ درود کے معانی	۳۴۹
درود شریف کے کچھ مزید معانی	۳۵۱
حضر صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل محبویت	۳۵۱
حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت و شفقت	۳۵۱
صحبت اور کتاب کے متعلق ایک الہامی علم عظیم	۳۵۳
زمین کی شہادت	۳۵۵
صفتِ صمدیت حق تعالیٰ کی احادیث کی دلیل ہے	۳۵۶
گناہ سے بچنے کا بہترین علاج	۳۵۷
دین کی حلاوت حاصل کرنے کا طریقہ	۳۵۸
ہروی کی شانِ تقدیر اور اس کی وجہ	۳۵۹
تمام کائنات کے حسن سے زیادہ حسین کیا چیز ہے؟	۳۵۹

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خزاں القرآن

سورہ فاتحہ.....حمد و شناع اور دعا کا مجموعہ

تلاوت سے پہلے تعود کی حکمت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوتِ قرآنِ پاک کی ابتداء میں اعوذ بالله من الشیطون الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بات یہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جب منفعت پر، اسی لیے کلمہ میں لا الله پہلے ہے کہ پہلے غیراللہ کو دل سے نکالو پھر الا اللہ کو دل میں پاؤ گے۔ عود کی خوشبوگانے سے پہلے جسم سے گندگی، پسینہ کی بد بود رکنا ضروری ہے ورنہ عود کی خوشبو محسوس نہ ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لذتِ قرب کے لیے غیراللہ سے طہارت اور پاکی ضروری ہے اسی لیے کلمہ میں لا الله کو مقدم فرمایا کہ پہلے غیراللہ کو دل سے نکالو پھر الا اللہ کی خوشبو ملے گی۔

قرآنِ پاک میں ہے:

﴿حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ﴾

(سورة التوبہ، آیت: ۱۲۸)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رؤف کو مقدم فرمایا رحیم پر۔ اور حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ کے کیا معنی ہیں کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، سوال یہ ہے کہ کس چیز پر حریص ہے؟ تمہارے مال پر یا تمہاری جیب پر؟ نہیں۔ ان چیزوں سے نبی کا کیا تعلق۔ علامہ آلوی نے کیا عمدہ تفسیر کی ہے:

﴿حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ أَىٰ عَلٰى إِيمَانِكُمْ وَصَلَاحٍ شَانِكُمْ﴾

میرا نبی تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارے ایمان کا اور تمہاری اصلاح حال کا حریص ہے۔ آپ کی یہ شانِ کرم تو سب کے ساتھ ہے خواہ مومن ہو یا کافر لیکن بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے

ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ بالمؤمنین کی تقدیم بتاتی ہے کہ رافت اور رحمت صرف مؤمنین کے لیے خاص ہے کافروں کے لیے نہیں، رافت کے معنی دفع ضرر کے ہیں اور رحمت کے معنی جلب منفعت کے ہیں اور دفعِ مضرت چونکہ مقدم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے راءُ وَ قُ کو رَحِيمٌ سے پہلے نازل فرمایا۔

اسی قاعدہ گلیے سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دے کر دفعِ مضرت کو مقدم فرمایا کہ شیطان میرا دشمن ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے اعوذ بالله پڑھ کر اسے بھگا دوتا کہ وہ تمہارے دل میں وساوس نہ ڈال سکے۔ محدث عظیم ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوہ میں لکھتے ہیں:

﴿الشَّيْطَانُ كَالْكُلْبُ الْوَاقِفُ عَلَى الْبَابِ﴾

شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو دروازہ پر کھڑا رہتا ہے جیسے دنیا کے بڑے لوگ فائز کا بڑا اکتا بھیڑیا نسل کا رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں ہذا ان کا کتا بھی تمام کتوں سے سے بڑا اکتا ہے، اکبر الکلب ہے۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ بالله کا حکم دے کر بتادیا کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے کتے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو ہذا مجھ سے پناہ مانگو جس طرح بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہو تو ان کا کتا بھونکتا ہے تو آپ کتے سے نہیں لڑتے بلکہ اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں اپنے کتے کو خاموش کر دیجئے تو مالک خاص کوڈ، خاص الفاظ کہتا ہے جس سے کتادم ہلانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے نہیں فرمایا کہ تم شیطان سے برآ راست مقابلہ کرو بلکہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے اس مردود کتے سے جو گیٹ آؤٹ کیا ہو ادبار بار کے باہر کھڑا ہے، جو شخص دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ بھونکتا ہے ہذا تم اس مردود سے بات ہی نہ کرو، مردود ناقابل جواب، ناقابل التفات، ناقابل گفتگو ہوتا ہے بات تو دوست سے کی جاتی ہے، میں تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا مولیٰ ہوں ہذا مجھ سے کہو اعوذ بالله اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، جب تم نے میری پناہ مانگ لی تو اب شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

تلاوت سے پہلے تسمیہ کی حکمت

اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحيم ہے قرآن پاک کی ابتداء ان تین ناموں سے ہوئی ہے، اللہ اسم ذات ہے جو تمام صفات کا حامل ہے اور اسم اعظم ہے اور یہ نام سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور حمْن و رحِمْ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اپنا تعارف کرا کے بندوں کو

امید لائی ہے کہ جس مالک کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

اطائف و معارف سورہ فاتحہ

الحمد لله کے معنی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھوپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں (۱) بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ (۲) اللہ بندہ کی تعریف کرے۔ (۳) بندہ بندے کی تعریف کرے۔ (۴) اللہ خود اپنی تعریف کرے اور یہ چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی مخلوق اس لاٽ نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ بندہ میں اگر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ اللہ ہی کی عطا ہے، اگر کسی بھیک منگ کو بھیک کے پیالے میں کوئی ایک کروڑ کا موتی دے دے تو اس میں بھیک منگ کا کیا کمال ہے، یہ تو دینے والے کا کمال ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں اور خوبیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارا کمال نہیں۔ اس لیے تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب کمالات اللہ کے لاٽ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں انتم الفقر آء فرمایا ہے ہم تو ان کے رجڑ فقیر ہیں، جب ہم فقیر ہیں تو ہماری ہر چیز بھیک ہے، آنکھ کی بینائی، کان کی شنوائی، زبان کی گویائی وغیرہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، ہم اپنے جسم و جان کے مالک نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اور اسی وجہ سے خود کشی حرام ہے کیونکہ کوئی شخص اپنی جان کا مالک نہیں ہوتا لہذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان میں تصرف کرے۔

الحمد لله رب العالمين کے معنی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کا لاٽ ہیں جو پالے والا ہے ہر ہر عالم کا، عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم علم سے ہے جس کے معنی ہیں نشان۔ چونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور عالمین جمع ہے کیونکہ مخلوقات کی ہر جنس کا الگ الگ عالم ہے جیسے عالم انسان، عالم جنات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالمِ ملکوت اور عالمِ جبروت وغیرہ ہزاروں عالم ہیں اور سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے۔

عالم لاہوت پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک بدعتی پیر اپنے مریدوں پر رعب جما رہا تھا کہ میں عالم لاہوت، عالمِ ملکوت اور عالمِ جبروت کی سیر کر رہا ہوں، اس مجلس میں ایک صحیح العقیدہ بزرگ بھی موجود تھا ان سے اس پیر نے پوچھا کہ آپ کس عالم میں ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو عالم کھا ہوت میں رہتا ہوں

یعنی خوب کھاتا ہوں اور یہ دراصل انہوں نے اس پر چوٹ کی کیونکہ جعلی پیروں کا مقصد کھانا پینا اور پیسے بنانا ہے۔

خیر یہ تو ایک لطیفہ کی بات تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو کیسے پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! سامنے جو پتھر کی چٹان سے اس پر لاٹھی مارو۔ آپ نے لاٹھی ماری تو پتھر کی ایک چٹان اڑ گئی، حکم ہوا کہ اور مارو دوسری بار لاٹھی ماری تو چٹان کی ایک اور تھہ اڑ گئی پتھر حکم ہوا کہ اور مارو تیسرا بار پوری چٹان ٹوٹ گئی تو دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جس کے منه میں تازہ گھاس کا ہر اپتہ ہے اور وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا:

﴿سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرُفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي﴾

پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میری بات کو سن رہا ہے اور جو میرا گھر جانتا ہے اور جو مجھ کو رزق پہنچاتا ہے اور جو مجھ کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہوا ہے۔

سوال یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ہم کو اللہ کی پہچان کیسے ہو گی کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو آگے فرماتے ہیں کہ رب العلمین میں سارے عالم کا رب ہوں میری ربوبیت سے مجھے پہچانو۔ رب کے معنی ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا:

﴿الَّذِي يَجْعَلُ النَّاقِصَ كَامِلاً شَيْئًا فَشَيْئًا أَىٰ عَلَى سَبِيلِ التَّدْرِيج﴾

جونا قص کو آہستہ آہستہ کامل بنادے، بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے آہستہ آہستہ پندرہ سال کا جوان ہو جاتا ہے، زمین میں آپ درخت کا نجذب ڈالتے ہیں جس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جو آہستہ آہستہ پورا درخت بن جاتا ہے اسی طرح سلوک میں ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہی سلسلہ میں داخل ہوئے اور آج ہی جنید بغدادی بن جائیں اس لیے جلد بازی اور تعجیل مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب الاجسام بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں خالق الارزاق البدنية بھی ہیں اور خالق الارزاق الروحانية بھی ہیں یعنی ہمارے جسم کو بھی غذا دیتے ہیں اور ہماری روح کو بھی غذا دیتے ہیں، جسمانی غذا میں باپ کے ذریعہ دیتے ہیں اور روحانی غذا انبیاء اور اولیاء کے ذریعہ دیتے ہیں اور وہ ذکر و عبادت ہے جس سے رفتہ رفتہ تربیت ہوتی ہے، جس طرح جسم پندرہ سال میں بالغ ہوتا ہے تو روح کے بالغ ہونے میں بھی کچھ زمانہ لگے گا۔ یہی شانِ ربوبیت ہے اور یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ الحمد للہ کی دلیل رب العلمین ہے اگر کوئی بچہ پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ آپ ہمارے اماں ابا ہیں تو ماں

باپ کہیں گے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں یہ پالنا ہی دلیل ہے کہ ہم تمہارے اماں ابا ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان رب العلمین ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، تمہارے پالنے کے لیے میں نے زمین و آسمان چاند سورج بادل اور ہوا میں سارا نظامِ کائنات پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگادیا ہے، ایک لقمه جو تمہارے منہ تک پہنچتا ہے اس میں زمین و آسمان چاند اور سورج بارش اور ہوا میں غرض پوری کائنات خدمت میں لگی ہے تب ایک لقمه تیار ہوا ہے الہذا میری ربویت دلیل ہے میری الوہیت کی، تمہیں پالنا دلیل ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں تمہاری پرورش میں پوری کائنات کو میں نے تمہارا خادم بنادیا تو سوچو کہ تم کس لیے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الدُّنْيَا خُلُقتُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلُقْتُمْ لِلآخرَةِ﴾

(تخریج احادیث الاحیاء، رقم الحدیث: ۳۱۸۷)

یعنی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اب رو با د و مہہ و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانے بکف آری و بغلت خوری
ہمہ از بھر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری

بادل اور ہوا میں اور چاند سورج تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تا کہ جب تو روئی ہاتھ میں لے تو غفلت سے نہ کھائے، سارا جہاں تیرا مطیع و فرمان بردار بنا دیا گیا تو یہ سخت ظلم ہے کہ ایسے محسن مالک کی تو فرمان برداری نہ کرے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، میں تمہارا رب تو ہوں لیکن رحمن و رحیم بھی ہوں، میری ربویت شان رحمت کے ساتھ ہے، دیکھو میں تمہیں کتنی رحمت سے پال رہا ہوں۔ ایک بڑھی ذرا سا چاقو بناتا ہے تو پہلے لو ہے کوآگ میں ڈالتا ہے پھر ہتھوڑے مارتا ہے۔ بتاؤ جب میں نے تم کو بنا یا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ہتھوڑے لگائے اور کس آگ میں جلا یا؟ اس رحمت سے پیدا کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب کانِ فٹ ہو رہے ہیں، کب آنکھیں لگ رہی ہیں، کب زبان بن رہی ہے، کب دل لگا رہا ہوں۔ آہ! تمہارا میٹریل تو باپ کا نطفہ اور ماں کا جیض تھا جس پر تمہارے اعضاء کی تشکیل کی جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی۔

رب العلمین کے بعد الرحمن الرحیم نازل کر کے بتا دیا کہ میری ہر ادائے ربویت میں

شان رحمت شامل ہے، ہر ادائے تربیت میں شانِ رحمانیت اور شانِ رحیمیت ہوگی۔ رحمن اور حیم میں کیا فرق ہے؟ رحمن کے معنی ہیں مہربانی کرنے والا اور حیم کے معنی ہیں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بار بار رحمت کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمن میں جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر سب پر عام ہے، اسی صفتِ رحمانیت کے صدقے میں دنیا میں کافر رزق پار ہا ہے، اگر شانِ رحمانیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روئی نہ دیتا غرض صفتِ رحمانیت مشترک ہے مومن اور کافر کے درمیان اور حیم خاص ہے مومنین کے لیے، شانِ رحیمیت صرف مومنین کے لیے ہے لہذا مومنین جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾

(سورة فصلت، آیت: ۳۲)

یہ مہمانی ہے غفور رحیم کی طرف سے۔

دوسرافرق علامہ آلوسی السید محمد بغدادی نے یہ بیان کیا ہے کہ رحمانیت کی شان کبھی ممزوج بالالم ہو سکتی ہے یعنی اس رحمت میں تکلیف کی آمیزش ہو سکتی ہے جیسے گردے کی پھری نکالنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے اس میں بھی رحمت ہے کہ پھری نکل جائے گی مگر اس میں تکلیف شامل ہے اور حیم میں وہ صفت رحمت ہے جو کبھی ممزوج بالالم نہیں ہوتی۔ جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ نازل فرمایا یہاں رحمن نازل نہیں فرمایا کیونکہ جنت میں کوئی الم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن وہاں کی خوشیاں انہی کو میں گی جو یہاں اللہ کے لیے غم اٹھاچکے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے نچھے کاغم اٹھایا ہے، عبادت کی مشقت برداشت کی ہے۔ اس لیے جب جنت میں پہلا قدم داخل ہوگا تو ہر جنتی کے منہ سے یہ بات نکلے گی:

﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذَّهَبَ عَنَا الْحَزَنَ﴾

(سورة الفاطر، آیت: ۳۲)

شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو اٹھالیا کہ آج غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے، اب کبھی غم کا تصور بھی نہ ہوگا۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شانِ رحیمیت کا مظہر بنائے اپنی وہ شانِ رحمت دے جو کبھی ممزوج بالالم نہیں ہوتی یعنی اے خدا! اپنی شانِ رحیمیت کے صدقے میں ہمیشہ ہم کو عافیت سے رکھئے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیجئے۔

ملِکِ یوْمِ الدِّيْنِ میں بتایا کہ میں قیامت کے دن تابعِ قوانین نہیں ہوں گا قیامت کے دن کا مالک ہوں گا۔ اُس دن میری حیثیت قاضی اور رجج کی نہیں ہوگی مالک کی ہوگی۔ دنیا کی عدالت کے قاضی

اور قاضی القضاۃ یعنی سپریم کورٹ کے جسٹس اور چیف جسٹس سب قوانین و فرمانیں سلطنت کے پابند ہوتے ہیں، پابند قانون مملکت ہوتے ہیں، قانون کے دائرے کے خلاف نہیں جاسکتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں قاضی اور حجج کی حیثیت سے فیصلے نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن کامالک رہوں گا جس کو چاہوں گا بخش دول گا جس کو چاہوں سزادوں گا، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، تابع قانون نہیں ہوں بلکہ مالک ہوں جس کو چاہوں سزادوں جس کو چاہوں بخششوں، بخشش کے لیے بس ایمان شرط ہے۔ اگر قانون کی رو سے کوئی بخشش نہیں پار ہا ہے تو جس کو چاہوں گا اپنے مر架م خسر وانہ، اپنے شاہی رحم سے بخش دول گا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالقدار صاحب تفسیر موضع القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرشِ اعظم کے سامنے لکھایا ہوا ہے سَبَقْتُ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ یعنی میری رحمت اور میرے غصہ میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت غصہ سے آگے بڑھ گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ از قبیل مر架م خسر وانہ یعنی شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے تا کہ جو بندے قانون کی رو سے مغفرت نہ پائیں میں ان کو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں جس طرح اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ سزادے موت کے مجرم نے سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر شاہ سے رحم کی اپیل کر دی۔ بادشاہ کو قانوناً اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن دنیا کے بادشاہ معاف کرنے میں بھی پابند قانون ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ملکِ یوْمِ الدِّین فرمادیا کہ میں قیامت کے دن کامالک رہوں گا، قوانین کا پابند نہیں رہوں گا جس کو چاہوں گا سزادوں گا جس کو چاہوں گا اپنے مر架م خسر وانہ سے، شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔

آگے ہے ایاکَ نَعْبُدُ وَ ایاکَ نَسْتَعِينُ جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی لغت کے قاعدہ کے مطابق یہاں حصر کے معنی پیدا ہو گئے پس اگر کوئی شخص یہ ترجمہ کرے گا کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ترجمہ غلط ہو گا، حصر کے معنی کے لیے ”ہی“ یا ”صرف“ لگانا ضروری ہے یعنی ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ بتولوں کو پوچھتے ہیں نہ پھرولوں کو پوچھتے ہیں، نہ درختوں کو پوچھتے ہیں، نہ سورج اور چاند کو پوچھتے ہیں، نہ آسمان و زمین کو پوچھتے ہیں، اے خدا ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا صرف آپ کے لیے خاص ہے، ہم کہیں اپنا سر نہیں رکھ سکتے مگر آپ کی چوکھٹ پر۔ اسی کو میں نے اس شعر میں کہا ہے۔

ہمارا مرکزِ امید رحمت آپ کا در ہے
کسی کے در پر تو یارب یہ پیشانی نہیں جاتی

ایک ہندو نے ایک مسلمان سے اعتراض کیا کہ جب تم حج کو جاتے ہو تو تم بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہو، کعبہ کے سامنے بھکتے ہو۔ مسلمان نے جواب دیا کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے رب البت کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ شعر پڑھا۔

کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر

سر رکھا ہے ہم نے درِ جانانہ سمجھ کر

یعنی ہم نے سر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سمجھ کر، ہم اس پتھر کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم گھر کو سجدہ نہیں کرتے گھر والے کو سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے صاحب خانہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں۔

حج کردن زیارتِ خانہ بود

حج ربِ البت مردانہ بود

عام لوگوں کا حج خانہ کعبہ کی زیارت ہے، بیت الرَّب کی زیارت ہے اور یہ بھی نعمت ہے لیکن رب البت کا طواف کرنا، طواف میں گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس کو جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بیت اللہ میں لطف اور مزہ آتا ہے، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی اس کی روح کی پرواز عرشِ اعظم تک ہوتی ہے اور بیت الرَّب میں گویا وہ رب البت کو دیکھتا ہے لیکن افسوس کہ وہاں بھی کچھ لوگ طواف کرنے والی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی کرگسیت کا ثبوت دیتے ہیں، گندے لوگ وہاں بھی گندہ عمل کرتے ہیں اور اللہ والے تخلیاتِ الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

ایاَكَ نَعْبُدُ كَمْعْنَىٰ هُوَ كَهْدَاءَهُمْ آپُهُيَ كَيْ بَنْدَگِيَ كَرْتَهُ ہیں او رَا سَنَدَهُ بَھِيَ كَرِيْسَ گے لیکن نَعْبُدُ مِنْ جُو ضَمِيرِ ہے نحن اس میں ایک لطیف علم ہے کہ ہم اپنے قلب کے اعتبار سے، اپنے قالب کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے یعنی بجمعیع اعضاء بدن و بجمعیع اعضاء باطن آپ کے بندے ہیں اور آپ، ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم سر سے پیر تک، ظاہر سے باطن تک آپ کے بندے ہیں کیونکہ بندہ بجمعیع اعضاء و بجمعیع اجزاء ہ بندہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود تو بندہ ہو اور اس کے اعضاء بندگی سے آزاد ہو جائیں میں لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں آزاد ہو جائیں کہ جس حسین کو چاہیں دیکھیں، کان آزاد ہو جائیں کہ جو گانا چاہے سنیں، قلب آزاد ہو جائے کہ گندے خیالات پکائے، جب گل بندہ ہے تو جو کسیے بندہ نہ ہو گا پس نَعْبُدُ کی ضمیر میں لطیف اشارہ ہے کہ ہم جو مجموع ہیں ظاہر و باطن کا، قلب و قالب کا، جسم و روح کا ہم

آپ کے بندے اور غلام ہیں الہذا ہماری آنکھیں اور کان اور تمام اعضاء آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہماری آنکھیں آپ کی مرضی کے خلاف کسی حسین کو نہیں دیکھیں گی، کان وہی سنیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے، زبان وہی کہے گی جس سے آپ ناراض نہ ہوں گے، دل وہی غم اٹھائے گا جس غم سے آپ خوش ہوں گے یعنی گناہ چھوڑ نے کاغم اور وہی سوچے گا جس سے آپ ناراض نہ ہوں۔

پس جسم و قلب و جان کے اعتبار سے ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں الہذا ہمارا کوئی جزو، کوئی عضو آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا کیونکہ نافرمانی کرنا عبادت کے منافی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِنْتَ هَنَّ سَلُوكٌ** ہے، سلوک کی منتهاء ہے کیونکہ جب عبدیت کامل ہو جائے تو سمجھ لو سلوک طے ہو گیا، بندہ منزل کو پا گیا، جس کی بندگی کامل ہو جائے یعنی جس کے ظاہر و باطن پر، قلب پر، قالب پر، جسم و جان پر اللہ کی بندگی کے آثار ظاہر ہو جائیں یعنی ظاہر بھی فرمائیں دار ہو جائے اور باطن بھی فرمائیں دار ہو جائے وہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کا مصدق ہو گیا، پھر اس کے گال پر بلید نہیں چل سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گال بھی بندہ ہے، ڈاڑھی ایک مشت سے کم نہیں ہو سکتی، آنکھیں بذری نہیں کر سکتیں، دل گندے خیال نہیں پکا سکتا، مراد یہ ہے کہ اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی میں وہ بتلا نہیں ہو گا، اگر احیاناً کبھی خطا ہو گئی تو اس کو چین نہیں آ سکتا جب تک توبہ نہ کر لے تو سمجھ لو کہ اس کو **نَعْبُدُ** کا مقام حاصل ہو گیا، اس کا سلوک طے ہو گیا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک سوال قائم کیا کہ **نَعْبُدُ** جمع متکلم ہے جو ہم ہر نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن جب اکیل نماز پڑھتے ہیں تو واحد متکلم کے بجائے **نَعْبُدُ** ہی پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس کا جواب علامہ آلوسی نے خود ہی دیا کہ مفرد نماز میں بھی جمع متکلم کا صیغہ **نَعْبُدُ** اس لیے ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری عبادت قصور، کوتا ہیوں اور تقصیرات سے مملوء ہے اور آپ کی عظمت کے شایان شان نہیں اس لیے ہم اپنی تہبا عبادت پیش نہیں کرتے بلکہ روئے زمین کے اولیاء اللہ کی مقبول نمازوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے پیاروں کی مقبول عبادت کے ساتھ ہماری عبادت کا کھوٹا مال بھی آپ قبول فرمائیں۔

پس **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** میں بندوں کی طرف سے اعلان ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن اس معاملہ میں ہم کبھی کبھی نفس و شیطان سے ہار جاتے ہیں اور اپنی نالائقی اور کمیتہ پن سے نفس و شیطان کی گود میں چلے جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں نظر خراب کر لیتے ہیں، کبھی تہبا یوں میں دل خراب کر لیتے ہیں، ہم آپ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری عبادت ہر وقت علی معرضِ الخمر ہے۔ پس

ادائے بندگی کے لیے اور بندہ بن کر رہنے کے لیے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہماری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے، اگر آپ نے اعانت نہ کی تو ہماری عبادت خاک میں مل جائے گی، نہ توفیق ہو گی نہ قول ہو گی۔

حضرت ڈاکٹر عبدالجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو عبادت میں کمزوری اور سستی ہو رہی ہو اور گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو وہ کثرت سے ایٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا رہے کہ اے خدا ہم آپ کے غلام تو ہیں مگر حق غلامی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی مدد ہمارے شامل حال فرماد تھے، ہماری عبادت (خواہ ثبت ہو یا متفہی یعنی نماز روزہ ہو یا گناہوں کو چھوڑنا) آپ کی اعانت کی محتاج ہے۔ اس آیت کے ورد کی برکت سے ان شاء اللہ ہم روز بروز صالح ہوتے چلے جائیں گے۔

آگے سکھا رہے ہیں کہ کوہا دینا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، ہدایت دیجئے ہم کو صراطِ مستقیم کی۔ اور ہدایت کے دو معنی ہیں (۱) اراءۃ الطریق راستہ دکھادینا اور (۲) دوسرے معنی ہیں ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچادینا اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھادیا کہ تمہاری منزل وہ ہے یہ اراءۃ الطریق ہے اور دوسرے یہ کہ کار میں بیٹھا کر منزل تک پہنچادیا یہ ایصال الی المطلوب ہے تو اس ہدایت میں دونوں معنی مراد ہیں یعنی ہمیں راستہ بھی دکھائیے اور منزل تک یعنی اپنی ذات تک بھی پہنچائیے اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کا خوش ہوجانا۔ مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد توفیق امثال اور امر اور توفیق الانتہاء منا ہی ہے یعنی اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور توفیق کے معنی ہیں کہ بھلائی کے اسباب سامنے آجائیں اور بھلائی کے راستے آسان ہو جائیں اور شر کے راستے مسدود ہو جائیں اور طاعات کی قدرت پیدا ہو جائے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ جس کو صراطِ مستقیم مل گئی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کیونکہ صراطِ مستقیم کا ایک سراز میں پر ہے اور دوسرا سراجت میں ہے لہذا جس کو اللہ نے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو سمجھ لو کہ وہ جنتی ہو گیا، جنت کے راستے کا نقطہ آغاز اور پہلا قدم اس کا شروع ہو گیا۔

لیکن یہ صراطِ مستقیم کہاں ملے گی، سیدھے راستے پر چلنا کب نصیب ہوگا؟ اگلی آیات میں صراطِ مستقیم کا پتہ بتا دیا صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی راستے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا اور انعام سے کیا مراد ہے؟ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کیا وہ جو ڈیفس میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بیگلوں اور کاروں اور شراب کباب والے؟ ہرگز یہ مراد نہیں ہیں پھر وہ منعم علیہم (انعام یافتہ) کون ہیں؟ اس کی تفصیل دوسری آیت میں فرماتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی

ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ﴾

(سورة النساء، آیت: ۲۹)

یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام نبوت، انعام صدقیقت، انعام شہادت، انعام صلحیت عطا فرمایا ان کی صحبت سے تمہیں صراطِ مستقیم ملے گی، سیدھے راستہ پر چلتا تمہیں تب نصیب ہو گا جب تم میرے خاص بندوں پر غیر، صدیق، شہداء اور صالحین کو اپنارفیق بناؤ گے کیونکہ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری فرماتے تھے کہ یہ جملہ خبر یہ تو ہے لیکن اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے کہ ان کو اپنا ساتھی اور رفیق بنالو۔ جیسے ہم کہتے ہیں اور اپنے دوست کو خبر دیتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بہترین شامی کتاب پکا ہے گرما گرم! تو اس جملہ خبر یہ میں انشائیہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ آؤ کھالو۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ یہ بہت اچھے رفیق ہیں اس میں یہ انشاء ہے کہ ان کو اپنارفیق بنالو۔ علامہ محمود نسفی نے تفسیر خازن میں لکھا ہے حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا افعال تعجب میں سے ہے یعنی مَا أَحْسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ کیا ہی پیارے رفیق ہیں، جو انشاء پر دلالت کرتا ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو رفیق تو بناو لیکن حَسْنَ فرماد کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ تمہاری رفاقت حسین ہو، حسن رفاقت ہو اور وہ حسن کیا ہے؟ وہ اتباع، محبت و عظمت اور ادب ہے، اپنی رائے کو فنا کرنا اور ان کی مرضی پر چلنا، خالی جسم سے ساتھ مت رہو کہ ان کے دسترنخان پر اندا اور مرند اور پسندہ کتاب کو مطلوب بنالو ورنہ جسم تو منافقین کا بھی ساتھ تھا لیکن دل نبی کے ساتھ نہیں تھا الہذا محروم رہے۔ اس لیے دل سے اہل اللہ کے ساتھ رہو، دل سے ان سے محبت کرو، ان سے تقویٰ سکھو، صراطِ مستقیم پا جاؤ گے۔ اسی کو بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

بے رفیقہ ہر کہ شد در راہِ عشق

عمر بگذشت و نہ شد آگاہِ عشق

اللہ کی محبت کے راستے میں جو کسی اللہ والے کو رفیق نہیں بنائے گا اس کی عمر گذر جائے گی مگر اللہ کی محبت نہیں پائے گا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید عطار نے اس شعر میں لفظ رفیق قرآن پاک کی اسی آیت حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سے لیا ہے۔ اہل اللہ کا کلام قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتا ہے مگر ہماری نظر نہیں جاتی۔

اس کے بعد ایک نجوی مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ترکیب میں صراطِ مستقیم مبدل منہ ہے اور اس کا بدل الکل من الکل صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اور ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ان کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے، جو شخص خاصاً خدا کو چھوڑ کر حض کتاب سے راستے طے کرنا چاہے گا اسے صراطِ مستقیم نہیں مل سکتی، صراطِ مستقیم کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ضروری ہیں اسی لیے ہر کتاب کے ساتھ انبیاء بھیجے گئے۔ پس انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین یعنی اللہ والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔

مستند رستے وہی مانے گئے

جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے اور اہدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مبدل منہ ہے جو نجوی قاعدہ سے غیر مقصود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں غیر مقصود کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب حضرت حکیم الامم مجدد الملت مولانا تھانوی دیتے ہیں کہ نجوی قاعدہ سے اگرچہ مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بھی مقصود ہو گیا کیونکہ اہدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ایک صفت ایسی رکھ دی جو بدل میں نہیں ہے اور وہ ہے مستقیم۔ پس یہاں مبدل منہ بھی غیر مقصود نہ رہا کیونکہ اگر یہ نازل نہ ہوتا تو اہل اللہ کی صفت استقامت کا پتہ نہ چلتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت و فصاحت جس کے سامنے علماء نجات کے سارے قانون ٹوٹ گئے کہ صراطِ مستقیم میں لفظِ مستقیم نازل فرمائ کر اور بدل میں نازل نہ فرمائ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں مبدل منہ کو بھی مقصود بنادیا۔

پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کو معین فرمادیا کہ انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے، تمام انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے اور انبیاء وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ باقی صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ مقامِ صدیقین کی جو آخری سرحد ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ اُمت میں سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ وحی میں نازل ہوا صدیق کا دل خود بخود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے اور شہید وہ ہیں جو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور صالحین وہ ہیں جو قبیع سنت و شریعت ہوتے ہیں، انہی چار طبقوں کو عرف میں اللہ والا کہا جاتا ہے۔

انہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم فرمایا لیکن اگلی آیت میں دلالۃ یہ بھی بتادیا کہ اہل اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے تمام راستے صراطِ مستقیم نہیں ہیں **غَيْرُ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالِحُونَ** یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ کھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین لکھتے کہ مغضوبین سے مراد یہودی ہیں اور صالحین سے مراد انصاری ہیں کیونکہ یہود نفسانی اغراض اور دنیا کے حقیر و ذلیل مفادات کی خاطر احکام دین کو ٹھکرایتے اور انبیاء کی اہانت بلکہ قتل تک کر دیتے تھے اس لیے مور و غضب ہوئے اور انصاری جہالت اور نادانی کے سبب غلو میں بمتلاء ہو گئے یہاں تک کہ نبی کو خدا بنالیا اور گمراہ ہو گئے۔

پس مطلب یہ کہ اے اللہ ہم آپ کے غیروں کا راستہ نہیں چاہتے آپ کے پیاروں کا راستہ چاہتے ہیں۔

غیر ہے غیر، غیر کچھ بھی نہیں
آپ ہیں آپ، آپ سب کچھ ہیں

لہذا غیروں کے ساتھ نہ رہا پنوں کے ساتھ رہو، غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ، نہ ان کی سیرت اپناو۔ اپنا مرکز لندن نہ بنائیے، ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ لندن میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھار ہے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ ارے یہ دیکھو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، صحابہ کرام نے کیسے کھایا۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک دعوت میں لوگ کھڑے ہو کر کھار ہے ہیں تو فرمایا کہ آج ہمیں اس آیت کے معنی سمجھ میں آگئے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نازل فرمائی تھی:

﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾

(سورة الاعراف، آیت: ۱۷۹)

یہ جانور کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانور بھی کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَحَدُّو الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ وَ اُولَيَاءٰ﴾

(سورة المائدہ، آیت: ۵۱)

اے ایمان والو! یہود یوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرنا اور نہ ان کی دشمنی کے جراثیم تھا رے اندر گھس جائیں گے۔ علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان موالات اليہود والنصاری تورث الارتداد یہود و نصاری سے موالات اور دوستی تمہیں ارتدا دیں مبتلاء کر دے گی۔ ان سے معاملات جائز

لیکن موالات حرام ہے یعنی ان سے لیں دین، تجارت اور کاروبار کر سکتے ہو لیکن دل سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے لوسلم الکافر تبجیلا لاشک فی کفرہ اگر کسی نے اکرام کے ساتھ کافر کو سلام کر لیا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ میرے شیخ کے پاس ایک ہندوڈا کیا آتا تھا، کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض توجواب میں حضرت فرماتے تھے آ..... داب اور مجھ سے فرماتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آ اور میرا پیر داب تا کہ اکرام کا فر لازم نہ آئے۔ لیکن افسوس آج کل الثامعالہ ہے کہ آج مسلمان بعض اوقات کفار سے معاملات کا باپیکٹ کرتے ہیں لیکن دل سے ان کے ساتھ موالات اور محبت رکھتے ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ غیر وہ کے طور طریقے، وضع قطع اور عادات و اطوار اپناتے ہیں حالانکہ شریعت نے موالات کو حرام کیا ہے معاملات کو جائز کیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرمार ہے ہیں کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلو۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہماری ہر نماز کے ساتھ لازم فرمادیا، کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ ہو کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی اور اپنے بندوں کا جو تعلق ہے اس کو بیان فرمایا کہ تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے اور بندوں کو اپنی ذات کے ساتھ رابطہ عطا فرمانے کے مضامین نازل فرمائے۔

اس سورہ میں شفاء کا زبردست اثر ہے، کینسر تک کے مريضوں کو اس سے شفاء ہو گئی اور ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کیسا ہی مرض ہو سورہ فاتحہ اب اور یا سلام ۱۴۲۲ بار پڑھ لے ان شاء اللہ شفاء ہو گی۔ اسی طرح بالغی کینسر یعنی گناہوں سے نجات کے لیے بھی یہ سورہ اکسیر ہے۔ اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ ہر معصیت اور ہر مصیبۃ سے محفوظ فرم، آمین۔ (غیر مطبوعہ ملفوظات سے مآخذ)

ذکورہ سورۃ کی مزید تشریع

آیت نمبر ا

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۝۰ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۝۰ ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ۝۰ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۝۰۰ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۝۰ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۝۰﴾
(سورۃ الفاتحة)

الحمد للہ کی چار تفہیمیں

الله سبحانہ، و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اپنی عظمت شان بیان فرمائی کہ دنیا میں جتنی تعریفیں

ہوتی ہیں حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔

پس ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ نے یہ ہمیں بلا استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ انسان کے کمالات کیا ہیں، سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد کی چار تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ اب منطق سن لیجئے۔ تعریف کی چار قسمیں ہیں:

(۱) بندہ بندے کی تعریف کرے۔

(۲) بندہ اللہ کی تعریف کرے۔

(۳) اللہ بندہ کی تعریف کرے۔

(۴) اللہ خودا پنی تعریف کرے۔

ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں۔ (انعامات الہیہ، صفحہ: ۱۳)

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد للہ کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ تعریف کی جو چار قسمیں ہیں یعنی بندہ اللہ کی تعریف کرے یا اللہ بندہ کی تعریف کرے یا بندہ کی تعریف کرے یا اللہ خود اپنی تعریف کرے، تعریف کی یہ چاروں قسمیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ الحمد للہ میں لام تخصیص کے لیے ہے۔ اور اللہ کو کیسے پہچانو گے؟

معرفتِ الہیہ کا تعلق ربوبیتِ الہیہ سے

اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا طریقہ آگے بتلا دیا کہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو رب العالمین ہے، پروردگار ہے تمام عالم کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان چاند و سورج سیارے، پہاڑ، دریا اور سمندر اور عالم کی عجیب و غریب مخلوقات حق تعالیٰ کی واحد نیت و ربوبیت پر شہادت دے رہے ہیں حتیٰ کہ درختوں کے پتوں اور پھول کی پنکھیوں کے باریک باریک رگ و ریشے سب میں حق تعالیٰ کی ربوبیت کا کفرما ہے۔ لہذا الْحَمْدُ لِلّهِ کے بعد رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا کہ اگر تم ہمیں پہچانا چاہتے ہو، ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری صفتِ ربوبیت کو دیکھو کیونکہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ میں ہماری ربوبیت کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ ایک ناپاک قطرہ منی پر کیسی بجیہ گری اور کیسے کیسے عجیب تصرفات ہم نے کیے ہیں، ایک قطرہ میں بینائی، شنوائی، گویائی کے خزانے کس نے رکھے ہیں، ایک بے جان قطرہ کو گوشت پوست کا انسان کس نے بنایا؟

﴿وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾

(سورة الداريات، آية: ۲۱)

کیا تم اپنی ذات میں ہمیں نہیں دیکھتے ہو۔

مری ہستی ہے خود شاہد و جو دو ذات باری کی

دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رہ ہو نہیں سکتی

لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَفَكَّرُوا فِي خُلُقِ اللهِ مَخْلوقاتِ اللہِ تَعَالٰی کی روایت اور پروش کا مظہر ہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو لیکن وَ لَا تَنْفَكَّرُوا فِي اللهِ اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا فَإِنَّكُمْ لَمْ تَقْدِرُوا قَدْرَةً (خطبات الاحکام، حوالہ الترغیب والترہیب) اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو غیر محمد و ذات کو اپنی عقل کی چھوٹی سی ڈبیہ میں لا نہیں سکتے ہو۔ (ابن اللہ اور صراطِ مستقیم، ص: ۷)

ربوبیتِ الہیہ کا رحمتِ الہیہ سے ربط

لیکن سب سے بڑی نعمت الحمد لله رب العلمين کے بعد الرحمٰن الرحيم ہے کہ میں نے تمہاری پروش رحمت سے کی ہے۔ شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لوہا را گرپیچی بناتا ہے، چاقو بناتا ہے تو لو ہے کوآگ میں ڈالتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑے مارتا ہے تب جا کے قپچی چاقو بناتا ہے۔ لیکن اے طالمو! اے مجھ کو بھولنے والو! ماوں کے پیٹ میں میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے، اس طرح سے تمہاری ترکیب و تربیت کی، اس طرح سے تمہیں بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا اور تمہاری ماں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ کب آنکھیں بن رہی ہیں اور کب کان بن رہے ہیں اور کب سینہ میں دل رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ارحم الرحیمین کی یہ علامت ہے کہ کس رحمت سے تم کو پیدا کیا، کس رحمت سے بنایا!

ملِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں شانِ عظمت و شانِ رحمتِ الہیہ کا ظہور

بھر ملِکِ یَوْمِ الدِّینِ فرمایا کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا۔ اس دن میری حیثیت منصف اور حج کی نہیں ہوگی۔ حج قانونِ مملکت کا پابند ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قانون اور سلطنت اور قوانین کا پابند اور غلام نہیں ہوں۔ میں مالک رہوں گا قیامت کے دن کا۔ اگر میرے قانون سے کوئی بخشانہ جاسکا تو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا یہ ہے ملِکِ یَوْمِ الدِّین کا راز۔

حس کو شاہ عبدالقدار صاحب رحمة اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث رحمة اللہ علیہ کے بیٹے نے فرمایا کہ

عِرْشِ عَظِيمٍ كَسَانِي لَكُمَا هُوَا هُوَ - سَبَقَتْ رَحْمَتُ عَلَى غَضَبِي مِيرِي رَحْمَتُ اُورَمِيرِي غَصَّهُ مِنْ جُودِهِ
هُوَيَ تُو مِيرِي رَحْمَتُ آگے بُڑھَگئی۔ شاہ عبدالقدار صاحب مصنف تفسیر موضع القرآن اور شاہ ولی اللہ صاحب
کے بیٹے لکھتے ہیں کہ عِرْشِ عَظِيمٍ پَرَاللَّهُ نَعَمْ يَكُونُ لَكُمَا يَا يَهُ شَاہِي رَحْمَ كَطُورِ پَرَلَكُھَا يَا يَهُ اس کا
نَامَ کیا ہے؟ از قبیلِ مَرَاحِمِ خَرْوَانَه۔ مَرَاحِمِ جَمْ ہے رَحْمَتُ کی۔ از قبیلِ مَرَاحِمِ خَرْوَانَه کے معنی ہیں شَاہِي رَحْمَ کے
طُور پر۔ اگر مِيرِا کوئی بندہ قانون سے نہ بخشنادا جاسکا تو میں اپنے شَاہِي رَحْمَ کو محفوظ رکھتا ہوں، اس شَاہِي رَحْمَ سے
اس کو معاف کر دوں گا جیسے جب کوئی مجرم قانون سے نجات نہیں پاتا اور سپریم کورٹ سے چنانی کی قطعی سزا
ہو جاتی ہے تو اب آگے کیونکہ کوئی اور عدالت نہیں ہے الہذا سلطانِ مملکت سے رَحْمَ کی درخواست کرتا ہے اور
خبروں میں آ جاتا ہے کہ مجرم نے سپریم کورٹ میں ہارنے کے بعد چنانی کی سزا سن کر اب مملکت کے
باڈشاہ سے رجوع کیا اور شَاہِي رَحْمَ کی بھیک مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شَاہِي رَحْمَ کی بھیک کو محفوظ کر لیا۔

آه! ملکِ یَوْمِ الدِّینِ کا راز سن لجھے۔ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ حج قانون کا پابند ہوتا
ہے۔ مالک پابند نہیں ہوتا۔ اللہ کی قضاۃ اللہ کے سامنے مکوم ہے۔ قضاۓ الہی یعنی اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ پر
حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا رومی کا عنوان ہے کہ اے خدا! آپ کی قضاۓ آپ کی مکوم ہے آپ پر حاکم نہیں
ہو سکتی اس لیے سو قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرمادیجھئے۔

نفس وشیطان کی غلامی سے آزادی کی درخواست

اور آگے بیان فرمایا کہ ایا کَ نَعْبُدُ وَ ایا کَ نَسْتَعِينُ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم نفس
اور شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ (ابل اللہ او صراطِ مستقیم، صفحہ: ۲۲)

صراطِ مستقیم منعم علیہم کا راستہ ہے

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اَللَّهُمَّ كُو سیدھا راستہ دکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اس کا بدل صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے یعنی اے اللہ! جن پر آپ نے انعام
نازل کیا جو آپ کے پیارے بندے ہیں۔ ان کا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نازل فرمारہے ہیں کہ سیدھے
راستہ کا خواب مت دیکھنا خالی کتابوں سے، سیدھے راستہ کا خواب مت دیکھنا اسبابِ دنیویہ سے، سیدھا
راستہ ان کا ہے جن کو میں نے انعام سے نوازا ہے جو میرے مقرب بندے ہیں۔ (ابل اللہ او صراطِ مستقیم، صفحہ: ۲۲)

﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ

وَ حَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

(سورۃ النساء، آیة: ۲۹)

انعام یافتہ بندے کوں ہیں؟

انعام کیا ہے؟ کلپن کے بنگلے؟ نہیں! کتاب اور بریانیاں؟ نہیں! پھر انعام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ میں نے جن پر انعام نازل کیا وہ انعام کیا ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ جن کو نبوت عطا کی وَالصَّدِيقِينَ جن کو اپنا صدقیت بنایا۔ وَالشَّهِدَاءِ جن کو جام شہادت نوش کرنے کا شرف بخشا۔ وَالصَّلِحِينَ جن کو نیک اور صالح بنایا تو نبوت، صدقیت، شہادت اور صالحیت چار نعمتیں جن کو حاصل ہیں سید ھر استہ مراستہ سے ان کا راستہ مراد ہے۔

صراطِ مستقیم کے لیے منعم علیہم بندوں کی رفاقت شرط ہے

ان سے تعلق قائم کرو وَ حَسْنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین رفیق ہیں۔ جملہ خبر یہ صورتِ امر میں ہے یعنی ہے تو خبر مگر اندر انشاء پوشیدہ ہے یعنی جب تم ان اللہ والوں کو، ان انعام یافتہ لوگوں کو اپنارفیق، اپنا ساتھی بناؤ گے تب جا کر تم کو صراطِ مستقیم ملے گی اور رب خدامے گا الہذا ان کو اپنارفیق بنالو۔

علامہ محمود نسفي نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ یہاں حَسْنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا معنی میں افعالِ تعجب کے ہے۔ یعنی ماَ اَحْسَنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا کیا ہی پیارے یہ رفیق ہیں۔ یہ حسن معنی میں ماَ اَحْسَنَ کے ہے ماَ اَحْسَنَهُ وَ اَحْسِنُ بِهِ، ماَ اَفْعَلَهُ وَ اَفْعِلُ بِهِ دو صیغے افعالِ تعجب کے ہیں۔ مطلب یہ کہ سبحان اللہ! کتنے پیارے لوگ ہیں یہ اللہ والے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ خالی خبر ہے یا اس میں انشاء پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آج میرے یہاں گرما گرم کتاب تیار ہے تو کیا مہمان اس کو خالی خبر سمجھے گا یادِ عوت بھی سمجھے گا۔ آہ! اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگو! میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے مقبول بندوں کو جلدی سے اپنا ساتھی بنالو۔ مگر اس رفاقت میں حسنُ الدُّنْا حَسْنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا حسین رفاقت اختیار کرنا۔ حسین رفاقت جب ہوتی ہے جب اتباع بھی ہو۔ اپنے رفیق و مرتب کے مشوروں پر عمل بھی کیا جائے۔ وہ شخص حسن رفاقت سے محروم ہے جو شیخ کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ نفس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔

صراطِ منعم علیہم صراطِ مستقیم کا بدل الکل ہے

علامہ آلوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنے اللہ والے ہیں یہ صراطِ مستقیم کے بدل الکل من الکل ہیں۔ اس بدل کے تین نام ہیں۔ بدل الکل من الکل، بدل المطابق، بدل الموافق یعنی صراطِ مستقیم پورا پورا اللہ والوں کا راستہ ہے، جس نے اللہ والوں کا راستہ اختیار نہ کیا وہ صراطِ مستقیم سے محروم ہے۔

کلام اللہ کا اعجازِ بلاغت اور علماء نجوی کی حیرانی

اب ایک علمی اشکال اس پر یہ ہے کہ ترکیب بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منه مقصود نہیں ہوتا جیسے جائے نبی زیدُ احْوَة آیا زید لیعنی اس کا بھائی تو زید نہیں آیا ہے، اس کا بھائی آیا ہے، بھائی اس کا بدل ہے بیہاں اس کا بھائی مقصود ہے زید مقصود نہیں۔ اس پر اشکال نہیں ہوتا ہے کہ جب مبدل منه کلام میں غیر مقصود ہوتا ہے اور بدل مقصود ہوتا ہے تو اہدِنا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ مبدل منه ہے تو نعوذ باللہ، اللہ کے کلام میں کیا غیر مقصود بھی آگیا۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ مبدل منه میں اللہ نے ایک لفظ بڑھا دیا جو بدل میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستقیم، صفت استقامت اہدِنا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ مبدل منه میں صفت مستقیم نازل کر کے اور بدل میں یہ صفت نازل نہ کر کے اللہ نے اپنے کلام میں مبدل منه کو بھی مقصود بنادیا کہ دیکھو صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یہی مستقیم اور سیدھاراستہ ہے لیکن یہ صفت میرے مبدل منه میں ہے بدل میں نہیں ہے لہذا میرا بدل بھی مقصود ہے اور میرا مبدل منه بھی مقصود ہے لہذا علمائے نجات کے کہنے میں مت آنا، یہ قانون میرے بنائے ہوئے ہیں، یہ نجوی کی قانون سازی میری عطا ہے، ان کی کھوپڑی کی عقل میں تھوڑی سی روشنی میں نے دی ہے۔ لہذا قانون نجوی کوئی چیز نہیں ہے میں نے اپنے کلام میں مبدل منه میں مستقیم کا لفظ نازل کر کے اس کو مقصود بنادیا کیونکہ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے قیامت تک کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اللہ والوں کا راستہ مستقیم بھی ہے یا نہیں، سیدھا بھی ہے یا نہیں وہ مبدل منه میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمادیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کمال بلاغت ہے کہ ساری دنیا کے علمائے نجات، ساری کائنات کے قانون قواعد و گرامر کے عالم حتیٰ کہ علماء عرب بھی حیرت زده رہ گئے کہ اللہ اکبر، کلام اللہ کی یہ بلاغت! ساری دنیا کے علمائے نجات کا اجماع ہے کہ ترکیب بدل میں مبدل منه غیر مقصود ہوتا ہے، مقصود بدل ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال بلاغت سے مبدل منه میں ایک صفت ایسی نازل کر دی جو بدل میں نہ تھی جس سے خود مبدل منه بھی مقصود ہو گیا۔ سارے علمائے نجات، ساری کائنات کی مخلوقات، خدا کے سامنے کیا پچھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کے سامنے دنیا کے فصحاء اور بغاۓ کیا سمجھتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

منعم علیہم کا راستہ یہی بدل ہے، یہی صِرَاطِ مستقیم ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے جس نے اللہ والوں کا راستہ نہیں پکڑا وہ صِرَاطِ مستقیم نہیں پاسکتا۔

مُنْعَم عَلَيْهِمْ أَپْنے اور مَغْضُوب عَلَيْهِمْ غیر ہیں

اب آگے ہے کہ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** لیکھویہ نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن جن پر ہمارا غضب نازل ہوا یہ غیر ہیں، دیکھو غیروں سے مت مانا۔

غیروں سے دل لگانے والا محروم رہتا ہے

منافقین والا کام مت کرنا، منافق کافروں سے بھی ملتے تھے اور صحابہ سے بھی ملتے تھے، جسم یہاں رکھتے تھے لیکن دل وہاں غیروں میں رکھتے تھے۔ جیسے جسم کوئی خانقاہ میں رکھے اور دل جوڑ یا بازار میں رکھے یا افسوس اسٹریٹ میں رکھے۔ اس شخص کو فائدہ ہو گا شیخ کی صحبت سے؟ جسم اور دل دونوں فدا کر دو خانقاہوں پر، اللہ والوں پر، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وہ باغبانی کرے گا کہ آپ ساری زندگی اس کا شکر یہ ادا کریں گے اور یہ مصرعہ پڑھیں گے۔
کا گا سے ہنس کیو اور کرت نہ لائی بار

ہم تو کو اتھے، گوکھاتے تھے۔ اے میرے شیخ آپ نے کا گا سے مجھے ہنس چڑھا بنا دیا کہ اب ذکر اللہ کے موتي حکمے ہیں اور تمام گندے کاموں سے اللہ نے نجات عطا فرمادی۔

صراطِ مستقیم کے لیے مغضوب علیہم سے دوری بھی ضروری ہے

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنوں کا ذکر بھی نازل کیا انعمت علیہم جن پر ہم نے انعام نازل کیا، یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن غیروں کا بھی مذکورہ کردیا **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ** جن پر ہم نے غضب نازل کیا، جو گمراہ لوگ ہیں خبردار ان کو غیر سمجھنا اور ان کے اعمال کو بھی غیر سمجھنا، معدب قوموں کے اعمال سے احتیاط رکھنا۔ یہ نہیں کہ اب تم کو وہ قوم لوط ملے گی۔ حضرت اوط علیہ السلام کی قوم اب کہاں ہے لیکن جوان کے اعمال کرتے ہیں گویا کہ وہ قوم لوط کی معدب قوم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم معدب میں جو خصلت تھی آج جو شخص اس فعل کو کرے گا، معدب قوموں کے فعل کو اختیار کرے گا یعنی گناہ کرے گا تو اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہو گا اگر تو بنه کی اُن لَم يَتُب۔ اس لیے دوستو **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ** سے مراد ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا۔

لہذا جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی بچو اور ان کے اعمال سے بھی بچو یہ نہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں اور ہم عمل ان کا کرتے رہیں۔ جس فعل پر اللہ کا غضب نازل ہے جس فعل سے اللہ نا راض ہے اس سے بھی احتیاط کرو کہ وہ معدب قوموں کا ورش ہے۔ ہر گناہ کسی نہ کسی معدب قوم کی وراثت اور ترک ہے۔

اب میں منعم علیہم کی تفسیر اور شرح کرنا چاہتا ہوں اور خصوصاً صد یقین کی شرح۔ نبی کی تعریف

مِنَ النَّبِيِّينَ جُنَاحُهُمْ نَبُوتٌ سَنَوْزٌ يَعْنِي جُنَاحُ انسانوں پر فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا تھا مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبری اختیاری چیز نہیں ہے لیکن راہ پیغمبری پر چلنا اختیاری چیز ہے۔ شیطان نفس کے کہنے پر ڈسٹمپری کا راستہ اختیار نہ کیجئے، راہ پیغمبر پر چلیے۔

خداۓ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، صورتیں بد لئے والی ہیں۔ بس چار دن کی چاندنی پھر اندر ہیری رات۔ اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندر ہانہیں ہوتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نام ہے۔ جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی نسبت دے دی وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے، وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں کبھی اندر ہانہیں ہوتا اسی لیے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں۔ اپنے اللہ کے قرب کے آفتاب سے ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں بشرطیکہ وہ اپنی زمین پیش کریں۔ کاشت کے لیے زمین بھی تو دیں یعنی نفس کو اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں۔

شہید کی تعریف

تو نبیین کا مطلب آپ نے سمجھ لیا اب شہداء کے معنی بھی سمجھ لیجئے، شہداء وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور واحد انیت کی گواہی دے گئے۔ اُحد کے دامن میں ستر صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے اور ہر جنازہ بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا تھا، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا تھا۔

اُن کے کوچہ سے لے چل جنازہ میرا
جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے

(ابن اللہ اور صراطِ مستقیم)

یہ صاحین کا طبقہ اسی لیے ہے۔ آج شہادت کا راز بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں خود فرمایا کہ یہ سمندر اور ایسے سات سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوائی ہے اور جنگِ اُحد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ خبردار دل چھوٹا ممت کرنا یہم نے شہادت کا کوشہ پورا کیا

ہے ورنہ کافر اعتراض کرتے کہ مُنْعِمٌ عَلَيْهِمْ میں شہداء کا وہ طبقہ کہاں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اگر ہم نہ چاہتے تو ایک بھی شہید نہیں ہو سکتا تھا لیکن وَ يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شَهِدًا آئے شکست جو ہوئی اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تم کو شہادت کا درجہ کیسے دیتے، تم کو مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے یہ سب انتظام ہوا ہے۔ اس راز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا۔ (مقام اولیاء صدیقین اور اس کا طریقہ حصول، ص: ۲۶)

صالحین کی تعریف

صالحین کے معنی مختصر ایہ ہیں کہ جن کی طبیعت میں ایسی سلامتی و صلاحیت ہے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ایسے لوگ صالح کہلاتے ہیں۔ مگر میں اس وقت صرف صدیقین کی شرح کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء اللہ کا سب سے زیادہ اوپر اچھا طبقہ ہے تا کہ ہم آپ آج ارادہ کر لیں کہ جب ہمارا تعلق مالک کریم سے ہے اس اللہ سے ہم اوپری ولایت اور اوپری دوستی کیوں نہ مانگیں، ولایت صدیقت کا سوال کیوں نہ کریں؟ اپنی صلاحیت و قابلیت کو مت دیکھئے کیونکہ کریم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بدوں صلاحیت اپنی نعمت کو دے دے۔

کریم کی شرح

پہلے کریم کی شرح سن لیجئے کریم کی چار تعریفیں ہیں:

۱) الَّذِي يُعْطِي بِدُونِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَ الْمُنْتَهَى كَرِيمٌ وَهُوَ جُو نَا لَأَقْوَوْنَ پر بھی مہربانی کر دے۔

تو کریم وہ اللہ ہے جو نا لائقوں پر بھی مہربانی کر دے مانگو تو سہی جب وہ قبول کر لیں گے تو اولیاء اللہ کے اعمال اور اخلاق دینا ان کے ذمہ ہے۔ ولایت صدیقت مانگنے کے اے اللہ! ہمیں اولیائے صدیقین میں شامل فرم۔ جب اللہ قبول فرمائیں گے تو اعمال صدیقین، اخلاق صدیقین، ایمان صدیقین، یقین صدیقین، کیفیات احسانیہ صدیقین سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، آپ اللہ سے مانگنے تو۔ کریم کی دوسری تعریف ہے:

۲) الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا بِدُونِ مَسْأَلَةٍ وَ لَا وَسِيلَةٌ جو ہم پر مہربانی کر دے بدوں سوال اور سیلہ کے۔ کریم کی تیسرا تعریف ہے:

۳) الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا وَ لَا يَخَافُ نَفَادَ مَا عِنْدَهُ جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اس کو اندر نہشہ ہو کیونکہ اللہ غیر محدود و خزانے والا ہے۔ کریم کی چوتھی تعریف ہے:

۴) الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا فَوْقَ مَا تَعْمَلُنَا بِهِ جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے کہ جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو۔ مانگو ایک بوقت، دے دے ایک مشک۔ ایک بوقت شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے ایک مشک۔ اللہ تعالیٰ

اس طرح سے دیتا ہے۔

صدقین کی تعریف

اویاۓ صدیقین کون لوگ ہیں؟ صدقیق وہ ولی اللہ ہے کہ نبی پر جو کچھ وحی نازل ہو، اس کا دل خود بخود اس کی تقدیر کرے یعنی صدقیق آئینہ نبوت ہوتا ہے اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں صدقیق کی تین تعریف کی ہیں:

۱) الَّذِي لَا يُخَالِفُ قَالُهُ حَالَهُ صَدِيقٌ وَهُوَ جَسُّ كَوْلٍ مِّنْ فَرْقَنِينِ
ہوتا جوز بان پر ہے وہی دل میں ہے۔ صدیقین وہ اویاۓ اللہ ہیں جن کا قال اور حال باطن یکساں ہوتا ہے، جتنا ایمان ان کی زبان پر ہوتا ہے اتنا ہی ان کے قلب میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام صدقیقت کو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ذرہ برابر نہیں بڑھے گا، اتنا ایمان مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے بہ صدقۃ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذَا رَأَيْتُ النَّارَ وَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْمُحْشَرِ
ما ازْدَدْتُ يَقِيْنًا جب میں قیامت کے دن جنت و دوزخ کو دیکھوں گا تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین تو مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے۔

میرے مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت آپ کی غلامی کے صدقے میں، اللہ نے میرا ایمان و یقین اس مقام پر عطا فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ اس پر حکیم الامت مجدد املکت تھانوی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدقیق ہے۔ تو صدقیق کی ایک تعریف ہے الَّذِي لَا يُخَالِفُ قَالُهُ حَالَهُ صَدِيقٌ وَهُوَ جَسُّ كَوْلٍ اور حال ایک ہو یعنی اس کے قول اور باطن میں فرق نہ ہو، زبان و دل ایک ہو جائے۔ صدقیق کی دوسری تعریف ہے:

۲) الَّذِي لَا يَغْيِرُ بَاطِنَهُ مِنْ ظَاهِرِهِ جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو، جس کا باطن اتنا زبردست اور قوی ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو چاہے جرمن، جاپان، لندن کی تمام اڑکیاں اور سارے عالم کی ٹیڈیاں سامنے آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن تم مغلوب نہ ہوتا ہو، یہ نہ کہے کہ کیا کریں بھائی، ایسے حالات میں کیسے نظر بچائیں، کیا کریں بھائی، خاندان کی وجہ سے مروت آگئی اس لیے وہ یوں فلم بنوائی، ٹیپ ریکارڈ رکھا تھا گاناسن لیا، کیا کہیں وہ نہیں کہتا، وہ موثر ہوتا ہے غالب ہوتا ہے۔

۳) الَّذِي يَيْدُلُ الْكَوْنِينَ فِي رِضا مَحْبُوبِهِ صَدِيقِهِ هُوَ جَوْدُونُوْں جَهَانَ اللَّهِ پر فَدَا كَر دِي تَا ہے۔ ابھی کل میں نے عرب کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ تعریف پیش کی تو ایک الجزائری نے پوچھا کہ میں دنیا تو اللہ پر فدا کر سکتا ہوں فَكَيْفَ أَفْدِي الْآخِرَةَ لیکن آخرت کو کوئی انسان کسی طرح فدا کر سکتا ہے۔

آخرت کو اللہ پر فدا کرنے کے معنی

میں نے جواب دیا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، جنت کی لائچ میں نہ کرو۔ اللہ کی رضا درجہ اولیں میں ہو، جنت کو درجہ ثانوی میں کرو۔ نیت یہ ہو کہ اے اللہ میں یہ عمل جنت کے لیے نہیں کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں لیکن چونکہ جنت آپ کا محلِ لقاء اور محلِ دیدار ہے اس لیے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں لیکن مقصود آپ کی رضا ہے۔ بس آپ نے آخرت فدا کر دی، جنت کو اللہ پر فدا کر دیا اور دوزخ کے ڈر سے گناہ مت چھوڑو۔ اللہ کی نارِ انگکی کے خوف سے چھوڑو۔ خداۓ تعالیٰ کی نارِ انگکی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑو اور جہنم کو درجہ ثانوی میں کرلو ان شاء اللہ آپ نے جنت و جہنم اور آخرت کو فدا کر دیا۔ یہ سن کر اس عرب نے کہا سمجھاں اللہ اور بہت خوش ہوا اور یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست دل میں یہ شرح عطا فرمائی۔ اس کے بعد حدیث پاک کی دلیل بھی مل گئی۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ﴾

(تفسیراللباب، تحت سورۃ الفتح، آیہ: ۲۹)

اے خدا! میں تجھ سے تیری رضا اور تیری خوشی مانگتا ہوں اور جنت کو بعد میں میں مانگتا ہوں۔ جنت کو بعد میں بیان کیا پہلے کیا مانگا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ اے اللہ! میں تیری رضا چاہتا ہوں والجنت اور جنت بھی۔ جنت کو درجہ ثانوی کیا اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ میں تیری نارِ انگکی سے پناہ چاہتا ہوں وَ النَّارُ اور دوزخ سے۔ دوزخ کو درجہ ثانوی کیا۔ پہلے اللہ کی نارِ انگکی سے پناہ مانگی۔ اس حدیث سے اخترنے یہ سمجھا کہ آخرت یوں فدا کی جاتی ہے۔ بس صدیق کی آخری تعریف ہے الَّذِي يَيْدُلُ الْكَوْنِينَ فِي رِضا مَحْبُوبِهِ جَوْدُونُوْں جَهَانَ فَدَا كَر دے۔ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ (ابن اللہ اور صراطِ مستقیم، صفحہ: ۳۶-۴۲)

مقامِ صدِیقین

سب سے اوپرے درجے کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کا نام صدِیقین ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِيْحِينَ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہیدوں سے

زیادہ صدِ یقین کا درجہ ہے اگرچہ زندہ ہے۔

صدِ یقین کے شہدا سے افضل ہونے کی وجہ

شہداء گردن کٹا کے بھی صدِ یقین کا درجہ پاسکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ صدِ یقین کا رنبوت کی تکمیل کرتا ہے اور شہید کی گردن کٹ گئی تواب کا رنبوت کو انجام نہیں دے سکتا، خود تو فدا ہو گیا مگر کارنبوت کو صدِ یقین انجام دیتا ہے۔ تو نبی صدِ یقین سے افضل اور صدِ یقین شہداء اور صالحین سے افضل ہوتا ہے۔

جانِ پاکِ نبوت میں صدِ یقین اکبر کی محبت

اور خود نبوت کی جانِ عاشقِ صدِ یقینت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ غزوہِ أحد میں حضرت ابو بکر صدِ یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوقِ شہادت میں اپنی توارکومیان سے نکالا اور کافروں پر جھٹے کے اے کافرو! آج تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا یا صدِ یقین شہید ہو گا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خونِ نبوت سر سے پیر تک بہہ رہا ہے اور صدِ یقین کی جانِ عاشق اس بات سے قاصر ہے کہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا دیکھے لیکن جب وہ شوقِ شہادت میں جھٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھٹے، وہ جھٹے کافروں پر اور نبی جھپٹا صدِ یقین پر کہ خبردار شہم سیفک اپنی توارکومیان میں رکھ لے اے ابو بکر صدِ یقین! لا تَفْجَعُنَا بِنَفْسِكَ مجھے اپنی جدائی سے غمگین مت کر۔ معلوم ہوا کہ جانِ نبی مشتاق تھی حیاتِ صدِ یقین کی۔ لہذا یاد رکھو کہ بعض بندے زندہ ہیں مگر شہیدوں سے افضل ہیں اگر صدِ یقین کے درجہ پر ہیں۔ یہ شرط لگادی جس سے غلط فہمی کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ (مقامِ اولیاء صدِ یقین اور اس کا طریقہ حصول، صفحہ ۲۷-۲۸)

دروازہِ صدِ یقینت قیامت تک کھلا رہے گا

اللہ تعالیٰ نے اولیاء صدِ یقین کا سب سے اوپر مقام دیا ہے اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدِ یقینت ختم نہیں ہے، صدِ یقینت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ دلیل سن لو۔ میں تصوف ان شاء اللہ بلا دلیل پیش نہیں کروں گا:

﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ﴾
صدِ یقین جمع ہے یا مفرد؟ جمع کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدِ یقینت ختم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا خاتم النبین لیکن صدِ یقین اکبر کو خاتم الصدِ یقین نہیں فرمایا کہ صدِ یقین اکبر پر صدِ یقینت ختم ہے، اور حدیث میں ہے کہ لا نبیٰ بعدِ نبیٰ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے

مگر کس حدیث میں ہے کہ میرے صدیقِ اکبر کے بعد کوئی صدیق نہیں ہے، لہذا قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے لیکن حضرت ابو بکر جیسا صدیق اب کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی صدیقیت معیتِ سید الانبیاء سے مشرف ہے اور قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی اولیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا اور حضرت صدیقِ اکبر تو صحابہ میں بھی سب سے افضل ہیں اور **أَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ** ہیں لیکن اولیاء صدیقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے لہذا صدیقیت کے اس اعلیٰ مقام پر جانے کی تمنا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ کیا مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو آنا ہے، جو محنت کرنی ہے ابھی کرو، مرنے کے بعد دوبارہ حیات نہیں ملے گی، پچھتاوے گے۔ لہذا اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنے کے لیے اختر آج آپ کو تدبیر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اپنی تقریر پر توفیق عمل دے اور آپ کو بھی توفیق عمل دے کیونکہ مقرر بھی اپنی تقریر پر عمل کرنے کے لیے توفیقِ خدا تعالیٰ کا محتاج ہے۔

صدیق کی پہلی تعریف

الَّذِي لَا يَخَالِفُ قَالَهُ حَالَهُ صَدِيقُ اسْ وَلِيِ اللَّهِ كَوَّكِتَهِ ہیں جس کا قال اور حال ایک ہو، جس کی زبان اس کے حال کے خلاف نہ جائے جیسا قول ہو ویسا عمل ہو، بعض وقت حال آدمی زیادہ دکھاتا ہے اور نعمت بھی مارتا ہے مگر مولا نا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سنت کا تفع نہیں ہے اس کا حال بھی قبول نہیں ہے۔

صدیق کی دوسری تعریف

الَّذِي لَا يَتَغَيِّرُ بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ جس کے باطن میں تغیر نہ ہو اگرچہ ظاہر پچھہ بھی ہو۔ نسبت اتنی قوی ہو جائے کہ مسجد کے گوشہ میں جتنا باغدا ہوتا ہی کلپٹن اور بندر روڈ پر بھی باغدا ہو، جتنا قرب اس کو کعبہ شریف میں حاصل ہے اتنا ہی قرب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے عالم میں ہو کیونکہ کعبہ والا اس کے ساتھ ہے، کعبہ والا اس کے دل میں ہے۔

صدیق کی تیسرا تعریف

الَّذِي يَبْدُلُ الْكَوْنَيْنِ فِي رَضَا مَحْبُوبِهِ صَدِيقُ وَهُوَ أَعْلَى درجہ کا ولی اللہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا ہے اور دونوں جہاں فدا کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں خود کو قاصر سمجھتا ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مجدوب نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدا میں آپ کی کیا قیمت ادا کروں کہ آپ مجھ کو مل جائیں تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پر فدا کر دے، اس مجدوب نے کہا۔

قیمتِ خود ہر دو عالم گفتگی
نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز

اے خدا! آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمائی ہے۔ آپ دام اور بڑھائیے کہ بھی تو آپ سے معلوم ہوتے ہیں اگر دونوں جہان دے کر بھی اے خدا آپ مل جائیں تو بھی آپ کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ دونوں جہان دے کر بھی آپ سے ہیں۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جو دونوں جہان محبوب حقیق پر فدا کر دے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ دنیا تو ہم دیں گے مگر آخرت کیسے دیں؟ میں نے کہا کہ اس کا جواب سروِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، جنت کو درجہ ثانوی رکھو تو گویا تم نے آخرت بھی دے دی۔ حدیث پاک ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَضَاكَ وَالْجَنَّةَ ﴿٢٩﴾

(تفسیراللباب، تحت سورۃ الفتح، آیۃ: ۲۹)

اے اللہ! تو مجھ سے راضی ہو جا اور میں تجھ سے جنت بھی مانگتا ہوں، سروِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درخواست میں درجہ اولیت اللہ کی رضا رکھ کر اور درجہ ثانویت میں جنت کو رکھ کر اپنے عشقِ نبوت کا مقام امت کو بتادیا کہ دیکھو نبی کیسا عاشق ہوتا ہے۔ صدیق کی یہ تین تعریفیں ہو گئیں۔

صدیق کی چوتحی تعریف

اب چوتحی تعریف جو اختر کو اللہ نے عطا فرمائی کہ صدیق وہ ولی اللہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے اور اپنی زندگی کی ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے لذتِ حرام کو کشید، چشید اور دید و شنید نہیں کرتا۔ وہ معصوم نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی صدورِ خطاب ہو جائے تو اتنا روتا ہے کہ فرشتے بھی لرزہ بر انداز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو دیکھے بغیر یہ بندے سجدہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کتنا رور ہے ہیں، آہ و زاری سے، استغفار سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا ایمان بالغیب ہمارے ایمان بالشهادۃ کے لیے قابلِ رشک ہے۔ اس لیے فرشتے ہماری مجالسِ ذکر میں آتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو دعوت دیتا ہے کہ چلو کچھ بندے بیٹھے ہوئے اللہ کی محبت کی بات سن رہے ہیں۔ وہ ہمارے اس ذکر پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان بالشهادۃ میں ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر دیکھے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں۔ تو ہماری فدا کاری اور وفاداری پر وہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں مگر اپنے دل کی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں اور جنگِ احمد میں ستر شہید اپنی گردان کٹا کر اپنے خونِ شہادت سے اللہ کی عظمتوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔

تو آپ نے یہ چوتھی تعریف سن لی کہ صدیق وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا چک جائے اور محبت کی جڑ دل کی گہرائیوں میں اس قدر اتر جائے کہ اگر اس گہری جڑ والے درخت کو بڑے سے بڑے پہلوان بھی ہلا کیں تو اس سے چچر کی آواز بھی نہ آئے یعنی سارے عالم کے حسین، سارے عالم کی لیالی میں اس کو اکھاڑنا چاہیں تو اکھاڑنے والوں کے پسینے چھوٹ جائیں مگر اس کی جڑیں ایک اعشار یہ بھی ادھر اُدھرنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایمان و یقین کو ہمارے دل کی اتنی گہرائیوں میں داخل کر دے اور اس قدر مضبوط ایمان عطا فرمادے کہ سارا عالم ہماری حیات کو اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحے کو بھی مشغول نہ کر سکے، آمین۔ (مقام اولیاء صدیقین اور اس کا طریقہ حصول، صفحہ ۲۱-۳۱)

آیت نمبر ۲

﴿خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
(سورۃ البقرۃ، آیہ: ۷)

مہر لگادی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔

اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے مہر لگادی تو ایمان نہ لانے میں اہل کفر کا معدود ہونا لازم آتا ہے تو اس کا جواب حکیم الامت نے بیان القرآن میں دیا کہ ان کے مسلسل کفر و طغيان اور غض و عناد اور مخالفت حق کے سبب ان کے اندر قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی حالانکہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر قبول حق کی استعداد رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے لیکن آدمی اپنی اغراض نفسانی و خود غرضی اور ضد اور سرکشی کے سبب حق کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ استعداد فنا ہو جاتی ہے۔ لہذا جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم تمام عمر کفر پر قائم رہیں گے اور بھی ایمان نہ لائیں گے، ہمیشہ حق کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگادی کہ جب تم نے قبول حق کی اپنی استعداد ہی بر باد کر لی تو جاؤ اب کفر ہی پر مرد تو اس مہر لگانے کا سبب ان کا کفر ہے نہ کہ یہ مہر ان کے کفر کا سبب ہے یعنی ان کے مسلسل کفر کے سبب یہ مہر لگادی گئی یہ نہیں کہ مہر لگانے سے کفر ان کا مقدار ہوا۔ اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت نے عجیب دی کہ جیسے کوئی کریم کسی مغلس کا ہزار روپے وظیفہ مقرر کر دے لیکن وہ نالائق بجائے قدر کرنے کے ہزار روپے کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کر دیتا ہے۔ کریم نے بارہا اس نا معقول حرکت سے منع بھی کیا لیکن وہ نالائق اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تاب وہ کریم اعلان کرتا ہے کہ اس نے مسلسل ہمارے عظیم کی ناقدری کی لہذا اب ہم اس کا وظیفہ بند کرتے ہیں اور اب کبھی اس کو وظیفہ نہ دیں گے۔ بس یہی ہے خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور

قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہے۔
حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿بِلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

(سورة النساء، آیة: ۱۵۵)

ہم نے ان کافروں کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے اس کا سبب ان کا کفر ہے کہ ان کا ارادہ تھا حیات اس طغیان و سرکشی پر قائم رہنے کا ہے۔ لہذا یہ مہر ان کے کفر و سرکشی کا خمیازہ ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کافر مثلاً پچاس سال کفر کرتا ہے اور مومن پچاس سال ایمان پر رہتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ کافر کو پچاس سال وزخ میں ڈال دیا جاتا اور مومن کو پچاس سال کے لیے جنت دے دی جاتی لیکن کافر کے لیے خلود فی النار اور مومن کے لیے خلود فی الجنة کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلود بوجہ ان کی نیت اور ارادہ کے ہے چونکہ کافر کا ارادہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہوں گا تو کفر پر ہی قائم رہوں گا لہذا اس کی اس نیت کی وجہ سے خلود فی النار ہے اور مومن کی نیت چونکہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہا تو ایمان پر ہی رہوں گا، اللہ ہی کا ہو کر رہوں گا اس لیے مومن کے لیے خلود فی الجنة ہے۔ (فناں روی، صفحہ: ۲۵۔ ۲۷)

آیت نمبر ۳

﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ﴾

(سورة البقرة، آیة: ۳۳)

نماز با جماعت کو رکوع سے تعبیر کرنے کی حکمت

ایک حکمت بیان کرتا ہوں جو روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھی ہے کہ جماعت کا وجوہ سارے علماء کے نزدیک اس آیت سے ثابت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ رکوع کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مگر ترجیح اس کا یہ ہے کہ صَلُوْا مَعَ الْمُصَلِّيِّنَ نماز پڑھنمازیوں کے ساتھ، لیکن جماعت کی پوری نماز کو اللہ تعالیٰ نے رکوع سے کیوں تعبیر کیا جبکہ رکوع تو نماز کا ایک جز ہے۔ بلاغت میں اس کا نام مجاز مرسل ہے، یہ تَسْمِيَةُ الْكُلَّ بِاسْمِ الْجُزْءِ ہے لیعنی ایک جزو سے سُلْ کو تعبیر کرنا لیکن مجاز مرسل میں کوئی حکمت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک جزو سے کل کو تعبیر کیا گیا۔ تو اس کی وجہ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت

کو رکوع کی دولت عطا فرمایا کرتا تھا نعمت کے طور پر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ تاکہ ہماری نعمت کی
قد رکرو۔ (انوار حرم، صفحہ: ۱۸-۱۹)

جماعت کے وجوب کا ایک عاشقانہ راز

اور یہ نکتہ شاید پہلی دفعہ آپ مجھ ہی سے سنیں گے کہ عشق کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز کو واجب فرمایا۔ جماعت کے وجوب میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ چاہے تم کو تہائی کی عبادت میں بڑا سکون مل رہا ہو مگر تم فاسقین کے رجڑ سے نہیں نکل سکو گے جب تک مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے تاکہ میرے عاشقوں کی ملاقات تم پر اختیاری نہ رہے لازمی (Compulsory) اور ضروری ہو جائے اگر عشق تہازنہ رہتا تو نماز میں پڑھنے کا حکم ہوتا، جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی لیکن پونکہ عشق کی حقیقت یہ ہے کہ عشق تہازنہ نہیں رہ سکتا، عاشقوں میں زندہ رہتا ہے اور صرف زندہ ہی نہیں رہتا بڑھ جاتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے۔ پس عشق کی عطا اور بقاء اور ارتقاء موقوف ہے عاشقوں کی محبت پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو واجب کر دیا تاکہ میرے عاشقوں کی ملاقات سے بندوں کو عشق عطا بھی ہو اور بقاء بھی ہو اور ارتقاء بھی ہوتا کہ میرے عاشق ترقی کرتے رہیں، محبت کی کسی منزل پر نہ ٹھہریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گیر محدود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اے برادر بے نہایت در گہے ست

اللہ تعالیٰ کا راستہ غیر محدود راستہ ہے اس لیے جس منزل پر پہنچوں سے آگے بڑھو۔

جمعہ و عیدین و حج کے اجتماعات کا مقصد

اس لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت پنجگانہ کے وجوب پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، عاشقوں کی تعداد بڑھانے کے لیے جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع کو فرض کر دیا کہ جتنا عاشقوں سے ملاقات بڑے گی۔ تمہارے عشق میں اضافہ ہو گا اور سال میں عید اور بقر عید کے اجتماع کا حکم دے دیا تاکہ عاشقوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ عاشق ایک دوسرے سے ملیں۔

اور حکم دے دیا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ۔ اس سنت کا راز ملاعلیٰ قاری نے شرح مشکلوہ میں لکھا ہے کہ راستہ بدلنے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ راستہ میں قبرستان پڑیں گے اور مردوں کے لیے ایصالِ ثواب کی توفیق ہو جائے گی۔ جس سے مردوں کو فائدہ ہو گا۔ دوسرے یہودیوں، نصرانیوں کے گھر پڑیں گے تو مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر ان پر دہشت اور رعب طاری ہو گا۔

اور اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو حج کا اجتماع فرض کر دیا کہ حر میں شریفین میں حاضری دو مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حَجَّ كَفَرْتِيْتُ كَا اِيْكَ رَازِ عَشَاقَ كَيْ بَيْنَ الْاَقْوَامِ مَلَاقَتْ بَحْرِيْ هَيْ كَهْ هَرْ مَلَكَ كَ اُولَيَاءَ اللَّهِ كَ زِيَارَتْ نَصِيبَ هَوْ جَائَهُ - عَلَمَهُ آلوَسِيْ نَ لَكَهَا هَيْ كَهْ اِيْكَ تُوكَعَبَهَ كَا اپَانُورَ هَيْ مَگَرْ كَعَبَهَ مَيْ جَوَ اُولَيَاءَ اللَّهِ هَوْتَهَ هَيْ بَيْنَ اَنَّ كَانُورَ بَاطِنَ بَهْ اَسَ فَضَا مَيْ شَامِلَ هَوْتَهَ هَيْ - اَسَ لَيْ كَعَبَهَ مَيْ قَدَمَ رَكْتَهَ هَيْ نُورِ اِيمَانَ بُرْهَ جَاتَهَ هَيْ - (انوار حرم، صفحہ: ۱۵-۱۷)

آیت نمبر ۳

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيُّمُ۝ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ۝ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمُ اِيشَكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۝﴾

(سورہ البقرۃ، ایات: ۱۲۸-۱۲۹)

اصلاحِ قلب کی اہمیت

اللَّهُ سَجَادَهُ وَتَعَالَى اپنے دو پیغمبروں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ
بیان فرماتے ہیں۔ دیکھئے دل کی اصلاح جو ہے نہایت اہم چیز ہے۔ اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو کعبہ شریف
میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے گھر کا وہی مزہ لیتا ہے جو گھروالے سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں
لیکن گھروالے سے محبت نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے تھے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں فرمایا فرض حج کر لیا؟ عرض کیا
جی ہاں کر لیا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو کیا اس گھروالے سے تمہاری جان پچان ہے
کہا جان پچان تو نہیں ہے فرمایا کہ ایک سال میرے پاس رہ جاؤ۔ ایک سال کے بعد جب گئے تو اتنا مزہ آیا
کہ دس بارہ جو حج کیے تھے اس کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ہو گی اتنی ہی
کعبہ کی عظمت اور اس کا مزہ آئے گا۔

طوافِ بیتِ الرَّبِّ اور طوافِ ربِّ الْبَیْتِ

اُولَيَاءَ اللَّهِ کو بیتِ الرَّبِّ سے ربِّ الْبَیْتِ مل جاتا ہے۔ اللہ وَالے بیتِ اللَّهِ کا خالیِ اللَّهِ کے گھر کا
طواف نہیں کرتے۔ وہ صاحِب خانہ کا بھی طواف کرتے ہیں ان کو خالی گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوتی،
بصیرتِ قلب سے صاحِب خانہ کی بھی زیارت ہوتی ہے۔

مسلمان بیت اللہ کو نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں

اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک ہندو نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کو پھر کے بُت پوچنے سے منع کرتے ہو لیکن آپ کا کعبہ شریف جہاں آپ لوگ سجدہ کرتے ہو وہ بھی تو پھر کا ہے۔ پھر ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے۔ میں پھر کا بت پوچتا ہوں اور تم کعبہ شریف جو پھر کا ہے وہاں سجدہ کرتے ہو، یہ واقعہ میرے مُرشِد اول حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ ان مولانا نے ہندو کو جواب دیا۔

کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر

سر رکھا ہم نے در جانانہ سمجھ کر

اگر ہم کعبہ کو سجدہ کریں تو ہم کافر ہو جائیں، ہم نے تو محبوب کی چوکھٹ پر سر رکھا ہے کہ میرے محبوب کا گھر ہے، ہم گھر کو سجدہ نہیں کرتے گھروالے کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو محض سمت ہے، یہ تو ہمارے محبوب نے رُخ بتایا ہے کہ جب کعبہ کی طرف تمہارا رُخ ہو گا تو تمہاری نماز بھی قبول، سجدہ بھی قبول، یہ رُخ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ بیت اللہ کو سجدہ کرنے کو خدا نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، طواف کرنے کے لیے، حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے اس کو خدامت سمجھنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو آپ رونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ جب خدا کا رسول رورہا ہے تو میں نہ روؤں؟ اور حجر اسود کو یہیں اللہ فرمایا گیا بطور نشانی کے لیکن حجر اسود بھی خدا نہیں ہے۔ یاد رکھو! بیت اللہ اور ہے رب الیت اور ہے، وہ تو رُخ ہے، حکم ہے کہ اس طرف سجدہ کرو اس طرف نماز پڑھو اور اگر کسی کو جگہ نہیں معلوم کہ کعبہ کس طرف ہے نہ قبلہ نما پاس ہے نہ کوئی بتانے والا ہے تو تحری کرلو، دل میں سوچو، دل جس طرف کو گواہی دے کہ اس طرف کعبہ ہے تو انداز سے جو رُخ کرو گے نماز ہو جائے گی۔ (بیہت نبوت کے مقاصد، صفحہ: ۷۔ ۹)

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ كَيْفَيْسِير

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ سنے والے جانے والے ہیں۔ ان دوناموں سَمِيعُ اور عَلِيمُ کے نزول کی وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ دو صفات کیوں نازل فرمائیں؟۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لِيَعْنِي سَمِيعٌ بِدَعْوَاتِنَا آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں وَ عَلِيمٌ بِنِيَّاتِنَا اور ہماری نیت سے آپ باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کعبہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری تفسیر کی۔

سَمِيعٌ وَعَلِيمٌ کاربط

اور سَمِيعٌ وَعَلِيمٌ میں ایک خاص ربط ہے۔ دنیا میں آدمی بعض وقت سنتا تو ہے لیکن دل کے حال سے باخبر نہیں ہوتا۔ سمع تو ہوتا ہے علیم نہیں ہوتا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اس کی خوب تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں بعض رکھتا ہے تو دوسرا شخص سن تو رہا ہے لیکن دل کے بعض سے بے خبر ہے۔ سمع تو ہے علیم نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے کیونکہ وہ ہر طاہر و باطن سے باخبر ہیں الہذا دونوں پیغمبروں نے سمع کے بعد علیم فرمایا کہ آپ ہماری دعا کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے دل کے حال سے بھی باخبر ہیں کہ ہم نے صرف آپ کے لیے کعبہ تعمیر کیا ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ سے کیا مراد ہے؟

اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے دعا مانگی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ یہ الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَکَ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مسلمان تو وہ تھے ہی پیغمبر تو مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَکَ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم کو مسلمان بنادیجئے بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں ہی اے اللہ! ہم دونوں کو آپ اپنا اور زیادہ مطیع و فرمائیں بزرگی، ہمارے اخلاص میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائیے جو ایمان و یقین اور اطاعت و اخلاص اس وقت ہمیں حاصل ہے اس سے اور زیادہ اعلیٰ درجہ کا عطا فرمادیجئے۔ یہاں یہ مراد ہے۔ اس لیے صرف ترجمہ دیکھنا کافی نہیں، ترجمہ کے ساتھ تفسیر دیکھنا بھی ضروری ہے اور تفسیر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھنا چاہیے ورنہ آدمی بالکل غلط معنی سمجھتا ہے، مسلمین کے بارے میں وہ سوچے گا کہ نبی تو مسلمان ہوتے ہیں ہیں پھر وہ مُسْلِمِينَ لَکَ کی دعا کیوں کر رہے ہیں لیکن تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد اخلاص و اطاعت و فرمائیں بزرگی میں ترقی کی طلب ہے۔

تمام مناسکِ حج و حج سے بتائے گئے

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہم کو حج کے احکام بھی بتلادیجئے کہ حج کس طرح کیا جائے، طواف کس طرح کریں، منی میں کب قیام کیا جائے اور وقوفِ عرفات کا دن اور وقت اور قیامِ مزدلفہ غرض حج کے پورے احکام اور طریقے ہمیں بتادیجئے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا میں تمام احکامِ حج شامل ہیں۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ حج میں جتنے کام کرتے ہیں یہ کوئی من گھڑت اور خیالی پا و نہیں ہے بلکہ جریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حج کا پورا طریقہ اور احکام بتائے۔

کعبہ شریف زمین کے بالکل وسط میں ہے

اور کعبہ شریف جہاں واقع ہے وہ پورے عالم کا وسط ہے۔ آج دنیا نے سامنے اور پوری دنیا نے کفر جیران ہے کہ زمین کے بالکل پیچوں بیچ بالکل وسط میں کعبہ شریف کیسے بنایا گیا جبکہ اُس وقت پیاسش کے آلات نہیں تھے، سامنے کی ترقی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتادیا کہ یہاں کعبہ کی بنیاد رکھو جو وسط ہے دنیا کا۔

تفسیر قُبْ عَلَيْنَا

وَ قُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر توجہ فرمائیے یعنی اپنی توجہ و مہربانی کو ہم پر قائم رکھئے۔ قُبْ عَلَيْنَا کی تفسیر علامہ آلوی نے فرمائی ہے ایٰ وَقْفَنَا لِلتَّوْبَةِ یعنی ہم کو توفیق تو بے دیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے مراد توفیق تو بہ ہے، جس کو توفیق تو بہ نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے بہت دور ہے، مقامِ بعد میں بتلا ہے۔
انبیاء علیہم السلام کی توبہ سے کیا مراد ہے؟

یہاں پر علامہ آلوسی نے ایک اشکال قائم کیا کہ پیغمبر سے تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے پھر یہاں دونوں پیغمبر کیوں توفیق تو بہ مانگ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا کہ عوام کی توبہ اور ہے خواص کی توبہ اور ہے اور یہاں نے عوام کی توبہ مراد ہے نہ خواص کی بلکہ یہ اخْص الخواص کی توبہ ہے یعنی عام مسلمانوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں سے الرُّجُوعُ مِنَ الْمُعَصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ اور خواص امت کی توبہ ہوتی ہے غفلت سے الرُّجُوعُ مِنَ الغَفْلَةِ إِلَى الذَّكْرِ ہے اور یہ توبہ اخْص الخواص کی ہے یعنی پیغمبروں کی توبہ سے جس کا ترجمہ ہوگا اور ہمیں توفیق تو بہ دیجئے لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَ التَّرَقَّی فِی الْمَقَامَاتِ یعنی ہم قرب کے جس مقام پر اب ہیں اس میں اور ترقی عطا فرمائیے اور ہم دونوں کے درجات اور بلند کردیجئے ہمارے مقام قرب میں اور ترقی دیجئے۔ دیکھئے تفسیر روح المعانی۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ توفیق تو بہ گناہ سے نہیں ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ اگر کابر کی تفاسیر نہ دیکھی جائیں تو آدمی کو اشکال پیدا ہو جائے گا کہ پیغمبر آخر کس بات کی توبہ مانگ رہے ہیں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اتنے بڑے اشکال کو دو جملوں میں حل کر دیا کہ پیغمبروں کی توبہ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَ التَّرَقَّی فِی الْمَقَامَاتِ ہے یعنی رفع درجات اور مقام قرب میں ترقی کی درخواست ہے۔

تَوَّابُ رَحِيمٌ کے تقدم و تآخر کے دو عجیب نکتے

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ تَوَّابُ بھی ہیں رَحِيمٌ بھی ہیں یعنی آپ توجہ

فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تَوَّابُ کو پہلے کیوں نازل کیا اور رَحِيمُ کو بعد میں کیوں نازل کیا؟ اس کا عجیب نکتہ بیان فرمایا جو قابل وجد ہے۔ دوستون لو! پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اس تقدیم و تاخیر کا راز یہ ہے کہ جس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے اس پہلے توفیق توبہ دیتا ہے۔ تَوَّابُ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدم فرمایا کہ ہم جس پر رحمت نازل کرتے ہیں پہلے اس کو توفیق توبہ دیتے ہیں اور توبہ کے ساتھ ہی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ توفیق توبہ اور نزول رحمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آگے آگے توفیق توبہ اور ساتھ ملا ہوا نزول رحمت، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جاری اور جیران یعنی پڑوئی ہیں، ایک دم ملے ہوئے آتے ہیں، توفیق توبہ اور رحمت کا نزول ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگ لی وہ سایہ رحمت میں آگیا، ایک سینڈ کی درینہیں ہوتی۔ توفیق توبہ شروع ہوئی، بندہ نے استغفار اللہ کہا اور نزول رحمت ساتھ شروع ہو گیا۔ ایک سینڈ کی خیر نہیں ہوتی لیکن توفیق توبہ چونکہ مقدم ہے خواہ ایک سینڈ ہی کے درجہ میں سی ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تَوَّابُ کو مقدم کیا اور رَحِيمُ کو موئخر فرمایا۔

فرقہ معزز لہ کارو

دوسری وجہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ فرقہ معزز لہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ قبول کرنا قانوناً لازم ہے، اس کو معاف کرنا اللہ پر نعمود باللہ فرض ہے۔ اس لیے چودہ سو برس پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ تَوَّابُ اور رَحِيمُ نازل فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ ایک نالائق فرقہ معزز لہ پیدا ہو گا جو ایسا بے ہودہ دعویٰ کرے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تَوَّابُ اور رَحِيمُ کے اس تقدیم و تاخیر میں اللہ تعالیٰ نے معزز لہ کا در فرمادیا کہ اے نالائقو! اگر میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں تو یہ قانونی طور پر مجھ پر فرض نہیں ہے بلکہ میں رحیم ہوں، شان رحمت سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، شان قانون سے نہیں، شان ضابطہ سے نہیں۔ آہ! کیا بлагحت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا بлагحت ہے ذرا دیکھو تو سہی بھلا کوئی انسانی کلام ایسا ہو سکتا ہے! انکَ انتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ شانِ رحمت سے ہم بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔

غفور اور دود کا ربط

اسی طرح وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ میں ایک خاص ربط ہے۔ میں پھولپور کے تالاب میں اپنے حضرت شیخ کے کپڑے دھو رہا تھا حضرت مسجد میں تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے حضرت دوڑ کر آئے اور فرمایا حکیم اختر! جلدی آؤ۔ اس وقت ایک عجیب و غریب علم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کی صفت، غفور کی صفت کے بعد دود کیوں نازل فرمایا کہ

اے بندو! معلوم ہے کہ ہم تم کو بہت کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسے بندو! تھیں ہم جلد حضرت نے فرمایا کہ دوسرا نام و دود جو نازل فرمایا یہ سبب ہے مغفرت کا۔ یعنی اے بندو! تھیں ہم جلد معاف کیوں کرتے ہیں تو حضرت نے اپنی پوربی زبان میں فرمایا تھا کہ مارے میا کے لیعنی مارے محبت کے، میا کہتے ہیں پورب کی زبان میں محبت کو، مانتا کو۔ کیا عجب الہامی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کے بعد و دود نازل فرمایا کہ ہم تمہیں جو جلد معاف کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تم سے بے حد محبت ہے، پالنے کی محبت ہے جو بلی پالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بلی کو بھی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں، کتنا پالتا ہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور ہم رب العالمین، تمہیں پالنے ہیں تو ہمیں تم سے محبت نہ ہوگی؟ جو ظالم توبہ ہی نہ کرے وہی خسارہ میں رہتا ہے۔

مقاصدِ بعثت نبوت

اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے ایک دعا مانگی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنَّهُ اللَّهُ! ہماری اولاد اور خونی رشتہوں میں ایک پیغمبر پیدا فرمایا یعنی سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما اور وہ رسول کیا کام کرے گا، اس کی بعثت کا کیا مقصد ہوگا؟ يَتَّلُّ عَلَيْهِمُ اِلِّيْشَکَ آپ کے کلام کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ اور آپ کی کتاب کی تعلیم دے۔

يَتَّلُّ عَلَيْهِمُ اِلِّيْشَکَ اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سے

مکاتبِ قرآن اور دارالعلوم کا ثبوت

دونوں پیغمبر دعا فرمารہے ہیں وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَّلُّ عَلَيْهِمُ اِلِّيْشَکَ اے ہمارے رب! ایک ایسا پیغمبر بھیجئے یعنی نبی آخر از ماں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے کلام کی تلاوت لوگوں کو سنائے وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ اور آپ کی کتاب کی تعلیم دے یعنی آپ کے کلام کے الفاظ کے معانی سمجھائے يُفْهِمُهُمُ الْفَاظَةُ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھائے وَ يُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَةً آدَائِهِ اور ہر لفظ کی کیفیت ادا کو بھی سکھائے کہ یہ لفظ کیسے ادا کیا جائے گا یعنی تجوید و قراءت کی تعلیم دے۔ اس آیت سے مکاتبِ قرآن کے قیام کا ثبوت ملتا ہے جہاں تجوید و قراءت سکھائی جاتی ہے اور اسی آیت میں دارالعلوم کا ثبوت ہے جہاں کلام اللہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ مقاصدِ بعثت نبوت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمارہے ہیں کہ يَتَّلُّ عَلَيْهِمُ اِلِّيْشَکَ ہماری نبی ہماری آیات لوگوں کو سناتا ہے جس سے مکاتبِ قرآن کا قائم کرنا ثابت ہوتا ہے اور وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَ الْحُكْمَةَ سے دارالعلوموں کے قیام کا ثبوت ہے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں

لہذا آپ کی بعثت کے مقاصد کو جاری رکھنا امت پر فرض ہے۔

وَيُزَكِّيْهُمْ سے خانقا ہوں کے قیام کا ثبوت

کعبہ کی تعمیر کے ساتھ دونوں پیغمبر علیہما السلام یہ دعا بھی فرمائی ہے ہیں کہ وَيُزَكِّيْهُمْ اور وہ نبی ایسا ہو جو دلوں کا ترزیک یہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ کیا مطلب کہ اے اللہ کعبہ تو ہم نے بنادیا لیکن اگر دلوں کا کعبہ صحیح نہیں ہو گا تو اس کعبہ کی بیت اللہ کی کوئی قدر نہیں ہو گی۔ آپ کے گھر کی عزت و ہی کرے گا جس کا دل صاف ہو گا، جس کے دل میں خدا کا عشق اور محبت ہو گی۔ دیکھا آپ نے ادونوں نبی کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کا دل کعبہ ہے۔ پہلے اس کو غیر اللہ سے پاک کرو۔ اسی لیے کلمہ میں پہلے لا الہ ہے کہ دل کو لا الہ سے خالی کرو پھر لا اللہ کا نور ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سال طہبتوں کو کعبہ سے نکال دیا مگر جب تک دل سے غیر اللہ کے بُت نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ دل اللہ کی عظمتوں کو کعبہ سے نکال دیا مگر جب تک دل سے غیر اللہ کے بُت نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ دل اللہ کی عظمتوں کو، کعبہ کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکے گا۔ اس لیے مزکی و مصنی اور گناہوں سے توبہ کر کے جو متqi بندے حج کرتے ہیں ان کو کعبہ شریف میں کچھ اور نظر آتا ہے انہیں کعبہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے درخواست کی کہ ہماری اولاد میں سے ایسا رسول مبعوث فرمائیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کا ترزیک یہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ آپ قیامت تک میری اولاد میں ایسے علماء ربانی پیدا فرمائیے جو آپ کے دینے ہوئے دین کے باع کو پانی دیں اور اس کو ہر ابھر ارکھیں، ہمارے مکاتب قرآن کو اور ہمارے دارالعلوموں کو قائم رکھیں۔ تو يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ إِلَيْكَ سے مکاتب قرآن کا ثبوت ہے اور يَعْلَمُهُمُ الْكِتَاب سے مدارس علمیہ کے قیام کا ثبوت ہے اور وَيُزَكِّيْهُم سے خانقا ہوں کے قیام کا ثبوت ہے۔ ترزیک یہ بھی مقصد بعثت نبوت ہے اور نبوت اب ختم ہو چکی لہذا یہ کارنبوت آپ کے سچے نائبین و دارثین کے ذریعہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خانقا ہوں میں دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلوں کو غیر اللہ کے کباڑ خانے اور کچھرے سے پاک کیا جاتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحنفی صاحب دامت برکاتہم نے ایک تبلیغی مرکز کے بہت بڑے اجتماع میں فرمایا کہ مدرسوں سے تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے اور خانقا ہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے۔ اللہ والوں سے اخلاص ملتا ہے جس کی برکت سے اعمال قبول ہوتے ہیں ورنہ اعمال میں ریا اور دکھاوا ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ سے واپس آتے تھے تو اپنے بزرگوں کی خدمت میں جا کر دل کی ٹیونگ اور صفائی کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ مخلوق میں زیادہ خلط مسلط

سے دل میں غبار سا آ جاتا ہے جس کی صفائی میں خانقا ہوں میں کرتا ہوں۔ جب موڑ زیادہ چلتی ہے تو پھر ٹیونگ ضروری ہے یا نہیں ورنہ گرد و غبار سے انجن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل میں ریا، رکھا و اور بُرانی آ جاتی ہے جس کی صفائی خانقا ہوں میں ہوتی ہے تو خانقا ہوں کا ثبوت یُزِکَّیْهُم سے ہے۔

تعلیم اور تزکیہ کے تقدم و تاریخ کے اسرار عجیبہ

میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے پارہ میں تزکیہ مouser
ہے تعلیم کتاب مقدم ہے، اس میں علوم دینیہ کی عظمت و شرافت کا بیان ہے تا کہ صوفیاء کو علوم دینیہ سے استغنا نہ ہو اور علم شریعت اور طریقت کو مغایر نہ سمجھیں اور پارہ (۲۸) اور پارہ (۳) میں تزکیہ کو مقدم فرمائے
علماء دین کو تنبیہ و ہدایت فرمادی کہ تزکیہ کی نعمت سے تغافل نہ کرنا اور حضرت نے اس کی تمثیل یہ بیان فرمائی
تھی کہ جہاں تعلیم مقدم ہے وہاں تخلیٰ کی شرافت مقصود ہے جیسے عطر کی شیشی صاف کرنے سے مقصود عطر ہے
کہ اس شیشی میں عطر ڈالا جائے اور جہاں تزکیہ مقدم ہے وہاں تخلیٰ کی اہمیت مقصود ہے کہ لگنی شیشی میں عطر
کی خوبی ظاہر نہ ہوگی۔ اس مثال سے علماء دین اور صوفیاء کرام دونوں کو ہدایت واضح ہو گئی کہ صوفیاء کرام
زندگی بھر صرف قلب کی شیشی نہ دھوتے رہیں علوم کی بھی فکر کریں جوہ نامنور ہے اور علماء کرام علوم دین
کے لیے قلب کی شیشی کے تزکیہ و تطہیر کی فکر کریں، اس سے غالب نہ ہوں۔ سبحان اللہ! میرے شیخ کی یہ
تقریر جامع شریعت و طریقت ہے۔ حضرت حکیم الامم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالغنی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا تھا کہ آپ حامل علوم شریعت اور حامل علوم طریقت ہیں۔

تعلیم کتاب میں حکمت کی اہمیت

اور وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معلم ایسا ہونا چاہیے جو کتاب بھی
پڑھائے اور حکمت بھی بتائے یعنی لوگوں کو خوش فہمی اور فہم دین کی تعلیم دے۔ اگر معلم حکمت نہیں جانتا تو اس
کی تعلیم کتاب ناقص ہے معطوف علیہ معطوف مل کر یعْلَمُهُم ہوگا جو کتاب اللہ کو سمجھائے لیکن حکیمانہ انداز
سے سمجھائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو صاحب حکمت نہیں ہیں ان کی تعلیم ناقص ہے۔ خالی رٹا دینے سے
ترجمہ کر ادینے سے تعلیم کتاب کا حق تھوڑی ادا ہوتا ہے۔

حکمت کی پانچ تفسیریں

حکمت کی پانچ تفسیریں یاد کر لیجئے۔ مفسر عظیم علامہ آلوی نے فرمایا کہ حکمت کی پانچ تفسیریں ہیں:
۱۔ حَقَائِقُ الْكِتَابِ وَدَفَائِقُهُ وہ معلم کتاب اللہ کے حقائق و اسرار و حکم اور اس کی باریکیاں بتائے۔

۲۔ طَرِيقُ السُّنَّةِ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ سکھائے اور سنت کا ہر طریقہ حکیمانہ ہے۔

دخول مسجد کی دعا اور قعدہ میں تشهد کے رموز

مثلاً مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا ہے اور نکتے وقت فضل کی دعا ہے۔ رحمت سے مراد وہی رحمت جو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتیات کے جواب میں عطا فرمائی تھی۔

آپ نے فرمایا اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَعْلَمِ تمام زبانی عبادتیں آپ پر فدا، میری ہرز بانی عبادت آپ ہی کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَيْكَ أَئْيُهَا النَّبِيُّ سلام ہوا آپ پر اے نبی! آپ قولی عبادت مجھ کو دے رہے ہیں،۔ میری طرف سے قولی سلام لیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّلَوَاتُ أَعْلَمُ! میری بدنبی عبادتیں آپ کے لیے ہیں تو اس کے صدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَعْلَمُ آپ پر میری رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نے بدنبی عبادت مجھے پیش کی تو اس کا انعام لے لیجئے کہ میری رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی یہ رحمت انعام ہے نماز کا، بدنبی عبادت کا۔

بس جو رحمت معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تو رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری امت کو بھی عطا ہو جائے لہذا آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھادی کہ کہو اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ ابْوَابَ رَحْمَتِكَ تاکہ میری امت جو بدنبی عبادت کے لیے آرہی ہے، نماز کے لیے آرہی ہے اس کو بھی وہ رحمت عطا ہو جائے جو مجھے معراج میں ملی اور میری امت اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَ الطَّيَّاتُ اور میرا سب مال اے اللہ آپ پر فدا ہو، میری مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ بَرَكَاتُهُ اے نبی! میری برکتیں آپ پر نازل ہوں جو ہم پر مال خرچ کرے گا ہماری برکتیں اس پر نازل ہوں گی۔ برکت کے معنی کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی ہیں فیضانِ خیراتِ الہیۃ اللہ تعالیٰ کی خیرات کی بارش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خیر اور بھلائی کی بارش ہو جائے گی۔

مسجد سے نکتے وقت روزی مانگنے کا راز

تو وَ بَرَكَاتُهُ سے معلوم ہوا کہ جلوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں اور مسجد سے نکتے وقت جو دعا ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ تو فضل سے مراد رزق ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب نماز پوری

ہو چکے تو تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو (ترجمہ بیان القرآن) اب دکان کھلو، روزی تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں روزی ہے جب رزق کا نام اللہ نے فضل رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ جب عبادت کر کے مسجد سے نکلو تو اللہ میاں سے کہو ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ أَنْ تَعْلَمَنِي﴾ میں آپ سے آپ کے رزق کا سوال کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اے اللہ! باطنِ تونر سے بھر گیا، عبادت کر کے آرہے ہیں مگر آپ نے پیٹ بھی تو دیا ہے اب اس کے لیے کچھ چائے، ڈبل روٹی، انڈا، مکھن بھی دیجئے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سے اس دعا کا ایک خاص ربط ہے، نبی سے زیادہ اللہ کا مزارج شناس کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فاًذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ کے بعد اللہ تعالیٰ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے بعد اللہ تعالیٰ روزی کی تلاش کی اجازت دے رہے ہیں تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا سکھادی کہ اب اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو کہ اے اللہ اب ہم مسجد سے نکل رہے ہیں ہم لوگوں کو روزی بھی دیجئے۔ تو حکمت کی پانچ تفیسروں میں دو تفسیریں ہو گئیں یعنی (۱) حَقَائِقُ الْكِتَابِ وَ (۲) طَرِيقُ الْسُّنَّةَ

صَلَوُا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصْلِيُّ کی شرح اور طَرِيقُ السُّنَّةَ کی تعلیم

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ وہ نبی یعنی سنت کا طریقہ سکھائے مثلاً نمازو تو فرض ہے مگر نمازو کا پورا طریقہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ بتائیے قرآن شریف میں کہیں التحیات ہے؟ مغرب کی تین رکعت کہیں ہیں؟ قرآن پاک تو نمازو پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن کیسے پڑھیں؟ وہ ہے طریقہ السنۃ۔ نبی کے طریقہ پر جو نمازو ادا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صَلُوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصْلِيُّ اے صحابہ! نمازو ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے نمازو پڑھو جیسا کہ تم مجھے نمازو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ صرف صحابہ کی آنکھوں کو شرف حاصل ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ نمازو میں پایا ہے۔ صحابہ کے علاوہ کون ہے جس نے پیغمبر کو نمازو پڑھتے ہوئے دیکھا ہو خواہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ یہ صحابہ کی قسم تھی جنہوں نے کَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصْلِيُّ کا مقام پایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جیسا تم مجھے نمازو پڑھنے ہوئے دیکھتے ہوں اس کی نقل کر دو، اس کی صورت بنالو۔ نبوت کی نمازو کی باطنی کیفیت تمہیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے، مقامِ نبوت سے تمہاری نمازو کہاں ہو سکتی ہے۔ بس تم میری نقل کرلو، جیسے میں نمازو میں اٹھتا بیٹھتا ہوں جیسے رکوع اور سجده کرتا ہوں، تم میرے قیام و قعود و رکوع و بجود و کوئی نقل کرلو تو نقل کی برکت

سے تمہیں سب انعام مل جائے گا، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ صَلُوٰ کَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّیْ جیسا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم اس کی نقل کر دو ورنہ وہ دل کہاں سے پاؤ گے جو پیغمبر کے سینہ میں ہے وہ مقامِ نبوت کہاں سے پاؤ گے لہذا تمہارا کام نقل سے بنے گا۔

حکمت کی تیسری تفسیر

حکمت کی تیسری تفسیر ہے الْفِقْهُ فِی الدِّینِ دین کی سمجھ بھی ہو بعض لوگ علم بہت رکھتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، تفہیق نہیں ہے۔ دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے۔ یک من علم رادہ من عقل باید۔ علم کے لیے عقل و فہم بھی چاہیے۔ بے وقوف انسان کو اگر مولوی بنا دو تو ہر جگہ طاقت استعمال کرے گا۔

مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لندن میں ایک شخص نے گیراج میں موڑ پیش کی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس نے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور ایک پر ٹھک سے مار دیا اور کہا لائیے دس پونڈ۔ جو یہاں کا پانچ سور و پیہ ہوا، موڑ والے نے کہا کہ میاں ایک ہتھوڑا ٹھک سے مار دیا یہ کون سا کمال دکھایا جو دس پونڈ مانگ رہے ہو، یہ محنت تو ایک پونڈ کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ہتھوڑی مارنے کا پیسہ ہتھوڑی لیا ہے اس دماغ کا لیا ہے کہ ہتھوڑی کہاں ماری جائے، کس پر زہ پر ماری جائے، اس کا پیسہ لیا ہے اس کا نام حکمت ہے۔ الْفِقْهُ فِی الدِّینِ کے معنی ہیں کہ ہم دین کو کس طرح استعمال کریں، کیسے سمجھائیں؟

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت دینیہ

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب سے ایک بدعتی مرید ہوارام پور میں اس نے پوچھا کہ میں عہد نامہ، درود و تاج، درود لکھی یہ سب پڑھتا ہوں، حضرت نے اس سے پوچھا کہ کتنی دریتک پڑھتے ہو۔ کہا کہ پچیس منٹ، حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا درود زیادہ بہتر ہے یا علماء کا؟ اس نے کہا کہ علماء تو غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آقا ہیں۔ فرمایا کہ التحیات کے بعد جو درود شریف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ ہے۔ لہذا تم اس درود کو پچیس منٹ پڑھ لیا کرو۔ اس بہانہ سے اصلاح فرمادی۔ اگر کہہ دیتے کہ یہ سب حرام ہے ناجائز ہے، یہ ہے وہ تو وہ فوراً کہتا کہ اونہ تو بے توبہ مولانا ہمیں کیا پتہ تھا کہ تم کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو حکمت دیتا ہے، محبت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور محبت ملتی ہے اہل محبت کی صحبت سے۔

حکمت کی چوہی تفسیر

مَا تُكْمِلُ بِهِ النُّفُوسُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَارِفِ يَقْعُلُ مَضَارِعَ مَجْهُولٍ هُوَ عِلْمٌ كَمْ جَنَ سَيْرَ اَنْسَانُوں کے نفس اللہ والے بن جاتے ہیں مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَارِفِ ایسے احکام ایسے علوم و معارف بیان کیے جائیں جس سے انسان کا نفس محلی، مصغی، مرکزی ہو کر اللہ والا بن جائے وہ سب حکمت میں داخل ہیں مَا تُكْمِلُ بِهِ النُّفُوسُ مَضَارِعَ مَجْهُولٍ، یہ مفعول الم اسم فاعلہ ہو کر مرفوع ہو رہا ہے، اس پر پیش ہے مَا تُكْمِلُ بِهِ النُّفُوسُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَارِفِ میں من بیانیہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے نفوس پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکام اور معارف کو محبت و عظمت کے ساتھ بیان کروتا کہ معرفت حاصل ہو۔ معرفت سے محبت پیدا ہوگی اور محبت سے فرماداری کی توفیق ہوگی۔ اگر معرفت اور پہچان نہیں ہے تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی۔ ناظم آباد میرے پاس دو شیخ الحدیث آئے۔ دونوں پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں ساتھ پڑھے ہوئے تھے مگر پہچان نہیں تھی کیونکہ چالیس سال کے بعد ملے تھے۔ دونوں اجنبی کی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے تعارف کرایا کہ یہ خیرالمدارس کے محمدث ہیں اور یہ شندو اللہ یار کے محمدث ہیں یہ سننا تھا دونوں کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے سینہ سے لپٹ گئے کہ ارے ہم دونوں تو ساتھ پڑھتے تھے تو محبت کب ہوئی جب معرفت ہوئی ورنہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اجنبی کی طرح۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن محبت کا جوش نہیں ہو رہا تھا۔ عدم معرفت سے عدم محبت تھی جب میں نے تعارف کرایا تو دونوں کھڑے ہو کر لپٹ گئے اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح جو معرفت بندے کی اللہ سے جان پہچان کر ادے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر چار سال کے بچے کو اس کا ابا چھوڑ کر چلا جائے اور بیس سال کے بعد آئے تو وہ بچہ بنے ابا کو نہیں پہچانے گا، اپنے ساتھ ایک بڑے میاں کو لے جائے گا کہ بڑے میاں آپ میرے ابا کو دیکھے ہوئے ہیں، پہچانتے ہیں چلیں آپ ایئر پورٹ۔ ایئر پورٹ پر ایک بدھا کہتا ہے کہ بیٹا بستر اٹھاؤ تو وہ کہے گا کہ کیا بیٹا بیٹا کر رہے ہو، میں اپنے ابا کو ڈھونڈ رہا ہوں تو وہ بدھا معرفت کہتا ہے کہ ارے یہی تو تیرا ابا ہے۔ تب بے چارہ روکر معافی مانگتا ہے کہ ابا مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا تو ایسے ہی جب اللہ والوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تب وہ اللہ کی عبادت نماز، روزہ کرتا ہے اور نظر پہچانے کی تکلیف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میاں اب تک جو میں نے آپ کے احکام کے بوجھ نہیں اٹھاتے میری نالائقی تھی معاف فرمادیجئے۔

حکمت کی پانچویں تفسیر

اور پانچویں تفسیر ہے وَضُعُ الْأَشْيَاءِ فِي مَحَالِهَا مُحَلٌ کی جمع محال ہے یعنی ہر چیز کو اس کے محل

میں استعمال کیا جائے جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اس کو اسی کام میں استعمال کرو۔ آنکھیں کعبہ شریف دیکھنے کے لیے، والدین کو دیکھنے کے لیے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ان آنکھوں کو وہاں خرچ کرو وَيَنْظُرُ إِلَى وَالَّذِي يَهُ جواپنے والدین کو دیکھے محبت سے نظرَةَ رَحْمَةً رحمت کی نظر سے دیکھے کہ ایک دن ہم چھوٹے سے تھے ماں باپ نے ہم کو پالا تو اس نفر رحمت کے حد تے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ صحابے نے پوچھا کہ اگر ہم سو مرتبہ اپنے ماں باپ کو رحمت سے دیکھیں تو کیا اللہ سو حج کا ثواب دے گا؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ کریم ہیں وہاں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ پانچویں تفسیر ہے کہ ہر چیز کو اس کے محل میں خرچ کرو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس میں استعمال کرو اور جس چیز سے منع فرمادیا ہے اس سے رک جاؤ کانوں کو گانا سننے سے منع کیا گیا ہے، آنکھوں کو ناحرم کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، زبان کو حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے، جن اعضاء کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی کام ان سے لو جس کام سے روکا ہے وہ کام ان اعضاء سے نہ لو یہی ہے۔ وَضُعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَحَالِهَا۔

تفسیر انکَ آنَتِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

آخر میں فرمایا انکَ آنَتِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یا اللہ یہ پیغمبر کا بھیجننا اور صحابہ کا ایمان لانا اور ان کے دلوں کا تزکیہ اس کے لیے آپ کی زبردست طاقت کی ضرورت اور مدد کی ضرورت ہے آپ غالب القدرة ہیں۔ **الْعَزِيزُ** کے معنی ہیں **الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُعْجَزُ شَيْءٌ فِي اسْتِعْمَالِ قُدرَتِهِ** ایسی طاقت والا جس کے استعمال قدرت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یعنی اگر آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اس پیغمبر کو بھیجننا ہے تو ہو پیغمبر آ کر رہے گا، اگر آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے فلاں فلاں کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے تو وہ بن کر رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو ولی بنانے کا ارادہ کر لیں تو ولی بن کر رہے گا۔ جب تک آپ کا ارادہ آپ کی مشیت آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ اللہ والانہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ انکَ آنَتِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ غالب القدرة ہیں اور آپ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ کے ارادے کو مراد تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب آپ ایسے غالب القدرة ہیں تو آپ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اگر اللہ بھی ارادہ کر لے کہ جتنے لوگ اشرف المدارس کی اس مسجد میں بیٹھے ہیں سب کو ولی اللہ بنانا ہے تو اسی وقت ہم سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آیت کی تفسیر کے حد تے میں ارادہ فرمائے، اے اللہ آپ ارادہ فرمائیں اور ہم سب کو ہماری اولاد کو ہمارے خاندان کو ہمارے احباب کو غرض ہم سب کو مزکی، مغلی، مصغی بنا کر اپناولی

بنالیں ہم سب کا ترزیک یہ ہو جائے اور آپ حَکِیْمٌ ہیں کہ آپ قدرت کا استعمال حکیمانہ کرتے ہیں الَّذِی یَسْتَعْمِلُ قُدْرَتَهُ بِالْحِکْمَةِ جو اپنی قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرے کیونکہ ایک ریچھ تھا وہ اپنے آقا کو پنچھا جھل رہا تھا مالک نے اس کو سکھا دیا تھا وہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کر رہا تھا اتنے میں ایک مکھی آقا کی ناک پر بیٹھ گئی تو اس نے ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ گئی، جب کئی دفعہ بیٹھی تو ریچھ کو عنصہ آگیا اور وہ ایک پھر لا یا۔ اب جو کمھی بیٹھی تو تو ماں کی ناک پر پانچ کلوکا ایک بڑا پھر لا کر مار دیا۔ نہ اس کی ناک رہی نہ مکھی، ناک بھی غائب مکھی بھی غائب تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھالوںے طاقت تو استعمال کی مگر غیر حکیمانہ تو اے خدا! آپ جو طاقت استعمال فرماتے ہیں وہ حکیمانہ ہوتی ہے کہ جس سے بندوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آسکتی مگر جو آپ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے بعض وقت مصیبت سے بندے ولی اللہ ہو گئے۔

لیکن خدا سے عافیت مانگنے کیونکہ اللہ قادر ہے کہ ہمیں عافیت سے اللہ والا بنا دے۔ اس لیے مصیبت مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھئے یہی کہہ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہمیں دنیا میں بھی آرام سے رکھتے آخرت میں بھی آرام سے رکھتے لیکن اگر کوئی تکلیف آجائے تو سمجھ لو کہ اس میں ہمارا نفع ہے۔ (بیٹت نبوت کے مقاصد، صفحہ: ۱۲-۱۳)

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْذِلُ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

آیت شریفہ کی شرح بعنوان دُگر

لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مدارس کے مہتمم علماء یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری ذُریيات میں علماء پیدا فرماؤ ہمارے مدرسوں کو چلاتے رہیں، یہ علماء تو مدرسوں کو موروثی جاسیداد بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے نادان ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بحث کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اے اللہ میری ذُریيات میں سے ایک پیغمبر پیدا فرماؤ ہذا اپنی اولاد میں علماء ربانیں پیدا ہونے کی دعا کرنا خلاف اخلاص نہیں ہے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے کہ اے رب میری ہی ذریيات میں پیغمبر پیدا فرم۔ علامہ آلوسی نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں کہ اپنے خاندان میں جب بی ہو گا تو اس کو اپنے خاندان والوں کی زیادہ فکر ہو گی کہ میرے خاندان والے جہنم میں نہ جائیں اور دوسرا وجہ یہ کہ خاندان والے بھی اس کی اتنا کریں گے کہ یہ ہمارے ہی خاندان کا آدمی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے میرے شیخ سے سوال کیا تھا کہ میرے بیٹے مولانا رفیع اور مولانا نقی عالم

ہیں لیکن اگر میں ان کو مدرسہ میں رکھتا ہوں تو قوم مجھے بدنام کرے گی کہ یہ اقرباء پروری کر رہا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، دونوں کو مدرسہ میں رکھیں۔ آپ کے بیٹوں کو جو مدرسہ کی قدر ہو گئی کہ میرے باپ نے بڑے خون پسینہ سے دارالعلوم بنایا ہے وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتی کیونکہ جو مفت کی پاتا ہے مفت میں اڑاتا ہے، مالِ مفت دل بے رحم۔ مفتی صاحب حضرت کے مشورہ پر ہنس پڑے، خوش ہو گئے اور جا کر دونوں بیٹوں کو دارالعلوم میں اُستاد مقرر کر دیا۔ (نبیوں رباني، صفحہ: ۲۵-۲۶)

مکاتب قرآنیہ کے قیام کا ثبوت

جو آیت تلاوت کی گئی اس سے بعثتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقاصد ثابت ہوتے ہیں یَتْلُو عَلَيْهِمُ الْإِشْكَنْدَرِيَّةَ بَرَآءَ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ تَلَاقَتْ بِهِمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرآن پاک کے مکاتب ہیں، جہاں حفظ و ناظرہ اور قراءت و تجوید پڑھائی جاتی ہے سب اس آیت کے مظاہر ہیں اور ان سے مقصدِ بعثتِ نبوت کا ایک حق ادا ہو رہا ہے۔ تلاوت کے متعلق امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں توریت، زبور، انجیل ان کے ساتھ تلاوت کی لغت کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دیکھ لو تفسیر مفردات القرآن۔ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا لفظ صرف قرآن پاک کے لیے خاص ہے۔ یہ اس کلام اللہ کی عظمت ہے کیونکہ اسے قیامت تک قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لہذا جو قرآن پاک کے مدرسے قائم کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، جوان مدارس سے جانی و مالی تعاون کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام کے نمبر ہیں۔ پس قرآن مجید کی عظمت شان کے سبب تلاوت کا لفظ صرف قرآن پاک کے لیے خاص ہے، سابقہ سُنْتَبَ آسمانی کے لیے جائز نہیں۔

مدارس علمیہ کے قیام کا ثبوت

یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ سے دارالعلوم کا حق ادا ہو رہا ہے، دارالعلوم یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ کے مظاہر ہیں جہاں کتاب کے معنی بتائے جاتے ہیں، تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ آل اوی فرماتے ہیں یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ کی دو تفسیریں ہیں ایُّ يَفْهَمُهُمُ الْفَاظُّةُ بَنِي كَرِيمٍ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے الفاظ سکھاتے ہیں، اس کے معانی بتاتے ہیں۔ اس تفسیر کے مظاہر مدارس علمیہ ہیں جہاں قرآن کے معانی و تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ کی دوسری تفسیر ہے وَ مَبِينُ لَهُمْ كَيْفِيَّةً أَدَاءِهِ اور الفاظ قرآن پاک کی کیفیت ادا بھی سکھاتے ہیں۔ اس تفسیر سے پہنچا کہ جہاں قراءت و تجوید کے مکاتب ہیں، وہ اس آیت کا مظہر ہیں۔

تعلیمِ کتاب اور حکمت کا ربط

تعلیمِ کتاب کے ساتھ حکمت کو بیان فرمایا کہ تعلیم دے دی کہ معلم کو حکیم ہونا چاہیے یعنی معلم ایسا ہو جو کتاب کو حکمت کے ساتھ پڑھائے یعنی لوگوں کو ہم دین کی تعلیم دے اور حکمت کی پانچ تفسیریں ہیں:

تفسیر اول: حَقَائِقُ الْكِتَابِ وَ دَقَائِقُهُ، وَهُ مَعْلُومٌ كَتَابُ اللَّهِ كَمَكَنَقَّ وَ حَقَائِقَ وَ اسْرَارَ وَ مَعَارِفَ اور باریکیاں سمجھائے۔

تفسیر دوم: طَرِيقُ السُّنَّةِ، وَهُ مَعْلُومٌ اِيَسَا ہو جو سنت کا طریقہ سمجھائے۔ سنت کا ہر طریقہ حکمت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پوری تفسیر قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔

تفسیر سوم: الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ، دِينِ کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سنت تحسین کی ادا کرتے وقت دعا فرمائی تھی:

﴿اللَّهُمَّ فَقِهْهُ فِي الدِّينِ وَ حَبِّبْهُ إِلَى النَّاسِ﴾

اے اللہ! حسن بصری کو دین کی سمجھ عطا فرماؤ اور لوگوں میں محبوب کر دے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کتنی جامع ہے اور دعا کے دونوں جملوں میں ایک خاص ربط ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمایا۔ دین کی سمجھ کے ساتھ لوگوں میں محبوبیت کیوں مانگی؟ اس لیے کہ اگر کسی میں دین کی سمجھ تو ہو لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو تو لوگ اس سے دین نہیں سیکھیں گے اور اگر لوگوں میں محبوب ہو لیکن فقیہ نہ ہو تو بدعت و گمراہی پھیلائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاعبِ دہن کی کرامت ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اپنے شاگرد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلا تے تھے تو فرماتے تھے یا مولا نا الحسن، کبھی حسن نہیں کہا۔

چوتھی تفسیر: مَا تُكَمِّلُ بِهِ النُّفُوسُ مِنَ الْأَحْکَامِ وَ الْمَعَارِفِ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفوسِ صحابہ کی تکمیل فرماتے تھے۔

پانچویں تفسیر: وَضُعُ الشَّيْءُ فِي مَحَلِهِ هر شے کو اس کے محل میں رکھنا۔

یہ سکھایا سر و رعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفسیر ہے حکمت کی نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ کپی پکائی کھجڑی کھالو۔ اس میں آسانی بھی ہے اور یہ طریق نبوت ہے۔ نبی کی زبان سے اور صحابہ کے کانوں سے علم چلتا ہے، لہذا سننے سے جو تقریز دہن میں آتی ہے خود کتاب دیکھنے سے وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ بتارہا ہوں، یہ طریق صحابہ ہے۔ بتائیے! صحابہ نے کتاب پڑھی تھی یا زبانِ نبوت سے علم حاصل کیا تھا؟ بس سمجھلو، حضرت

آدم علیہ السلام سے لے کر علم ایسے ہی چلا ہے۔

خانقاہوں کے قیام کا ثبوت

اس کے بعد **يُنَزِّكِيهِمْ** کے کیا معنی ہیں؟ اس کی تین تفسیریں علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائیں۔ آج آپ سے کوئی پوچھے کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو بتا دیجئے کہ خانقاہ **يُنَزِّكِيهِمْ** کا مظہر ہے۔ خانقاہ وہ ہے جہاں جاہ کا جیم اور باہ کی باء نکالی جائے اور خالص آہ رہ جائے تو آہ اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہماری آہ کو اللہ نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ جہاں آہ کو جاہ اور باہ سے پاک کیا جائے یعنی جہاں جاہ و تکبر مٹایا جائے اور باہ و شہوت، بد نظری اور عشق غیر اللہ سے دل کو پاک کیا جائے اس کا نام خانقاہ ہے۔ خانقاہ نام حلوہ کھانے کا نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ خانقاہ کی تعریف پر میرا شعر ہے۔

اہلِ دل کے دل سے نکلے آہ آہ
بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ

اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ خانقاہ نہیں ہے خواہ مخواہ ہے اور شاہ صاحب کیا ہیں سیاہ صاحب ہیں۔

تزکیہ کی اہمیت

تزکیہ بھی بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد ہے۔ دل کا غیر اللہ سے پاک ہو جانا اور دل میں اخلاص پیدا ہو جانا اسی پر اعمال کا قبول موقوف ہے۔ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحسن صاحب دامت برکاتہم نے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں فرمایا کہ مدارس و مکاتب سے اعمال کا وجود ملتا ہے، تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے اور خانقاہوں سے، اللہ والوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے، خانقاہ کے معنی ہیں ”جائے بودن دُرویشاں“ درویشوں کے رہنے کی جگہ۔ خانقاہوں میں بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد پورا کیا جاتا ہے یعنی نفس کا تزکیہ۔

تزکیہ کی پہلی تفسیر

فَإِنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُ قُلُوبَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَعَنِ الْأَشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ يَعْنِي نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَهُ كَمَا دَلُوا كَمَا كَرِتَتْ هِيَنِ باطِلِ عقِيدَتِهِمْ سَعَى إِلَيْهِمْ بِسَبِيلٍ نِيَابَتْ غَيْرِ اللَّهِ سَعَى دَلِيلَ لَكَانَتْ سَعَى پَاكَ كَرِتَتْ هِيَنِ

خیز اللہ کے ساتھ دل لگانے سے۔ شیخ اور مرتبی بھی علی سبیل نیابت غیر اللہ سے دل لگانے سے پاک کرتا ہے۔ اصل تزکیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر نبوت ختم ہو چکی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائیبین

یعنی اولیاء اللہ، مشائخ اور بزرگان دین علی سنبیل نیابت قیامت تک یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے اور باطل عقیدوں اور غیر اللہ سے دلوں کو پاک کرتے رہیں گے۔ خانقاہوں میں یہی کام ہوتا ہے۔

ترزکیہ کی دوسری تفسیر

قلوب کی طہارت کے بعد علامہ آلوی نے نفوس کی طہارت بیان کی ہے فَإِنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُ نُفُوسَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے نفوس کو پاک کرتے ہیں گندے اخلاق سے۔ گندے اخلاق سے۔ غصہ ہے، شہوت ہے، نہ دیکھا حلال نہ دیکھا حرام، جہاں دیکھا نمکین چہرہ وہیں کھالیا نمک حرام اور نمک حرامی شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے نفوس کو اخلاقی رذیلہ سے پاک کرتے تھے۔

ترزکیہ کی تیسرا تفسیر

فَإِنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُ أَبْدَانَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْأَنْجَاسِ وَالْأَعْمَالِ الْقَبِيْحَةِ صحابہ کے بدن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ کیسے؟ نجاستوں سے اپنے کو پاک رکھنا اور اعمال قبیحہ سے بچنا سکھاتے ہیں۔ (تعالیٰ و ترکیہ کی اہمیت)

بعثت نبوت کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے

تو یہ شعبہ ترکیہ نفس بغیر شیخ و مرک کے نامکن ہے۔ عادت اللہ یہی ہے۔ آپ اپنے اکابر کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ولی اللہ بنے ہیں کسی ولی کی صحبت سے بنے ہیں اگر شاذ و نادر کوئی واقعہ ہو تو اس میں بھی کسی ولی کی غائبانہ توجہ ہوتی ہے۔ ورنہ دستور یہی ہے کہ جو بھی ولی ہوا کسی ولی کی صحبت سے ہوا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِ أُولَيَاءِهِ بِاللَّطْفِ وَالْكَرَمِ فَمَنْ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِهِمْ جن جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِاللَّطْفِ وَالْكَرَمِ اللہ کا کرم ان پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ (تمکیل معرفت، صفحہ ۲۲-۲۳)

تعالیٰ و ترکیہ کی تقدیم و تاخیر کے بعض عجیب اسرار

میرے شیخ اول حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بعض جگہ یُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ مقدم ہے اور یُرِكِیْهُمْ مَوْخَرٌ ہے اور بعض جگہ اس کے برعکس ہے۔ اس کی

کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں تعلیم کتاب مقدم ہے وہاں علومِ دینیہ کی عظمت کا بیان ہے تاکہ صوفیاء علومِ دینیہ سے مستغثی نہ ہوں اور شریعت و طریقت کو الگ الگ نہ سمجھیں اور جہاں تر کیہ مقدم ہے وہاں علماء دین کو تنبیہ ہے کہ ترکیہ کی نعمت سے غافل نہ ہونا۔ اس کی حضرت نے عجیب مثال دی تھی کہ ظرف کی صفائی سے مقصودہ نروف ہوتا ہے، شیشی کی صفائی سے مقصود عطر ہوتا ہے کہ صاف شیشی میں ڈالا جائے، تعلیم کتاب کے تقدم میں علم کی عظمت کا بیان ہے کہ صوفیاء عمر بھر قلب کی شیشی ہی نہ دھوتے رہیں علومِ دین کی بھی فکر کریں اور ترکیہ کے تقدم میں علماء کرام کو ہدایت ہے کہ قلب کی شیشی کی صفائی کی فکر کریں کہ گندی شیشی میں عطر کی خوبی ظاہر نہ ہوگی۔ غیر مزکی قلب سے فیضانِ علوم نہ ہوگا۔

اس کے بعد انکَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کا اس آیت سے کیا ربط ہے یعنی ترکیہ نفس سے کیا ربط ہے؟ چونکہ نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے اس لیے انکَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرمادیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ اے اللہ! نفس سے مقابلہ مشکل ہے، آپ نے اس کو امارۃ بالسوء فرمایا ہے یعنی کثیر الامر بالسوء بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا اور سوءِ اسم جنس ہے جو ساری دنیا کی برا بیوں کو شامل ہے۔ یہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ السوء میں الف لام جنس کا ہے اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحفاظ پر مشتمل ہو۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنے گناہ ہوں گے سب اسسوء میں شامل ہیں۔ نزولِ قرآن کے وقت جو گناہ تھے اور آج نئے نئے گناہ کے جو طریقے ایجاد ہو رہے ہیں سب اس میں شامل ہیں لیکن ان سے کیسے بچیں گے؟ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّنِيٍّ يَا مَا كَيَّا هُنَّ يَهُ مُصْدِرِيَّ، ظرفیہ، زمانیہ ہے۔ تین نام ہیں اس کے۔ اس لیے مفسرِ عظم علامہ آلوسی نے اس آیت کے ترجمہ میں بھی اس کی رعایت کی ای فی وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّنِيٍّ یعنی جب ہمارے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا تب ہی ہم اس ظالم نفس سے بچ سکتے ہیں، فی سے ظرفیہ بنایا، وقت سے زمانیہ بنایا اور رحم سے مصدر بنایا۔ الہدایہ ماظرفیہ، زمانیہ اور مصدریہ بن گیا۔ جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہو یہ نفس ہمارا کچھ نہیں بلکہ سلتا اور اللہ کی رحمت کا سایہ کب ملتا ہے؟ ﴿يَا حَسْنَى يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِيْتُ أَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكُلُّنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ﴾ (الستن الكبير للنسائي، کتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول اذا امسى، ج: ۲، ص: ۱۲۷)

کی دعا سے ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ میری ہر حالت کو درست فرمادیجئے اور پلک جھکنے بھر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کبھی اور پھر اہل اللہ کی صحبت ہو کیونکہ صحبت اہل اللہ میں خاصیت ہے کہ لا یَشْقَى بِهِمْ جَلِیْسُهُمْ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی یعنی بدجنت نہیں رہ سلتا اور جب شقاوتوں نہیں ہوگی تو رحمت مل جائے گی، شقاوتوں کے ساتھ لعنت

لازم ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لعنت کے معنی ہیں خدا کی رحمت سے دوری اور برکت کے معنی کوئی پوچھتے تباہ یا کہ برکت کے معنی ہیں فیضانِ رحمتِ الہیہ۔

اسماءِ اعظم عَزِيزُ اور حَكِيمٌ کا ترکیبِ نفس سے ربط

عزیز کے معنی کیا ہیں؟

﴿الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي اسْتِعْمَالٍ قُدْرَتِهِ﴾

یعنی جو ہر شئی پر قادر ہو اور جس کے استعمالِ قدرت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے مثلاً سارے عالم مل کر کہے کہ میں اس کو ولی اللہ نہیں ہونے دوں گا مگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں کہ مجھے اپنے اس بندہ کا ترکیہ کرنا ہے، اس کو ولی اللہ بنانا ہے تو اللہ کے ارادہ پر مراد کا تخلفِ محال ہے اور مراد حاصل ہونا لازم ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے فوراً بعد انکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرمایا کہ بندوں کے ضعف کا اعتراض کیا کہ اے اللہ نفس کا ترکیہ تو مشکل ہے لیکن آپ ایسے قادرِ مطلق ہیں کہ آپ کے استعمالِ قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ ہمارے ترکیبِ نفس کا اگر ارادہ فرمائیں کہ ہمیں اس بندہ کو اپنا بنانا ہے تو پھر اگر ہمارا نفس بھی چاہے کہ ہم اللہ والے نہ بنیں تو واللہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ارادہ کو مراد تک پہنچنا لازم اور تخلفِ محال ہے۔ اس لیے ترکیبِ نفس کے ساتھ اس آیت کا جوڑ ہے۔ بعض بڑے بڑے سالکین جو اللہ کے راستے میں چلے، ذکر اللہ بھی کیا، اللہ والوں سے بھی رابطہ کیا لیکن اللہ کی صفت عزیز کا ظہور نہیں ہوا تو نفس نے ان کو گردیا، کوئی جاہ سے گر گیا، کوئی شہوت اور باہ سے گر گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تک نہ پہنچ سکے۔

اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے آیت کا ربط یہ ہے کہ اے خدا جو بندہ آپ کی راہ میں سلوک طے کرے، اپنے نفس کے ترکیہ کی فکر کرے، اللہ والوں کی صحبوتوں میں جائے تو آپ بھی ارادہ فرمائیجئے کیونکہ آپ ہر شئی پر قادر ہیں اور آپ کی قدرت ایسی ہے کہ سارے عالم کے شیاطین، سارے عالم کے نفوذِ خیشنا آپ کے ارادہ میں خلل اندراز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو بندہ ترکیبِ نفس کا ارادہ کرے آپ اس کی مدد فرمادیجئے۔

اور حکیم کی تفسیر سن لیجئے کہ جب تک بندوں کا ترکیبِ نفس اور صفائی نہیں ہوگی اللہ اپنی نسبت عطا نہیں فرمائیں گے کیونکہ نسبت کے معنی ہیں کہ بندہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بندہ سے ہو۔ نسبت نام ہے تعلقِ طرفین کا۔ یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں ہے۔

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے
دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

لہذا فرمادیا کہ اے خدا جب آپ تزکیہ نفس فرمائیں گے تو پھر آپ کی حکمت کا تقاضا ہوگا وَضْعُ الشَّيْءِ فِی مَحْلِهِ کا کیونکہ حکیم کے معنی ہی ہیں ہر شی کو اس کے محل میں رکھنے والا ہذا جب بندہ کا تزکیہ ہو گیا، دل پاک صاف ہو گیا تو اس کا محل اس قابل ہو گیا کہ اب آپ اپنی محبت، اپنادرد، اپنی نسبت اس کو عطا فرمادیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمِ عظیم العَزِیْزَ لے کر اللہ تعالیٰ سے گویا عرض کر دیا کہ ہم کمزور ہیں مگر آپ عزیز ہیں، صاحبِ قدرت ہیں، اگر آپ ہمارے تزکیہ نفس کا ارادہ فرمالیں تو واللہ سارا عالم اگر کہے کہ اس کو ولی اللہ نبیں بننے دیں گے، یہاں تک کہ وہ ظالمِ خود بھی کہے کہ میں ولی اللہ نبیں بنوں گا لیکن آپ کے ارادہ کے سبب یقیناً یقیناً یقیناً وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے ارادہ پر مراد کا ترتیب لازم اور تخلف محال ہے۔ لہذا یہاں لفظ العَزِیْزَ کے استعمال کا مدعایہ ہے کہ ہم ضعیف ہیں، آپ اپنی قدرت غالباً، کاملہ، قاہرہ کو استعمال کیجئے کہ جو سالکین کرام ہیں اور آپ کی راہ میں تزکیہ چاہتے ہیں، ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی رحمت سے اپنی مددان کے شامل حال فرمادیجئے، صفتِ عزیز کا ان پر ظہور فرمادیجئے تاکہ ان کی کمزوریاں طاقت سے تبدیل ہو جائیں، ان کے ارادے مراد تک پہنچ جائیں۔

اور اسمِ عظیم الحَکِیْمَ کیوں نازل ہوا؟ جب آپ تزکیہ عطا فرمادیں گے، دل کو پاک فرمادیں گے تو یہ دل عطا نے نسبت کا محل ہو جائے گا کیونکہ وَضْعُ الشَّيْءِ فِی عَيْرِ مَحْلِهِ یعنی کسی شی کو غیر محل میں رکھنا تو ظلم ہے اور آپ ظلم سے پاک ہیں اور وَضْعُ الشَّيْءِ فِی مَحْلِهِ کسی شی کو اس کے محل میں رکھنا عین عدل ہے، عین کرم ہے۔ لہذا جب آپ کی صفتِ عزیز کے ظہور سے ان کا تزکیہ ہو جائے گا تو آپ کی حکمت خود متقاضی ہو گی کہ اس بندہ نے اتنی محنت کی اس کا دل محلی مصطفیٰ ہو گیا لہذا اب اس کے دل کو اپنی نسبت بھی دے دوں، اس کو ولی اللہ بھی بنادوں اور اس کے دل میں اپنی نسبت خاصہ کی تجلیات عطا فرمادوں۔

(تعلیم و تزکیہ کی اہمیت، صفحہ: ۳۸-۳۸)

آیت نمبر ۵

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

(سورةُ الْقُرْآن، آیة: ۱۵۲)

آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے اطائفِ عجیبہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں لذت رکھی ہے اور ہر شخص کے مجاہدہ اور قربانی کے مقدار کے مطابق لذت اپنے قرب کی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي تم ہمیں یاد کرو، ہماری اطاعت کے ساتھ آذْكُرْكُمْ ہم تمہیں یاد کریں گے اپنی عنایت کے ساتھ۔ جو لوگ عباداتِ مثبتہ یعنی ذکر و تلاوت و نوافل و عمرہ

وغیرہ کامزہ لیتے ہیں ان کی یہ عبادات ممزونج بالخلافۃ ہیں، ممزونج باعیش ہیں عبادت میں مزہ آرہا ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی کیونکہ فاذُکُرُونِی پر اذْكُرُكُم کا وعدہ ہے۔ لیکن عباداتِ منفیہ یعنی وہ عباداتِ جو مشقت و مجاہدہ کی ہیں یہاں فاذُکُرُونِی یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا تو اپنی رغبت شدیدہ کے باوجود دل پر غم اٹھا کر میری فرمائ برداری کرو، جب کوئی حسین سامنے آجائے تو نظر بچالو، یہ عبادت ممزونج بالالم ہے اس پر اللہ کی عنایت کما اور کیفًا زیادہ ہوگی۔ لہذا جو لوگ تقویٰ سے رہتے ہیں، گناہوں سے نجح کر غم تقویٰ اٹھاتے ہیں ان کے قلب میں اللہ کی محبت کی مٹھاس، ان کے درد دل اور قرب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے جیسا تمہارا فاذُکُرُونِی ہو گا ویسا ہی میرا اذْكُرُكُم ہو گا۔ جیسی تمہاری اطاعت ہوگی اسی کے بقدر میری عنایت تم پر ہوگی۔ ذکر و نوافل تلاوت و عبادات سے جو تم نے ہمیں یاد کیا اس پر بھی ہم تمہیں جزادیں گے اور اپنی عنایات سے تمہیں محروم نہیں کریں گے لیکن راستہ چلتے ان حسینوں سے، ان مٹی کے نقش و نگار سے تم نے نظر بچا کر جو غم اٹھالیا، مجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگا دی، دل پر زخم کھایا یہاں ہمارا ذکر کم کچھ اور رنگ کا ہو گا۔ نماز و تلاوتِ نفلیٰ حج و عمرہ میں ہمارا اذْكُرُكُم تمہارے فاذُکُرُونِی کے مطابق تو ہے لیکن رغبت شدیدہ کے باوجود نظر بچا کر جو مجاہدہ شدیدہ اٹھاؤ گے تو ہمارے اذْكُرُكُم کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی۔ تم نے میرے لیے اپنی خوشیا یہ میرے راستہ کام ہے، میرے راستہ کا کانٹا ہے لہذا ساری دنیا کی خوشیوں سے اور ساری دنیا کے پھلوں سے افضل ہے۔ میرے راستے میں اگر ایک کانٹا چھجھ جائے تو یہ کانٹا تلقینی ہے کہ ساری دنیا کے پھولوں اگر اس کو گارڈ آف آنزا اور سلامی پیش کریں تو اس کا کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے راستے میں دل کو ایک ذرہ غم پہنچ جائے تو یہ ذرہ غم اتنا قیمتی ہے کہ اگر سارے عالم کی خوشیاں اس کو سلام احترامی پیش کریں تو اس ذرہ غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کافاذُکُرُونِی الگ ہے لہذا ہر ایک کے ساتھ میرا اذْكُرُكُم الگ ہے، جیسے جس کے مجاہدات، جتنی جس کی قربانی اسی کے مطابق میری عنایات و مہربانی۔ جن کا ذکر ممزونج بالالم ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، جہاز میں ایئر ہوسٹس و مہربانی میں حسینوں میں حسینوں سے نظر بچاتے ہیں جن کی ہر سانس غمزدہ ہے، حرست زدہ ہے، زخم زدہ ہے، جن کے بازاروں میں خون بہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے ان کا انعام اذْكُرُكُم اللہ تعالیٰ کی عنایات قلب میں دریائے خون بہہ رہا ہے، پر عظیم الشان نہ ہوں گی؟ بھلا ان کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں جن کے پاؤں میں کبھی ایک خاصہ بھلا ان پر عظیم الشان نہ ہوں گی؟ بھلا ان کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں جن کے پاؤں میں کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چھا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں جو جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اس کو اتنی ہی عظیم الشان عنایاتِ خاصہ سے نوازتے ہیں۔ (افضالِ ربانی، صفحہ: ۵۰-۵۲)

آیت نمبر ۶

﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ أَذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ ۝﴾

(سورہ البقرۃ، آیات: ۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بھی۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے وَلَنَبْلُونَكُمْ میں ضمیر کُمْ حاضر کی ہے مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے وَلَنَبْلُونَكُمْ کے معنی امتحان لینے کے ہیں جیسا کہ سورۃ مکہ میں فرمایا:

﴿لَيَبْلُوُكُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾

(سورہ الملک، آیۃ: ۲)

اے انسانو! تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آکر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو۔

ابتلاء و امتحان کا مفہوم

علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حقیقت ابتلاء و حقیقت اختبار کا عام مفہوم تحصیل علم ہے کہ جس کا امتحان لیا جائے۔ اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے جیسے مدرسون کے ممتحن اور ممتحن اسی لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ طالب علم میں کتنی قابلیت ہے، اس کو سبق یاد ہے یا نہیں اور یہ پاس ہو گا بھی یا نہیں۔ تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعمود بالله، اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجہ کا صابر اور کس درجہ کا وفادار ہے اور یہ اللہ کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو کیونکہ:

﴿وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَيِّرُ。 وَهُوَ عَلِيمٌ بِدَارَاتِ الصُّدُورِ﴾

وہ لطیف ہے خبیر ہے علیم ہے ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے لہذا ہمارا امتحان کے معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قابلیت صبر جانے کے لیے امتحان لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر امتحان جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، ہماری طاقت دست و بازو

سے وہ باخبر ہے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ امتحان اور ابتلاء استعمال فرما تھا تھصیل علم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہیں کہ وہ ہر حال میں صابر اور میرے وفادار رہیں گے۔

عاشقانِ خدا کے امتحان کا مقصد

لیکن اس امتحان سے سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی مجھ کو نہیں بھولتے اور غمتوں میں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے۔ لہذا یہاں امتحان سے تھصیل علم کا مفہوم محال ہے یہ تو بندوں کے لیے ہے کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہم امتحان کے ذریعہ و سروں کی قابلیت کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ امتحان سے بے نیاز ہے۔ وہ بغیر امتحان ہمیں خوب جانتا ہے۔ وَ لَنْبَلُوْنَكُمْ ضرور ضرور، ہم تمہارا امتحان ہیں گے یعنی ان آزمائشوں سے، ان جمادات سے تمہیں گزاریں گے تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو! تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی۔ ہماری امداد سے ہوگی:

﴿وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾

(سورة الحج، آیہ: ۱۲۷)

جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبراۓ گی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کے امتحان کے منصوص پرچے

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَنْبَلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ ۝ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلاکا ہو گا شیئی میں تنوین ہے وہ تقليل کے لیے ہے۔ شیئی کے معنی ہیں تھوڑا اور بداخل کر دیا جس کے معنی ہوئے کہ شیئی کا بھی کچھ جزو یعنی قليل ترین بہت ہلاکا پرچہ ہوگا لہذا زیادہ گھبراؤ مرت اور کس چیز میں امتحان ہوگا؟ آگے پرچہ مضمون بھی بتا دیا۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہو گا اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرمادیا اور تفسیر روح المعانی میں ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ مصیبت فجائیہ یعنی جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے فیلڈ تیار ہو جاتی ہے، صبراً آسان

ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرمادیا کہ فلاں فلاں مصائب تم لوگوں کو آئے گی اور ان ان مصائب میں تمہارا امتحان ہو گا۔ تو پہلے سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو گیا اور اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصائب کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ! میرے اماں ابا کو یا بیوی کو یا شوہر کو یہ تکلیف نہ دیجئے اب تخل نہیں ہے کہ اگر اب زیادہ دن تک فانچ رہے گا تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گی اور تمام بدن سڑ جائے گا۔ کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے۔ یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے۔ جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں اگر ایک طرح لیٹے رہیں تو کھال زخمی ہونے لگتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے امتحان کا پہلا پرچہ

تو اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَيَأْتُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾

ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اور اس آزمائش اور امتحان کا پہلا پرچہ خوف ہے یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے لیکن گھبرا نہیں یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہو گا۔ شیئ کا استعمال بھی تقلیل کے لیے ہے اور تو نیں بھی تقلیل کے لیے اور من بھی تعییض یہ ہے یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہاری آزمائش ہو گی جو دشمنوں سے یا نزولی حادث یا مصائب کی وجہ سے پیش آئے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں **الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ حَوْفُ الْعَدُوِّ** خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے۔

انبیاء علیہم السلام پر مصائب کی وجہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ﴾

(سورہ الفرقان، آیہ: ۳۱)

ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا۔ یہ جعل تکونی ہے انبیاء کی ترقی درجات و تربیت کے لیے بس جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو یہ شخص علی منهج البوّۃ نہیں ہے ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے اگرچہ اُمّتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مصائب مجھے دیئے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گذارا گیا کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے لہذا جن کے رتبے ہیں سوانح کو سوا مشکل ہے

اسی طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا:

﴿وَبِلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾

(سورة الاحزاب، آیہ: ۱۰)

یہاں تک کہ بعض وقت کیجئے منہ کو آگئے:

﴿وَرُلُّوْنَا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾

(سورة الاحزاب، آیہ: ۱۱)

اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے ان کو ہلا دیا گیا لیکن پھر بھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ غرض وہ خوف میں بتلا کیے گئے۔

اولیاء اللہ پر مصائب کی وجہ

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے بڑے درجہ کی عزت دیتا ہے تو اس کو ذرا خوف سے بھی گذرا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابق غم تکبر سے اس کی محافظت کریں۔ اس کی عبدیت کا زاویہ قائمہ ۹۰ روڑگری قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آخرت ہو جائے۔ جس قیجع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آخرت باہ سے ضائع ہوتی ہے نہ جاہ سے ضائع ہوتی ہے اور نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے۔ سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اور اس کی عاجزی اس کی آہ و ذاری اس کی اشکنباری ہمیشہ قائم اور تابندہ درخشنده اور پائندہ رہتی ہے۔ اس لیے غم سے گھبرا نہیں چاہیے۔ ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے:

﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾

اور جنگ بدوغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے لیکن انبیاء کو جو مصائب دیئے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں۔ انبیاء کو عجب و کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیئے جاتے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اخلاق رذیلہ اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتے اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفتہ شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ عجب و کبر سے ان کی حفاظت رہے۔

امتحان کا دوسرا پرچہ

اور خوف کے بعد دوسراے امتحان سے آگاہ فرمائے ہیں۔ و الجوع تمہارے امتحان کا دوسرا

پرچہ بھوک ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے اصل میں بھوک مسبب ہے اس کا سبب قحط ہے لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی کہ بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا۔ اور روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی تو یہ تسمیہ السبب باسم المسبب ہے۔ اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس نبی اُمی کی زبان سے مجاز مرسل کا استعمال جس نے کبھی مکتب کامنہ دیکھا ہوا، نہ مختصر المعانی پڑھی ہونے مجاز مرسل کا نام ہی سنایا ہو یہ دلیل ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کلام نہیں بناتا۔ بکریاں چرانے والا پیغمبر اپنی بلاغت سے تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے۔ اس اُمی کی زبان سے ایسا فصح و بلیغ کلام جاری ہونا خود دلیل ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ سینہ نبوت پر کلام اللہ نازل ہو رہا ہے اور کلام اللہ کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنے اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانے اور بیان کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی دُھراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اے نبی نزولِ وحی کے وقت آپ جلدی جلدی دُھرا یا نہ کبھی کونکہ آپ کے قلب مبارک میں اس کا جمع کرادیا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوادیا ہمارے ذمہ ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

(سورة القيامة، آیہ: ۱۹)

پھر لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرادیا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا آپ کیوں گھبرا تے ہیں۔

امتحان کا تیسرا پرچہ

تو امتحان کے دو پرچے ہو گئے۔ پہلا پرچہ خوف اور دوسرا پرچہ بھوک اور تیسرا پرچہ ہے:

﴿وَنَفْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾

اور کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا اور گس طرح سے ہوگا؟ کبھی تجارت میں گھٹا ہوگا اور صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی۔

امتحان کا چوتھا پرچہ

اور چوتھا پرچہ ہے وَالْأَنْفُسِ اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے یعنی ان ڈھاٹِ الْأَحِجَّةِ لِسَبَبِ الْقُتْلِ وَالْمَوْتِ کسی کا قتل ہوگا کسی کوموت آئے گی اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا۔ موت چاہے قتل سے ہو یا طبعی ہو کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتادیا کہ یہ مصیبت

اچانک نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتاچکے ہیں کہ ان مضمومین میں تمہارا امتحان ہوگا۔ اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر بتانے والا اللہ جہاں تخلف نہیں ہو سکتا جہاں جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔

امتحان کا پانچواں پرچہ

اور پانچواں امتحان ہے والشَّمَرَاتِ اور بُحْرَى اللَّهِ تَعَالَى پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اس کی تفسیر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے کہ اولاد مان باپ کے لیے پھل ہوتے ہیں۔ بہر حال ظاہر تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے۔

المصیبت اور لفظ بشارت کا ربط

کیوں صاحب اگر مصیبتوں بلائیں اور تکالیف بُری چیز ہیں تو کیا بری چیز پر بھی بشارت دی جاتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَبِشِّرِ الصَّابِرِينَ اَمَّا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنادیجئے۔ کسی کو تکلیف ہوا اور آپ کہیں مبارک ہو تو اس کو کس قدر غم ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے مصیبت اگر بُری چیز ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہ فرماتے اور بشارت دینے والا ارحم الراحمین ہے اور جس کے ذریعہ بشارت دلا رہے ہیں وہ رحمۃ للعالمین ہے یعنی سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت دلوائی ہے لہذا یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے یہ بشارت دلیل ہے کہ یہ مصیبت زحمت نہیں رحمت ہے، نعمت ہے اور کوئی عظیم الشان چیز ملنے والی ہے جیسے کوئی کسی سے موڑ سائیکل چھین لے اور مرسٹیز دے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ پس مصیبت مومن کے لیے بری چیزوں نہیں کیونکہ صبر کے بدله میں اللہ تعالیٰ اس کوں جاتے ہیں اور۔

متاعِ جانِ جاناں جان دینے پر بھی سستی ہے

پس صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس پر معیتِ الہیہ کا انعام عظیم ملتا ہے۔

صبر کی تین قسمیں

صبر کے تین معنی ہیں:

۱) الصَّابِرُ فِي الْمُصِيبَةِ مصیبت میں صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے، دل سے شکایت اور

اعتراض نہ کرے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے اتنا ہی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے جس کا نام رضا بالقضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی رہنا یہ صرف سنت اور مستحب اور واجب نہیں، بلکہ فرض ہے کہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو اور دل سے شکایت نہ کرے گو آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ اشکبار ہونا اور غم کا اظہار کرنا یہ صبراً اور رضا بالقضا کے خلاف نہیں۔ میرا ایک شعر ہے۔

حضرت سے میری آنکھیں آنسو بہار ہی ہیں

دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے

بعض نادان کہتے ہیں کہ دیکھوatanے بڑے عالم ہو کر رور ہے ہیں۔ وہ نادانی سے سمجھتے ہیں کہ رونا خلاف سنت ہے۔ حالانکہ خلاف سنت تو کیا ہوتا یعنی اتباع سنت ہے کیونکہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلیل رحمت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلافِ صبر نہیں۔ لہذا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اس نے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کی۔ بعض لوگوں نے ضبط کیا اور نہیں روئے۔ آہ! بھی نہیں کی تو کیا ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور حرکت قلب بند ہو گئی لہذا اتباع سنت میں ہماری حیات ہے، ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ اس لیے غم میں کچھ آہ کرو، کچھ رولو، کچھ مرنے والے کا تذکرہ بھی کرو۔ یہ دلیل رحمت ہے دلیل تعلق ہے اور اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے یہ خلافِ صبر نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ اعتراض کرنے لگے یا زبان سے شکوہ کرے کہ میرے عزیز کو ابھی سے کیوں اٹھا لیا وغیرہ۔ اور صبر کی دوسری قسم کا نام ہے:

۱) الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ طَاعَتْ پر صبر کرنا یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے، دین کا جو کام کرتا ہے جیسے نماز، روزہ، ذکر و تلاوت سب پر قائم رہے، فرمائی برداری و طاعت پر قائم رہنا بھی صبر ہے۔ اور تیسرا قسم ہے:

۲) الصَّبْرُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ گناہوں سے صبر کرنا جب گناہ کا تقاضا ہو تو نفس کو گناہ سے روکنا اور نفس پر کنٹروں رکھنا اور اس گناہ سے رکنے میں دل پر جو غم اور دُکھ آئے اس کو برداشت کرنا یہ صبر سے اعلیٰ ہے یہ وہ صبر ہے جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو، جو شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہوا گر کوئی حسین شکل سامنے آجائے تو اسے دیکھنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے مگر یہ تقاضے پر عمل نہیں کرتا اور چونکہ تقاضا شدید ہے اس کی وجہ سے اس کے نچے میں اس کو مجاہدہ شدید ہو گا اور جب مجاہدہ شدید ہو گا تو اس کو مشاہدہ بھی شدید ہو گا یعنی اللہ کی تجلی اس کے قلب پر قوی تر ہو گی۔ پس جو شخص

صبر کی مذکورہ تینوں قسموں پر عمل کرے گا تو پھر:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

(سورة الانفال، آیہ: ۳۶)

یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا انعام ہے اور صبر کی بدولت ہی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام مقام صدیقیت نصیب ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

صبر بگذیند و صدیقیں شدند

انہوں نے صبر اختیار کیا اور مقام صدیقیت تک پہنچ گئے یہ نہیں کہ مصیبت پر صبر کر لیا، طاعت پر بھی صبر کر لیا لیکن شراب و زنا اور بدمعاشی جاری ہے، معیت خاصہ کا انعام جب ملتا ہے جب صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو خصوصاً جو الصَّابُرُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ یعنی گناہوں کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت علیا سے محروم رہے گا، ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے مگر میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے کہ میرے قلب میں شکستگی آجائے، میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلا بھنا کتاب ہو اور میرے قلب پر تجلیات الہیہ متواترہ، مسلسلہ، بازنگ، وافرہ عطا ہوں تو وہ گناہوں سے نجحے کا غم اٹھائے۔

حضرت اولیٰ قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو و سو میل حجاز مقدس تک گئی جبکہ رسول خدا حالت سفر میں تھے اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا:

﴿إِنِّي لَا جُدُّ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبْلِ الْيَمِنِ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب المناقب، باب ذکر الیمن والشام)

یمن سے مجھے اللہ کے قرب کی خوشبو آ رہی ہے۔ مشک میں اتنی طاقت کہاں کہ دوسو میل تک اس کی خوشبو جائے یہ حضرت اولیٰ قرنی کے قلب کی خوشبو تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہا تھا۔

(صبر اور مقام صدیقیں، صفحہ: ۲۷)

ہمت سے کام لو تو اللہ تعالیٰ امتحان میں صبر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بشارت

دلار ہے ہیں:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ﴾

اے نبی! آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور ان ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔

استرجاع کی سنت

اور مصیبت کی چار تفسیر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل موقع پر صبر فرمایا اور إِنَّ اللَّهِ

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ ان چار مقامات پر اِنَّ اللَّهَ پڑھ کر سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کر دی کہ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر بھی اِنَّ اللَّهَ پڑھ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی معیت خاصہ کی دولت حاصل کرلو وہ کیا ہے؟

۱۔ عِنْدَ لَدْغِ الشَّوْكَةِ كَثُرًا چَبَحَ جَانَے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے آیتِ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ کی تفسیر میں صاحبِ تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ سروِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مواقع پر اِنَّ اللَّهَ پڑھ کر عمل کا راستہ کھول دیا تاکہ تمہارے اندر فہم پیدا ہو کہ کہاں کہاں پڑھنا چاہیے۔

۲۔ وَعِنْدَ لَسْعِ الْبَعْوضِ اور جب مُحَمَّر کاٹ لیتا تھا تب بھی آپ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے تھے۔ یہ راستہ مل رہا ہے کہ چھوٹی مصیبت پر بھی فضیلت مل رہی ہے، ہے تو چھوٹی مصیبت مگر بڑی فضیلت لے لو، چھوٹے عمل پر اجر عظیم لے لواور اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کی معیت خاصہ حاصل کرلو۔ اور آپ نے یہ خاموشی سے نہیں پڑھا زبان ملند آواز سے پڑھا جب ہی تو صحابہ نے سناب صحابہ کا سننا دلیل ہے کہ آپ نے زبانِ نبوت سے جہراً پڑھا جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے یا بیٹھ کر تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا:

﴿وَتَرْكُوكَ قَائِمًا﴾

(سورة الجمعة، آیہ: ۱۱)

خطبہ کی حالت میں آپ قائم یعنی کھڑے تھے جب اونٹوں کا قافلہ دیکھ کر گندم لینے کے لیے بعض صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہوا کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ وَتَرْكُوكَ قَائِمًا میں قائمًا حال ہے اور فعل حال سے مقید ہوتا ہے یعنی اس حالت میں آپ کو چھوڑا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے تو ایسے ہی صحابہ کا اِنَّ اللَّهَ سَنَادِيلٌ ہے کہ آپ نے جہراً پڑھا۔ اور تیرام موقع جب آپ نے اِنَّ اللَّهَ پڑھا۔

۳۔ وَعِنْدَ انْطِفَاءِ الْمُضَبَّاح اور جب چراغ بجھ جاتا تھا تو بھی آپ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے تھے۔ اس زمانہ میں جب کبھی بجلی فیل ہو جائے تو اس سنت کو ادا کر لیا کریں۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے۔ چراغ نہیں ہے تو بجلی تو ہے لہذا یہ سنت ادا کرو۔ ایک دفعہ بجلی فیل ہو گئی تو حضرت ڈاکٹر عبدالجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بجلی تو فیل ہوئی مگر دل میں بجلی تو ہے اور چوتھا موقع جب آپ نے اِنَّ اللَّهَ پڑھا وہ یہ ہے:

۴۔ وَعِنْدَ انْقِطَاعِ الشَّسْعِ جَبَ كَفِيَّةً ثُوِّثَ جَائَ تَبَّ بَهِيٌّ پُرْهُوا نَانَا لَلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ
چار مثالیں ہیں۔

تعریفِ مصیبت بزبانِ نبوت ﷺ

رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمۃ دیکھئے کہ ان چار مثالوں پر عمل کر کے امت کو دکھادیا
لیکن پھر آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا چونکہ ہر شفیق اور مہربان استاد چند جزیئات کے بعد ایک کلیہ بیان
کر دیتا ہے تا کہ شاگرد اس پر قیاس کر سکے، ہندا رحمۃ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان فرمادیا
تا کہ قیامت تک آنے والی امت اپنی ہر حالت کو اس پر منطبق کر سکے اور قیاس کر سکے کہ *إِنَّا لِلَّهِ پُرْهِنَّ* کے کیا
موقع ہو سکتے ہے۔ ہندا آپ نے کلیہ کے طور پر مصیبت کی تفسیر بیان فرمادی کہ:

﴿كُلُّ مَا يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ فَهُوَ مُصِيبَةٌ لَهُ وَأَجْرٌ﴾

(تفسیر روح المعانی)

ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن
لو کہ اگر دس سال پہلے کی مصیبت یاد آ جائے جیسے دس سال پہلے کسی کا انتقال ہو اور آج اس کا خیال آ گیا اور
دل میں تھوڑا سا غم آ گیا تو پچھلی مصیبتوں پر بھی جو *إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* پڑھے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔

اس امت کی ایک امتیازی نعمت

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو سابقہ امتوں
میں سے کسی امت کو نہیں دی گئی اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت تم *إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* کہو ہندا ہم
سب کو اپنی قسمت پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور
ظفیل میں وہ نعمت دی جو پچھلی امتوں میں کسی کو بھی نہیں دی اور فرمایا کہ اگر پہلے کسی کو یہ نعمت دی جاتی تو سب
سے زیادہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو اس
وقت وہ کہے *إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* لیکن چونکہ یہ نعمت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس لیے بیٹے کے گم ہونے
پر آپ کو جو غم پہنچا تو آپ نے کہا:

﴿يَا أَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾

(سورہ یوسف، آیہ: ۸۲)

ہائے یوسف! ہندا اس امت کو *إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَابِ الْأَمْتِيزَ نِعْمَتٌ* ہے جو سارے عالم میں ہم کو امتیازی شرف
دیتی ہے، اہم سابقہ سے ممتاز کرتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے

کرم ہمیں عطا ہوئے۔

حقیقی صبر کیا ہے؟

علامہ آلوی تفسیر و روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ صبر صرف زبان سے انا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، سنت استرجاع یعنی انا اللہ پڑھنے کی سنت حقیقی معنوں میں اس وقت ادا ہوگی جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، ملکیت ہیں مملوک ہیں اور مالک کو اپنی ملک میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے لہذا ہمارے گھر میں اور مولا نا مظہر سلمہ کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھیں۔ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جہاں چاہے رکھے اور جب تک چاہے رکھے اور جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے۔ انا اللہ سے مراد یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور مالک کو ہم پر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے وانا الیہ راجعون اور یہ جداً عارضی ہے ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں ان سے بڑھ کر کائنات میں صبر کا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ مصیبت میں اس کلمہ سے زیادہ مفید ولا جواب موتی کا کوئی مفرح خیر نہیں پیش کر سکتا۔ (صبراً مقام صدقۃ العین، صفحہ: ۳۰-۲۲)

پہلی بشارت.....رحمت خاصہ

صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾

صلوات جمع ہے صلوٰۃ کی معنی خاص خاص رحمتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں نازل فرمائے گا لیکن آگے وَرَحْمَةٌ نازل فرماء کرتا دیا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کروں گا، یہ تعمیم بعد التخصیص ہے کہ صابرین پر خاص خاص رحمتیں تو اللہ تعالیٰ برسائے گا، ہی مگر رحمت عامہ بھی دے گا یعنی رحمت خاصہ کے آبشار کے سلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی ملے گی، پے در پے صلوٰات اور رحمت پر رحمت نازل ہوگی۔ تفسیر بیان القرآن ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلوٰات سے مراد خاص خاص رحمتیں ہے۔

دوسری بشارت.....رحمت عامہ

اور جو بعد میں وَرَحْمَةٌ ہے یہ تعمیم بعد التخصیص ہے یعنی رحمت عامہ مراد ہے اور اس کی وجہ حضرت نے عجیب بیان فرمائی کہ چونکہ حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین مشترک ہیں اس لیے اس کا بدله

رحمتِ عام ہے لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت و خصوصیت و مکیت جدا ہے لہذا ان خصوصیات کا صلہ بھی جد اجُد اخاص عنایتوں سے ہوگا۔ جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایت خاصہ اس پر پرمذول ہوگی اور یہ نزولِ رحمت تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رحمتیں نازل ہوں گی مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا کہ تمہارا رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا۔ دیکھو کوئی دوست کسی کو براہ راست کوئی چیز دے اور خود نہ دے بلکہ کسی کے ذریعہ سے دے تو فرق ہے یا نہیں؟ تو مِنْ رَبِّهِمْ سے اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھادیا اور صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمتِ عامہ بھی۔

تیسرا بشارت نعمتِ احتداء

وَأَوْلَىٰكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور مطلوب تک بھی پہنچادیا یعنی اس حقیقت تک ان کی رسائی ہوئی کہ حق تعالیٰ ہی ہمارے ماں لک اور نقصان کا تدارک کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک تو اِرَاءَةُ الطَّرِيقِ یعنی راستہ دکھانا اور دوسرے اِيْصالُ إِلَى الْمَطْلُوبِ یعنی مطلوب تک پہنچادیتا۔ اِرَاءَةُ الطَّرِيقِ یہ ہے کہ جیسے کوئی راستہ دکھادے کر وہ نیپاچورگی ہے اور اِيْصالُ إِلَى الْمَطْلُوبِ یہ ہے کہ نیپاچورگی تک پہنچادیا پس صبر کی دو برکات ہیں ایک تو اللہ کا راستہ نظر بھی آئے گا اور دوسرے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ہوگی۔ یہ ہے مُهَتَّدُونَ کا ترجمہ کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جن کو اپنے ملک ہونے اور حق تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین آگیا اور جو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقصان کا تدارک فرمادیتے ہیں۔ (صبرا و مقام صدقین، صفحہ: ۲۰-۲۲)

آیت شریفہ کی مزید تشریح

علامہ آلوی تفسیر روح المعانی ج ۲۳ ص ۲۳ پر تحریر فرماتے ہیں کہ مصیبتِ عام ہے جو تکلیف بھی انسان کو پہنچے اس کے نفس کو یا مال کو یا اہل و عیال کو قلیل ہو وہ ناگوار بات یا کثیر ہو یہاں تک کہ کاشاچھ جانا، پھر کا کاشنا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانا، چرانغ بجھ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام موقع پر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف دے وہ مصیبت ہے اور اس کے لیے اجر ہے۔ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مِنْ إِذَا سَأَلَهُمْ ہے کہ إِنَّ الْأَجْرَ لِمَنْ صَبَرَ وَقَتَ أَصَابَتْهُمْ یعنی اجر اس شخص کے لیے ہے کہ جب تکلیف پہنچے اس وقت صبر کرے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ مُصِيبَةٍ جزیں نیست کہ صبراً اول مصیبت کے وقت ہے (کیونکہ دن گذرنے سے تو صبر سب ہی کو آ جاتا ہے) اسی لیے علامہ آلوی نے دوسری جگہ رضاۓ بالقضاء کی تعریف کی

ہے رضا و ہو سُرُورُ القلبِ بِمُرُورِ الْقَضَاءِ دل کا مسرور ہونا قضا کے ورود کے وقت لیکن اس رضا کا نام رضا طبعی ہے جو غلبہ انس اور غلبہ شوق میں نصیب ہوتا ہے جس کا بندہ مکلف نہیں، جس رضا کا درجہ فرض ہے وہ رضا عقلی ہے۔

تعريف رضا عقلی جو حضرت حکیم الامت تھانوی نے بیان فرمائی ہے وہ قضا پر عدم اعتراض ہے وہ ہو ترکُ الاعتراض علی القضا نیز فرمایا کہ رضا عقلی میں احساس الہم کا ہوتا ہے اور رضا طبعی میں احساس الہم باقی نہیں رہتا۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ صبر صرف زبان سے انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ صبر زبان سے بھی ہو اور قلب سے بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جوان سے کہیں زیادہ ہیں جو حق تعالیٰ نے اس سے واپس لی ہیں۔ اس سے صبر کرنا آسان ہوگا اور تسلیم کی شان پیدا ہوگی اور استرجاع یعنی انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس امت کے لیے خاص انعام ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایک چیز ایسی دی گئی ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی سابقہ امتوں سے اور وہ یہ کہ مصیبت کے وقت تم انا اللہ و انا الیہ راجعون کہو اور اگر کسی کو یہ استرجاع دیا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا جاتا جس وقت کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں فرمایا تھا یا آسفًا علی یوْسُفَ هَبَّ يَوْسَفَ!

سنتِ استرجاع کی تکمیل

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ انا اللہ و انا الیہ راجعون کے بعد یہ کہے اللہُمَّ اجْرِنِنِی فِي مُصِيبَتِي وَ اخْلُفْ لِنِي خَيْرًا مِنْهَا اے اللہ مجھے اجر عطا فرمای میری مصیبت میں اور اس سے بہتر کوئی نعمت مجھے عطا فرم۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سُنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے یعنی انا اللہ سے خیرًا مِنْهَا تک تو حق تعالیٰ شانہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ پس جب ابو سلمہ (ان کے شوہر) کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس کو پڑھا اور حق تعالیٰ نے ان سے بہتر عطا فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

علامہ آلوی فرماتے ہیں اُولِیٰکَ عَلَيْهِمْ صَلَوةً مِنْ رَبِّهِمْ کو حق تعالیٰ شانہ نے جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا ہے جس میں اشارہ ہے ان نُزُولَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی خاص و عام رحمتوں کا صابرین پر نزول ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

اس حدیث سے اس اشارہ کی تائید بھی ہوتی ہے جس کو روح المعانی میں اسی مقام پر درج کیا گیا ہے:

﴿عَنْ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا مِنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُصِيبَةً وَأَحْسَنَ عَقْبَاهُ وَجَعَلَ لَهُ خَلْقًا صَالِحًا يَرْضَاهُ﴾

ترجمہ: جس شخص نے مصیبت پر انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مصیبت کے نقصان کی تلافی فرماتے ہیں اور اس کے عقبی کو احسن کر دیں گے اور اس کو ایسا نعم البدل فرمائیں گے جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ دوم، صفحہ: ۲۱۵-۲۱۰)

آیت شریفہ کی تشریح بعنوان دگر

جس کے یہاں کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے وہاں حاضر ہونا اور کچھ تسلی کے کلمات پیش کرنا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ تعزیت کے معنی ہیں تسلی دینا۔ اس لیے تعزیت سنت ہے اور سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غزدہ دلوں پر سکون و تسلی کا مرہم عطا فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دے دیا اور تسلی (تعزیت) کو تین روز تک کے لیے سنت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تین دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے، تین دن تک غم اپنے جوش پر ہوتا ہے لہذا تین روز تک تسلی دینا سنت ہے، اس کے بعد مسنون نہیں، تین دن کے بعد یہ غم آہستہ ہلکا ہوتے ہوئے سال دو سال کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیا سانحہ گذر اتحا تصور میں تو آئے گا کہ میری ماں نہیں ہے لیکن ایسا غم نہیں ہوگا جیسا اس وقت ہے۔

میری والدہ کا ناظم آباد میں جب انتقال ہوا تقریباً پندرہ سال پہلے تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی چار پائی دیکھ کر، ان کا پانداں دیکھ کر دل رو نے لگتا تھا۔ لہذا میں اپنے دوستوں میں دل بھلانے کے لیے ٹیکسلا چلا گیا لیکن آج غم کا کوئی ایک ذرہ معلوم نہیں ہوتا۔ بس ایک ہلکا ساختیاں تو ہوتا ہی ہے ماں باپ کا، ماں باپ کی محبت کو تو کوئی شخص بھول سکتا ہی نہیں۔

اس لیے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھار ہے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت نازل کردی کہ تم اللہ سے یوں کہو:

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾

(سورۃ الاسراء، آیہ: ۲۲)

اے میرے رب! میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرماجیسا کہ انہوں نے مجھپن میں میری پروردش کی۔

اللہ تعالیٰ سکھار ہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو۔

اللہ تعالیٰ نے غم زدہ دلوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی صدمہ اور غم پہنچے، جب کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آجائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی اور کہتے ہیں اِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ اِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں زبردست تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں دو جملے ہیں ایک اِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اِنَّا إِلَهٌ کے معنی ہیں کہ ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں، لام ملکیت کے لیے آتا ہے یعنی ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں اگر اپنی ذات کے مالک ہوتے تو خود کشی جائز ہوتی کیونکہ اپنی چیز میں آدمی کو تصرف کا حق ہے اگر ہم اپنی چیز ہوتے تو گلے میں پھنڈاڑا الناجم نہ ہوتا لیکن خود کشی اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے مالک نہیں ہو تم ہماری امانت ہو، ہماری چیز ہو، تمہیں اپنا گلا گھوٹنے کا کیا حق ہے؟ یعنی خود کشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم و جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اِنَّا إِلَهٌ کے معنی ہیں کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں لہذا اس جملے میں ایک تسلی تو یہ ہے کہ جب ہم مملوک اور غلام ہیں تو مالک کو ہمارے اندر ہر تصرف کا حق حاصل ہے جو چیز چاہے ہم کو دے جس کو چاہے ہم سے لے لے کیونکہ صدمہ کے وقت میں دو خیال آتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری ماں، باپ یا شوہر کو جلدی بلا لیا، ہم سے چھین لیا۔ اس کا جواب اِنَّا إِلَهٌ ہے کہ تمہاری ماں، باپ، شوہر یا بیٹا بھی ہماری ملکیت، تم بھی ہمارے غلام۔ اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عمر ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس عزیز کی جدائی سے جو غم ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے۔ تو اس کے لیے تسلی کا دوسرا مضمون وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نازل فرمادیا کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جداںی دائی تھوڑی ہے، عارضی جداںی ہے۔ آج تمہاری ماں گئی ہے ایک دن تم بھی ہمارے پاس والپس ہو گے۔

آج وہ کل ہماری باری ہے

اور وہاں سب اعزاء و اقرباء پھر مجاہیں گے اور پھر کبھی جداںی نہ ہو گی لہذا کیوں گھبرا تے ہو؟

(تلیم درضا، صفحہ: ۱۲۔ ۱۳)

غمزدہ دلوں کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا زبردست مضمون نازل فرمایا ہے اور اس سے قبل ہی صبر کرنے والوں کو یہ بشارت بھی سنادی کہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی ہم صبر کرنے والوں کے

ساتھ ہیں۔ پس کسی کے انتقال پر یا مصیبت پر جو اجر و ثواب ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تو ہے ہی لیکن اگر تم سے تمہاری کوئی چیز کھو گئی تمہاری اولاد ماس باپ، بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بدلہ میں ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں انَّ اللَّهَ مَعَ الصُّبْرِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔

آپ سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوں اس کی کیا قسمت ہے۔ اور اس کے لیے کیا بڑی دولت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے نو مسلم قریش نوجوان کی کچھ بکریاں کچھ بھیڑ کچھ اونٹ زیادہ دے دیئے تو شیطان نے بعض انصاری نوجوانوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے زیادہ انس ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں کو دیکھا اور ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اس خطرناک زہر لیے مکر سے مطلع فرمایا۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے مدینہ کے انصار تمہیں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ! یہ نہ سمجھو کہ چند بھیڑ اور بکریاں اہل قریش کو دینے کی وجہ سے میری محبت تمہارے ساتھ کم ہے، جو نو مسلم ہیں ابھی جدا اسلام لائے ہیں میں نے ان کی دل جوئی اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چند بھیڑیں اور بکریاں دے دی ہیں لیکن خوب غور سے سن لو! یہ قریش مکہ ابھی جب مکہ شریف کو واپس ہوں گے تو میری دی ہوئی چند بھیڑیں، چند بکریاں اور چند اونٹ لے کر جائیں گے اور اے مدینہ والو! تم جب مدینہ واپس ہو گے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ میرا مناجیتا تمہارے ساتھ ہے، رسول خدا کی عظمت و قیمت تمہارے قلوب میں کیا ہے۔ مس صحابہ اس خوشی میں انتاروئے کہ آنسو ان کی ڈاڑھیوں سے بہہ رہے تھے۔ (بخاری، ج: ۲، صفحہ: ۲۲۱، ۶۲۰، و سیرت المصطفیٰ، ج: ۲، صفحہ: ۲۷، بحوالہ تاریخ ابن کثیر)

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بشارت دی کہ اگر تم سے کوئی چیز چھن گئی تمہارے باپ چھن گئے، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے جس پر ہزاروں جانیں قربان ہوں، اولاد قربان ہو، ایسی ذات پاک نے کیسی بشارت دی ہے۔

اور جدائی کا طبعی غم تو ہوتا ہی ہے ظاہر بات ہے کہ ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے ہم رو نے لگتے ہیں اور رو نے کی اجازت بھی ہے مگر ایسی بات نہ نکالے کہ ہائے میری ماں کیوں مر گئی اور اللہ نے کیوں اٹھا لیا۔ کیوں نہ لگاؤ! بس یہ کہو کہ اللہ مجھے اپنی ماں کی جدائی کا غم ہے یہ کہنا بھی سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا اے ابراہیم تمہاری جدائی سے نبی نعمگیں ہے۔ (ابوداؤد، ج: ۲، صفحہ: ۹۰) اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جانا بھی

سنت ہے اور اظہارِ غم بھی سنت ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا صدمہ ہے اور یہ کہہ کر اگر آنسو بہہ جائیں تو یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ رو لینا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں نے بہت ضبط کیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے دل کی بیماری لگ گئی پھر کوئی خیر کام نہ آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی کہ رونے کی اجازت عطا فرمادی کیونکہ تھوڑا سارو لینے سے دل کا غم پانی بن کر بہہ جاتا ہے ایسے وقت میں بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم کو نہیں رونا چاہیے یا تو ان کو سنت کا علم نہیں تھا یا کسی حال کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دم آنسوؤں کو ضبط کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس لیے یہ تھوڑا سارو لینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا خود رکر۔ اب نبی سے بڑھ کر کون صبر والا ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رونا صبر کے خلاف نہیں ورنہ سنت کیوں ہوتا؟

موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتا ہے۔ موت دراصل انتقال ہے،

پر دلیں سے اپنے وطن کی طرف جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ (تلیم درضا، صفحہ: ۲۱-۲۸)

آیت نمبرے

﴿وَالَّذِينَ آمُنُوا أَشَدُ حُبًا لِّهِ﴾

(سورۃ البقرۃ، آیہ: ۱۶۵)

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جملہ خیریہ سے یہ آیت نازل فرمائی وَالَّذِينَ آمُنُوا أَشَدُ حُبًا لِّهِ مجھ پر ایمان لانے والوں کے دل میں، میرے ماننے والوں کے دل میں میری محبت تمام محبوتوں سے اشد ہے۔ اس آیت کی تفسیر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ نبوت سے بصورت جملہ انشائیہ یعنی بصورت دعائی نگ کر فرمائی جس میں اشد محبت کے حدود اور اشد محبت کا معیار آپ نے اللہ سے ما نگا کہ:

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ﴾

(سنن الترمذی کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسییح باللید، ج: ۲، ص: ۱۸۷)

یہ جملہ انشائیہ صورتاً تو جملہ انشائیہ ہے حقیقتاً خبر ہے۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ عربی قواعد کی رو سے دعا انشاء میں شامل ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمُنُوا الخ تو جملہ خیریہ ہے لیکن سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ خیریہ کی تفسیر جملہ انشائیہ سے کیوں فرمائی؟ اختر زندگی میں آج پہلی دفعہ یہ مضمون بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور بھیک یہاں راستہ میں قوئی سے واپسی پر بھی طفیل مولانا جلال الدین روی مل رہی ہے۔ ان کا فیض میں محسوس کر رہا ہوں۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ خیریہ کے بجائے جملہ انشائیہ دعا یہ کیوں استعمال کیا؟ جواب یہ ہے کہ از راہ بندگی، از راہ عبدیت جملہ انشائیہ استعمال فرمائے کہاں کاراپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بندگی اور اپنی

عبدیت کاملہ پیش کی کہ اے اللہ اَشَدُّ حُبَا لِلَّهِ کے جملہ خبریہ کے مصدق ہم کہاں ہو سکتے ہیں، اتنی اشد اور عظیم محبت ہم کہاں سے لائیں گے لہذا ہم جملہ انشائیہ دعائیہ کے ذریعہ آپ کے جملہ خبریہ کی تکمیل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ احتیاج اور بندگی کے راستے سے ہم آپ کی اشد محبت کو مانگ لیں اور جب آپ عطا فرمائیں گے تو اشد محبت کا معیار ہمیں حاصل ہو جائے گا اور آپ أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ نَفْسِي، أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ أَهْلِي اور أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ہو جائیں گے یعنی آپ ہمیں جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے اور اس وقت آپ کے کرم سے ہم آشَدُ حُبَا لِلَّهِ کے جملہ خبریہ کے مصدق ہو جائیں گے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انشائیہ حقیقت میں جملہ خبریہ ہے یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اشد محبت آتی ہے اس کو محبت کے یہ تین معیار حاصل ہو جاتے ہیں اور یہی اشد محبت کے حدود ہیں کہ اللہ اس کے دل میں جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے لیکن جملہ خبریہ کے بجائے جملہ انشائیہ استعمال فرمانا اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عبدیت کاملہ و اظہار احتیاج بندگی ہے۔ جملہ خبریہ میں دعویٰ ہو جاتا کہ ہم لوگ اس مقامِ محبت پر فائز ہیں۔ لہذا جملہ انشائیہ دعائیہ سے آپ نے اس مقامِ محبت کو مانگا اور آپ کو تو یہ مقام حاصل تھا اُمت کو سکھا دیا کہ اس طرح مانگو اللہُمَّ اجْعَلْ حُبَكَ أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ نَفْسِي اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت آتی دے دیجئے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں۔ ہر لمحہ آپ پر فدار ہیں، اپنے دل کو توڑ دیں آپ کے قانون کونہ توڑیں۔ آپ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش نہ کریں و مِنْ أَهْلِي اور اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی محبت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھیں اور و مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور حالت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جتنا مزہ آتا ہے کہ رگ رگ میں جان آ جاتی ہے اے اللہ اس سے زیادہ ہم آپ سے محبت کریں۔ جو اللہ کے عاشق ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی رگ رگ میں جان آتی ہے اور ان کی جان میں کروڑوں جان آ جاتی ہے۔ اللہ کے عاشق اللہ کے نام سے زندگی پاتے ہیں جیسے پیاسا پانی پی کر اپنی جان میں جان محسوس کرتا ہے، جو اللہ کے پیاس سے ہیں وہ اللہ کے نام کا شربت ایمان افزا، شربت محبت افزا، شربت یقین افزا، شربت احسان افزا پیتے ہیں۔ ہمدرد کا شربت روح افزا اس کے سامنے بھلا کیا حقیقت رکھتا ہے۔

یہ حدیث تو بخاری شریف کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھردے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ انشائیہ کی وجہ بیان کرتے ہیں دیوان شمس تبریز میں کہ۔

بجزِ چیزے کہ دادی من چہ دارم

اے اللہ جو آپ ہمیں دیں گے وہی تو ہم پائیں گے، اگر آپ ہی ہمیں نہ دیں گے تو ہم کہاں سے لائیں گے،
ہم تو آپ کے بھک منگے ہیں، آپ کے فقیر ہیں۔ الہذا جو آپ نے دیا ہے وہی تو ہمارے پاس ہے۔

چہ می جوئی ز جیب و آستین

آپ میری جیب و آستین میں کچھ نہیں پائیں گے۔ اس میں کیا رکھا ہے، جو بھیک آپ دیں گے وہی تو ہم
پائیں گے الہذا پہلے محبت کی بھیک آپ کو ہم دے دیجئے پھر ہم سراپا محبت بن جائیں گے۔ جملہ انشا تیکی کی
وجہ مولانا نے عاشقانہ انداز میں بیان کی کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں کہ اشد
درجے کی محبت آپ ہمیں دے دیں تاکہ وَالَّذِينَ امْنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ کے ہم مصدق ہو جائیں۔ اسی
اشد محبت کو عارف روئی دوسرا جگہ اس طرح مانگتے ہیں۔

بِ رَكْبِ مِنْ نَهْبِ شَرَابٍ أَتَشِينَ

بعد ازیں کرو فرِ مستانہ بیں

ترجمہ: اے خدا پہلے خوب تیز والی اپنی محبت کی شرابِ مجھ کو پلا دیجئے پھر میری عاشقی کا تماشا دیکھتے۔

(الاطاف ربانی، صفحہ: ۲۸-۲۷)

جس آیتِ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ اللہ سُجَاجَةٌ وَتَعَالَیٰ کی محبت
بندوں کے ذمے کس قدر معین ہے یعنی کتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں اور کس قدر
محبت ہوتا انسان اللہ کا پورا فرمائے بردار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت جائز، ماں باپ کی بال بچوں کی، کاروبار کی
مال و دولت کی، ان چیزوں کی محبت شدید بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بیان فرمائی ہے:

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾

(سورة العادیات، آیہ: ۸)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی جنگ کی فتح کا مال غنیمت جب مسجد نبوی میں آیا
اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگ گیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مال غنیمت دیکھ کر میرا دل خوش
ہو اور محبت اس کی ہے مگر آپ اپنی محبت کو دنیا کی تمام محبوتوں پر غالب فرمادیجئے تو معلوم ہوا کہ محبت شدید
بھی جائز ہے اور محبت حبیب بھی جائز ہے یعنی اس کو حبیب بنالینا بھی جائز ہے۔

تو حبیب کا اطلاق یہاں مخلوق کے لیے ہے لیکن احب اور اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اگر
اللہ تعالیٰ کی محبت احب اور اشد نہیں ہے تو پھر بندہ پورا فرمائے بردار نہیں ہو سکتا۔ دل سے بھی زیادہ، جان
سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے ہونے چاہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس محبت کو اس عنوان سے طلب فرمایا ہے:

اللَّهُمَّ اجْعِلْ حُبَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ﴿٤﴾

(سنن الترمذی کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسییح بالید، ج: ۲، ص: ۱۸۷)

یا اللہ! اپنی محبت میری جان سے زیادہ عطا فرمادیں اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ یعنی پیاسے کو جتنا ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اے اللہ آپ مجھے محبوب ہوں تو معلوم ہوا یہ خطوط اور حدود ہیں محبت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے اس آخری بخوب کا اپنے ایک شعر میں گویا ترجمہ کر دیا ہے، میبیں کعبہ شریف میں غلاف کعبہ کپڑا کر عرض کیا۔

پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو
تیری پیاس اس سے بڑھ کر مجھ کو ہو

جس طریقہ سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر رگ رگ میں سیرابی اور ایک نئی جان عطا ہوتی ہے خداۓ تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ (تعلق مع اللہ، صفحہ ۱۶۲)

آیت کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے تاقیامت اولیاء کے وجود کا استدلال

درد ہو، پیاس ہو، طلب ہو تو آج بھی قطب و ابدال نظر آجائیں کیوں؟ اس لیے کہ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ صالحین متین کاملین کی صحبت میں خدا بیٹھنے کا حکم دے اور کاملین نہ پیدا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے بچوں سے کہہ کر بیٹو! روزانہ آدھا سیر دودھ پیا کروتا کہ طاقتور ہو جاؤ اور دودھ کا انتظام نہ کرے پس جب اللہ تعالیٰ نے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم قیامت تک کے لیے نازل فرمادیا تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔

پس یہ کہنا کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ واللہ میں حدودِ حرم میں کہتا ہوں کہ آج بھی خداۓ تعالیٰ کی ولایت کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی اللہ کی دوستی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کے سینوں میں جیسی اللہ کی ولایت تھی آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، آج بھی ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ولی بن سکتے ہیں یہاں تک کہ صدقیقت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں جمع کا صیغہ صدقیقین استعمال فرمایا ہے، صدقیق کی مشکل کے، اس کے اندر متفاوت درجات ہیں، صدقیق اکبر تھا صدقیق نہیں تھے البتہ صدقیق اکبر جیسا کوئی صدقیق نہیں ہو سکتا، وہ اس صدقیقت کی کلی کے فرد کامل تھے،

اکمل ترین تھے لیکن یہ ہماری غفلت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم حاجی امداد اللہ نہیں بن سکتے۔
دوستو! قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور
ولایت علیا کے بھی یہ نہیں کہ اب چھوٹی موٹی ولایت ہی مل سکتی ہے اور اب اولیاء اللہ گھٹیا درجہ کے پیدا ہوں
گے ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھئے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ (تعلق مع اللہ)

آیتِ اہدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے اہل اللہ سے تعلق پر استدلال
ایک عالم کے سامنے حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ ہر شخص کو کسی اللہ والے سے تعلق
قاوم کرنا ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ضروری کیوں ہے فرمایا کہ فرض عین ہے۔ اس لیے کہ
صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یہ اہدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا بدل ہے اور بدل کی چار قسموں میں
سے بدل الکل ہے اور بدل ہی مقصود ہوتا ہے تو اللہ کا راستہ منعم علیہم کا ہاتھ پکڑنے سے طے ہوتا ہے۔
(تعلق مع اللہ، صفحہ: ۱۷-۲۲)

آیت نمبر ۸

﴿وَلَا تَتَبَعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ﴾

(سورۃ البقرۃ، آیۃ: ۱۲۸)

شیطان اور نفس کا فرق

نفس اور شیطان یہ ہمارے دو دشمن ہیں اور دونوں کی دشمنی منصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے
ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ فِي جَنِيْكَ لیکن
دونوں میں کیا فرق ہے؟ شیطان وہ دشمن ہے جو شقی ازی اور مردود دائی ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا اور
شیطان خارجی دشمن ہے نفس داخلی دشمن ہے۔ شیطان خارج سے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے
پھر داخلی دشمن بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی وسوسہ اور
نفسانی وسوسہ میں یہی فرق بتایا ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا وسوسہ آئے تو شیطان کی طرف سے ہے اور اگر بار
بار گناہ کا تقاضا ہو تو سمجھ لو کہ یہ نفس ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ شیطان مردود ازی ہے اس کی دشمنی بھی
دائی ہے اور نفس کی دشمنی عارضی ہے اگر اس کی تہذیب و تزکیہ و اصلاح کر لی جائے تو یہ ولی بھی ہو جاتا ہے۔
پھر یہ اмарہ سے لوماہ اور لوماہ سے مطمئناہ اور پھر ارضیہ اور مرضیہ ہو جاتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ
النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَ قَالَ تَعَالَى وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَقَالَ تَعَالَى يَا يَتَّهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً نفس میں حصول ولایت کی صلاحیت ہے اور شیطان

اس صلاحیت سے محروم ہے، یہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔

یہ فرق زندگی میں پہلی بار بیان کیا اس سے پہلے بھی دل میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے جن کی اختر نے غلامی کی ہے کہ ہر وقت نئے نئے علوم عطا ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں۔

جو آسکتا نہیں وہم و گماں میں
اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی
کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے
مجھے خود کر دیا روح المعانی

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے مفسر نہیں بلکہ سراپا تفسیر بنا دیا۔ اس شعر کی یہ تشریح بھی عجیب ہے جو اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہن میں نہیں آسکتی۔ (افتخار بانی، صفحہ ۵۶-۵۷)

آیت نمبر ۹

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۱۸۳)

روزہ کی فرضیت میں شانِ رحمت کا ظہور

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کو کس طرح سے بیان فرمایا یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکمِ محض نہیں ہے ارحم الراحمین بھی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ تو مارشل لا کی سی بات کرے گا کہ روزہ رکھنا پڑے گا، خبردار کھال کھنچوادوں کا، بھوسہ بھروادوں گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ گھبرا نہ مت تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، پہلے انسانوں نے بھی روزہ رکھا ہے یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر روزہ کے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا یہ اپنے غلاموں پر روزہ کو آسان کرنے کی تدبیر ہے کہ روزہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب تک خالی پیٹ رہنے سے کوئی مر جائے گا۔ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ دار رہے ہیں، روزہ بھی رکھا اور زندہ بھی رہے۔ لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم پر بیشان نہ ہونا۔ تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کا انعام کیا ہے۔ انعام اتنا بڑا ہے کہ جس کو دنیا میں بڑا انعام مل جائے تو بڑی سے بڑی مشقت اُٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے مثلاً جوں کا مہینہ ہے، گرنی شدید ہے، لوچل رہی ہے اور حکومت نے اعلان کر دیا

کہ جو اس وقت کیا ٹری تک پیدل جائے گا اس کو پیڑوں پر کا ایک پلاٹ ملے گا جو پچاس لاکھ کا ہوگا اور مفت میں ملے گا تو اس وقت کتنے لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے اے سی سے کہیں گے تیری ایسی تیسی۔

روزہ اور صحبت اہل اللہ کا ایک انعام عظیم

اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام پیان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے صاحبِ تقویٰ بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے یا یہاں الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو یعنی میرے دوست بن جاؤ کیونکہ ان اولیاءُهُ الَّذِينَ امْنُوا المُتَّقُونَ متقیٰ ہی میرے دوست ہیں مگر تقویٰ مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نازل فرمایا کہ اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔

میرے مرشد شاہ ابرا الحلق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے کہ گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی توجہ چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو، شاہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کی گھنٹے عبادت کے بعد دلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے کہ ایک کتے پر نظر پڑ گئی۔ وہ کتابوں کے تمام کتوں کا شیخ بن گیا۔ دہلی کے سارے کتبے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جو تیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی، مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمتِ مکانی ہے اور رمضان شریف نعمتِ زمانی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہا شہ ہوا اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انہن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا۔ اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے ہاں اکٹھا کیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے لیکن جس کو لائچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَنَامُونَ إِذَا مَاتُوا اتُّبَهُو﴾

لوگ سورہ ہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تو جا گیں گے، موت ان کو جگائے گی۔

روزہ کی ایک حکمت

آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ روزہ کی فرضیت میں میری شانِ رحمت کا ظہور ہے، تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ جب تم ایک مہینہ تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد اُمید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یوں تو روزہ کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایماناً اور احساباً رکھتا ہے:

﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبٍ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب صوم رمضان احساباً من الایمان، ج: ۱)

احساب کا ترجمہ مولانا علی میان ندوی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بیان کیا تھا کہ احساب کے معنی ہیں ثواب کی لائچ۔ اللہ والوں کے ترجمہ میں کیا مزہ ہے۔ ایماناً یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور احساباً یعنی ثواب کی لائچ رکھتے ہوئے۔

ماہِ رمضان میں تقویٰ سے رہنے کی برکات

دل میں پہلے ایک مہینہ کا معاملہ تو کروا یا نور آئے گا کہ رمضان کے بعد بھی ان شاء اللہ اس نور سے محروم ہونے کو دل نہ چاہے گا۔ جو بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے مثلاً ایک ہزار پاور کے بلب میں تو پھر چالیس پاور کے بلب میں اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی۔ بس ایک مہینہ تقویٰ کے بڑے بلب میں رہ لو۔ ایک مہینہ کے لیے نفس کو آسانی سے منا لو کہ بھی معاملہ کرتے ہیں کہ نہ بد نظری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے اور خواتین یہ معاملہ کر لیں کہ ہم ایک مہینے بے پردہ نہیں نکلیں گے، بر قعہ سے نکلیں گے اور جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے اور گھر میں وی سی آر، ٹیلی وژن بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ایک مہینہ کا معاملہ کروا اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے کوکہ اے اللہ! ہم یہ مہینہ تقویٰ سے گزار رہے ہیں آپ اس مہینہ کا تقویٰ قبول کر کے گیا رہ مہینہ کے لیے بھی ہمیں متقدمی بنا دیجئے۔ محمد شین نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان چتنا بہتر گزرے گا، جتنا زیادہ تقویٰ سے گزرے گا تو اس کے گیارہ مہینے بھی پھر ویسے ہی گذریں گے اور جو رمضان میں بھی گناہ کرے گا اس ظالم کے گیارہ مہینے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ حج میں حریم شریفین جا کر جو آپس میں لڑ جائیں تو ان کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ملکوں میں

بھی آکر لڑتے رہیں گے الا من تاب مگر جو معانی مانگ لے۔ حرم کی خطا کی توبہ بھی حرم میں ہی کر لیجئے۔ حدود حرم میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ حدود حرم ہی میں دینا پڑتا ہے۔ اپنے ملکوں میں آکر بکرا دے دو تو دم ادا نہیں ہوگا اسی طرح حدود حرم کی خطاوں کی تلافی حدود حرم ہی میں کرلو اور ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ جاؤ کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، حاجی صاحب مجھے معاف کر دو۔ حدود حرم کی خطا کو وہ ہیں معاف کرالو، حقوق العباد ہو یا حق اللہ ہو۔ بس اس مہینہ کا حق میرے دل میں آج یہی آیا ہے کہ میں آپ حضرات کو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے آج ہی سے مستعد کر دوں اور نفس کے گھوڑوں کی لگام زبردست ٹائٹ کر دی جائے کہ یہ ایک مہینہ اللہ کے نام پر فدار ہو۔ ایک مہینہ کے لیے ان شاء اللہ نفس مان جائے گا کہ کوئی بات نہیں چلو مولوی صاحب کی بات مان لو، ایک مہینہ کا معاملہ ہے۔ اس کا اثر ان شاء اللہ یہ ہوگا کہ ایک مہینہ جب تقویٰ کے نور میں رہیں گے تو رمضان کے بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہو گی۔ اندر ہیروں سے مناسبت ختم ہو جائے گی اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ احترام رمضان کے صدقے میں تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کل زمان ہمیں دے دیں۔ جیسے حریم شریفین میں جن لوگوں نے نظر کو بچایا اللہ نے ان کو جنم میں بھی تقویٰ دے دیا کہ تقویٰ فی الحرم ذریعہ بن گیا تقویٰ فی الجم کا۔ ایسے ہی تقویٰ فی رمضان کو اللہ تعالیٰ سبب بنادیں تقویٰ فی غیر رمضان کے لیے بھی وہی کل زمان کے لیے بھی۔ (تجدد رمضان، صفحہ ۲۳)

آیت نمبر ۱۰

﴿رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾

(سورة القراء، آیہ: ۲۰۱)

حسنة فی الدنيا کے معانی

علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رَبَّنَا اتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں حسنہ ہیں جن کو اللہ نے ما نگن کو سکھایا ہے کہ تم ہم سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے اور آخرت کی بھی بھلائی اور حسنہ دے۔ تو دنیا کی حسنے میں یہ چیزوں میں مجملہ حسنات شامل ہیں:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱۔ العَافِيَةُ وَالْكَفَافُ | عافیت و غیر محتاجی |
| ۲۔ الْمَرْأَةُ الصَّالِحةُ | نیک بیوی |
| ۳۔ الْأُلُوَادُ الْأُبْرَارُ | نیک اولاد |
| ۴۔ الْمَالُ الصَّالِحُ | حلال روزی، حلال مال |
| ۵۔ الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ | دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل یعنی توفیقی عبادت |

- ۶۔ شَاءُ الْخَلُقِ مخلوق میں تعریف و نیک نامی
- ۷۔ الصِّحَّةُ وَالْكُفَايَةُ صحت و کفايت
- ۸۔ النُّصْرَةُ عَلَى الْأَعْدَاءِ دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد
- ۹۔ وَالْفَهْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ کتاب اللہ کی فہم
- ۱۰۔ صُحْبَةُ الصَّالِحِينَ اللہ والوں کی صحبت (روح المعانی، جلد: ۲، صفحہ: ۹۶)

(نو پدایت اور اس کی علامات، حصہ دوم، صفحہ: ۱۰)

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً كَ تَفْسِير

اب حسنہ کی سات تفاسیر روح المعانی سے پیش کرتا ہوں:

﴿رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾

یعنی اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلا کیاں عطا فرمائیے۔

حسنہ سے کیا مراد ہے؟

۱۔ الْمُرْأَةُ الصَّالِحَةُ نیک بیوی

۲۔ الْأُولَادُ الْأَبْرَارُ نیک بچے، لا لق اولاد وہی ہے جو ربا کا بھی لا لق ہو اور ربا کا بھی لا لق ہو۔ یہ نہیں کہ ربا کی تائگ دباتا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ نا لاق ہے، لا لق وہی ہے جو اللہ کا بھی فرمائیا ہو۔

۳۔ الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ دین کا علم اور اس پر عمل یعنی توفیق عبادت بھی حسنہ ہے، غیر عالم اس سے محروم ہے، علم دین سیکھو چاہے اردو کتاب سے مثلاً بہشتی زیور سے سیکھو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر حاصل کرو۔

۴۔ وَالْفَهْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ یعنی الْفِقْهُ فِي الدِّينِ دین کی سمجھ۔ بعض میں علم دین تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار تو بہت عمدہ منگوالیا پر چلانا نہیں جانتا۔ علم دین کو صحیح موقع پر استعمال کرنا اور اللہ کے لیے استعمال کرنا اور اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بنانا یہ ہے تفہفہ فی الدین۔ تفہفہ فی الدین کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

ایک شخص نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھتے وَ تَرْكُوكَ فَائِمًا قحط کی وجہ سے مدینہ میں غلہ کی سخت کی تھی۔ بعض صحابہ جن کا اسلام ابھی نیا تھا جن کی ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی غلہ کے اونٹوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خطبہ میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا وَ تَرْكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو کھڑا ہوا تھا چھوڑ دیا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ دس بارہ صحابہ رہ گئے تھے۔ سرو رعامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دس بارہ صحابہ نہ ہوتے تو نبی کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے مدینہ پر آگ برس جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا اور صحابہ سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم و رسول عنہ، اللہ صحابہ سے خوش ہو گیا اور صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ جب اللہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے تو کسی خبیث کو اجازت اور اختیار نہیں کروہا اپنی عدالت میں جرح اور تقدیم کے لیے ان کا تذکرہ کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور کہہ دے کہ ہم نے معاف کر دیا ہم راضی ہیں تو تم کون ہو ان پر تقدیم کرنے والے؟ یہ وہی شخص ہے جو اولیاء اللہ کے بارے میں کیٹرے نکالتا ہے اور جب کیٹرے نہیں ملتے تو کیٹرے ڈالتا ہے۔ یہ ڈبل مجرم ہے۔

۵۔ حسنہ کی پانچویں تفسیر ہے الْمَالُ الصَّالِحُ رزق حلال

۶۔ چھٹی تفسیر شَنَاءُ الْخَلْقِ مخلوق میں اس کی تعریف ہو۔ آج کل جاہل صوفی گھبرا جاتا ہے کہ ہائے میرے تعریف ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تسبیح لیتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں نیک نہ سمجھنے لگیں تو میرے شیخ حضرت ابرار الحنفی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدمعاش کہیں۔ امرے بھائی اگر لوگ نیک کہتے ہیں تو شکر کرو بس تم اپنے کو نیک مت سمجھو۔ مخلوق میں اگر تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، اپنی نظر میں حقیر ہونا مطلوب ہے اور مخلوق میں عظمت اور جاہد اور عزت مطلوب ہے اس کی دعا سکھائی گئی ہے۔ (دین پر استقامت کاراز)

مخلوق میں تعریف ہو تو یہ حسنہ کی تفسیر ہے، پس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر کرے کہ اے اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلا بیاں ظاہر کر دیں اور لوگوں کی نگاہوں میں میری تقریباً تحریر کو اچھا دیا۔ ایسے وقت میں شکر کرنے سے تکبر سے نجح جائے گا کیونکہ تکبر سبب بعد ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے اور شکر سبب قرب ہے، اللہ سے قرب کا سبب ہے اور سبب قرب اور سبب بعد دونوں میں تضاد ہے اور اجتماع ضریب دین محال ہے۔ پس جب تک شکر کی کیفیت ہو گی کبھی تکبر پاس نہیں پہنچنے گا کیونکہ تکبر کبھی سبب بعد نہیں ہو سکتا۔ تکبر کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، متنکبر کو اللہ کی طرف دھیاں نہیں رہتا، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے اور شکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ! یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ سلیقہ عطا فرمایا کہ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں۔ (العامات الہبی، صفحہ: ۱۰۔ ۱۱)

۷۔ ساتویں تفسیر ہے العَافِيَةُ وَالْكَفَافُ یعنی عافیت اور غیر محتاجی اور عافیت کے معنی ہیں السَّلَامَةُ فِي الْدِيْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالسَّلَامَةُ فِي الْبُدْنِ مِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ وَالْمُحْنَةِ مَلَّا عَلَى قَارِي فرماتے ہیں کہ عافیت کے معنی ہیں کہ دین فتنہ سے محفوظ ہوا اور بدن برے امراض اور محنت شاہق سے محفوظ ہوا اور کسی کی محتاجی نہ ہو یہ بھی حسنہ ہے۔

۸۔ آٹھویں تفسیر ہے الصِّحَّةُ وَالْكِفَايَةُ صحت ہوا اور کفایت ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔

۹۔ نویں تفسیر ہے النُّصْرَةُ عَلَى الْأَعْدَاءِ شمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آجائے۔

۱۰۔ اور آخری تفسیر سن لو یعنی دسویں صُجَّةُ الصَّالِحِينَ یعنی اللہ والوں کی صحبت۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی صحبت نصیب ہوا اور اللہ توفیق دے اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے کی توجیہ دیل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں۔ جس دلیں آم کو لنگڑے آم کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادہ ہو گیا کہ اس دلیں آم کو لنگڑا آم بنادیں گے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے تو سمجھو یہ بھی اہل اللہ ہونے والا ہے۔ (دین پاستقامت کاراز، صفحہ: ۲۱-۲۲)

آیت نمبر ۱۱

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

(سورۃ البقرۃ، آیہ: ۲۲)

اللہ تعالیٰ نے انَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ ضارع سے نازل فرمایا اور مضارع میں دوزمانہ ہوتا ہے حال اور مستقبل۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں موجودہ حالت میں بھی اور اگر آئندہ بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے گی تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دیں گے اور صرف معاف ہی نہیں کر دیں گے محبوب بھی بنالیں گے اور تمہیں اپنے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال اور مستقبل دونوں کے تحفظ کی خصانت دے رہے ہیں کہ توبہ کی برکت سے حالاً و استقبلاً ہم تم سے پیار کر دیں گے۔ ہم ایک دفعہ جس سے پیار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے پیار کرتے ہیں، ہم بے وفاوں سے پیار ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں مستقبل کا بھی علم ہے کہ کون آئندہ ہم سے بے وفا کرے گا اور کون باوفار ہے گا۔ ہم پیار اسی کو کرتے ہیں جو ہمیشہ باوفار ہتا ہے یا اگر کبھی بوجہ بشریت کے اس کی وفاداری میں کوئی کمزوری بھی آئے گی اور اس سے کوئی خطابھی ہو جائے گی تو وہ پھر توبہ کر کے باوفا ہو جائے گا۔ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے خارج

نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دنیا کی ہر محبت کے مشاہدات میں بھی موجود ہے جیسے بچہ ماں کی چھاتی پر پاخانہ پھر دیتا ہے تو کیا ماں اس کو دھو کر پھر پیار نہیں کرتی؟ اور کیا پھر وہ دوبارہ پا غانہ نہیں پھرتا؟ ماں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پھر پھرے گا مگر وہ اپنی شفقت سے نہیں پھرتی حالانکہ یقین سے جانتی ہے کہ یہ ہکتار ہے گا مگر محبت کی وجہ سے عزم رکھتی ہے کہ میں دھوتی رہوں گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے کم ہے۔ ماں کو محبت کرنا تو انہوں نے ہی سکھایا ہے لہذا ہمیں حکم دے دیا **إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ** تم اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو۔ کیوں؟ اِنَّهٗ كَانَ غَفَارًا كَيْوَنَكَ تَمَهَّرَ أَرَبَّ بَهْتَ بَخْشَنَةً وَالاَيْهُ، غَافِرٌ نہیں ہے غفار ہے کَثِيرٌ الْمَغْفِرَةٌ ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی ورنہ معافی کا حکم کیوں دیتے۔ اگر ہم معصوم ہوتے تو **إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ** نازل نہ ہوتا۔ چونکہ صدو خطاؤ کا معاملہ یقین تھا اس لیے استغفار کا حکم نازل ہوا۔ لہذا ماضی کے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ اور عزم مصمم کرو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کروں گا۔ لا کھ بار خطائیں ہو جائیں لیکن جو توبہ کرتا رہتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ بندہ حال میں بھی محبوب ہے اور مستقبل میں بھی اللہ کا محبوب رہے گا۔ جو مستقبل میں بے وفائی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب ہی نہیں بناتے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مرتد ہوئے وہ پہلے ہی سے خدا کے مبغوض تھے اگرچہ حالتِ اسلام ظاہر کر رہے تھے لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ وہ مرتد ہو جائیں گے لہذا وہ اللہ کے دائرہ محبوبیت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے اس لیے خطاؤ سے مایوس نہ ہو۔ کوشش تو کرو، جان کی بازی لگادو کہ کوئی خطانہ ہو لیکن بر بنائے بشریت اگر کبھی پھصل جاؤ تو فوراً توبہ کر کے ان کے دامنِ رحمت اور دامنِ محبوبیت میں آ جاؤ اور اگر شیطان ڈرائے کہ آئندہ پھر یہی خطاؤ کرو گے تو کہہ دو کہ میں پھر توبہ کر لوں گا۔ ان کی چوکھٹ موجود ہے اور میرا سر موجود ہے، میری جھوٹی باقی ہے اور ان کا دستِ کرم باقی ہے۔ یہ میرا سرِ سلامت رہے جوان کی چوکھٹ پر پڑا رہے اور میرا دستِ سوالِ سلامت رہے جس سے میری جھوٹی بھرتی رہے۔ کیا یہ الفاظ اور یہ زبان زمین کی زبان ہے، یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے۔

میرے پینے کو دوستو سن لو

آسمانوں سے مے اُرتی ہے

خطا ہونا تو تجب کی بات نہیں کیونکہ انسان مجموعہ خطاؤ نیسان ہے لیکن خطاؤ کے بعد توبہ نہ کرنا اور خطاؤ پر قائم رہنا یہ بات تجب اور خسارہ کی ہے لہذا فوراً توبہ کرو اور اگر شیطان ڈرائے کہ تم پھر یہی خطاؤ کرو گے تو اس سے کہہ دو کہ میں توبہ کر رہوں اور میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجوداً کہ آئندہ توبہ ٹوٹ جائے گی تو پھر توبہ کروں گا۔ پھر رورو کے ان کو منا لوں گا۔ خوب سمجھ لجئے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ توبہ

کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، عزمِ مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا۔ بوقتِ توبہ ارادہ شکست توبہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جس کو یہ علم ہو گا شیطان اس کو مایوس نہیں کر سکتا۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ ۲۱-۲۳)

آیتِ شریفہ کی تفسیر بعنوانِ دُگر

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُعْلَمُ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
سورةُ البقرة، آیہ: ۲۲۲)

اللَّهُ تَعَالَى کی محبوبیت کا ایک راستہ

اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرماتے ہیں انَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ اللَّهُ تَعَالَى توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور آئندہ بھی محبت کرتا رہے گا۔ جب تک تم توبہ کے کیمیکل اور توبہ کے فعل کا اہتمام رکھو گے جب تک تم دائرہ توبہ میں رہو گے، تب تک میرے دائرة محبوبیت میں رہو گے لیکن جو توبہ چھوڑ دے گا تو محبوبیت کے دائرة سے اس کا خروج ہو جائے گا اس لیے ماضی میں جو غلطیاں کر چکے ان سے توبہ کر لو تو میرے محبوب ہو جاؤ گے لیکن آئندہ کے لیے اگر شیطان و سوسد ڈالے کہ تم پھر یہ خطا کرو گے کیونکہ تمہاری توبہ پرانی عادت پڑی ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے بھی اللَّهُ تَعَالَى نے ہمیں امید دلادی کہ ہم ایسا صیغہ نازل کر رہے ہیں یعنی مضرار جس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی لہذا تم گھبرا نا ملت کہ اگر آئندہ بھی تم سے خطا ہو گی اور تم معافی مانگو گے تو ہماری تمہاری خطاوں کی معافی کے ذمہ دار اور کفیل ہیں کیونکہ توبہ کرنے والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ يُحِبُّ التَّوَابِينَ فَرَمَا يَبْرُحُ التَّوَابِينَ نَهِيْنَ فَرَمَا يَعْفُرُ التَّوَابِينَ نَهِيْنَ فَرَمَا يَرْزُقُ التَّوَابِينَ نَهِيْنَ فَرَمَا يَأْمُرُ التَّوَابِينَ نَهِيْنَ فَرَمَا يَنْهَا مَنْ نَهَا اللَّهُ تَعَالَى کے جتنے صفاتی نام ہیں سب کو نظر انداز فرم اکصرف صفتِ محبت کا ارشاد ہوا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت میں سب کچھ ہے، کسی نعمت کا اس سے خروج نہیں ہے، ہر نعمت اس میں شامل ہے، اس میں رحمت بھی شامل ہے، مغفرت بھی شامل ہے، رُزاقیت بھی شامل ہے۔ جو آدمی پیارا ہو جاتا ہے تو ہر ایک اپنے پیارے کو سب کچھ دیتا ہے، پیارے کو پیاری چیز دیتا ہے اور ہر غیر پیاری چیز سے بچاتا ہے۔ يُحِبُّ فَرَمَا کہ محبت میں سب نعمتیں شامل ہیں کہ توبہ کی برکت سے ہم تم کو تمام نعمتوں سے نوازیں گے اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں یا زوالِ نعمت کے اسباب ہیں ان سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ پیاروں کو پیاری چیز دیں گے اور غیر پیاری سے بچالیں گے۔ لیکن توبہ کب قبول ہے؟ قبول توبہ کی چار شرائط ہیں:

(۱) آنُ يَقْلَعَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ توبہ کی قبولیت کے لیے یہی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ

نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں کہ صاحب کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں، موتی شکل دل مودہ لیتی ہے، خوب سمجھ لیں کہ ارتکاب گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں۔ پہلے گناہ سے الگ ہو جاؤ پھر توبہ کر و خواہ نفس کتنا ہی الگ نہ ہونا چاہے۔ جس طرح بکری بھوسی دیکھ کر اس پر گرتی ہے جب تک کان پکڑ کر الگ نہ کرو، اسی طرح خود اپنا کان پکڑ کر الگ ہو جاؤ۔ نفس پر سوار رہو، نفس کی سواری مت بنو۔

(۲) آنَ يَنْدَمُ عَلَىٰ فِعْلِهَا اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے اور ندامت کے کیا معنی ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:

﴿النَّدَامَةُ هِيَ تَالَّمُ الْقَلْبُ﴾

قلب میں الم اور دُکھ پیدا ہو جائے کہ آہ میں نے کیوں ایسی نالائقی کی اور جس کو اپنی نالائقی اور کمینہ پن کا احساس نہ ہو وہ ڈبل کمینہ ہے۔ ندامت نام ہے کہ دل دُکھ جائے، دل میں غم آجائے اور توبہ کر کے رو نے بھی لگوتا کہ نفس میں جو حرام مزہ آیا ہے وہ نکل جائے جیسے چور چوری کا مال تھانے میں جمع کر دے اور آئندہ کے لیے ضمانت دے کہ اب بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا تو سر کار اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اشکبار آنکھوں سے استغفار کرنا گویا سر کار میں اپنا حرام مال جمع کرنا ہے، جو حرام لذت آئی تھی اس کو گویا اپس کر دیا کہ اللہ معاف فرمادیجھے۔

(۳) اور تیسری شرط ہے آنَ يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَنَّ لَا يَعُودُ إِلَىٰ مِثْلِهَا أَبَدًا پاک ارادہ کرے کہ اب دوبارہ بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔

(۴) فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِاِدْمَيٍ فَلَهَا شَرْطٌ رَابِعٌ وَهُوَ رَدُّ الظَّلَامَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا اوْ تَحْصِيلُ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ (شرح مسلم للنووى، ج: ۲، باب التوبۃ)، اگر اس معصیت کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو تو بھی چوتھی شرط یہ ہے کہ اہل حق کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے۔ نہیں کہ مسجد کے وضو خانے سے گھٹری اٹھا لی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں معاف کر دو، آئندہ بھی چوری نہیں کروں گا لیکن یہ سوئزر لینڈ کی گھٹری ہے، سیٹر ہے، یہ مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو واپس نہیں کروں گا، اس بار معاف کر دو۔ تو ہرگز معافی نہیں ہوگی، مال واپس کرو۔

توبہ کی یہ چار شرطیں ہیں، تین شرطیں اللہ کے حقوق ہیں اور چوتھی شرط بندوں کا حق ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے سے آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔

آیتِ شریفہ میں دوبارہ یحب نازل ہونے کا راز

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمَتَطَهِّرِينَ﴾

کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توّابین کو اور محبوب رکھتے ہیں مُتَطَهِّرین کو یعنی توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے اور طہارت میں مبالغہ کرنے والوں، نجاستوں سے خوب احتیاط کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں عطف جائز تھا کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَالْمَتَطَهِّرِينَ دوبارہ يُحِبُّ نازل کرنا ضروری نہیں تھا مگر اس میں زبردست معنویت اور اللہ تعالیٰ کا ذریعہ دست پیار ہے کہ دوبارہ يُحِبُّ کو داخل کیا۔ یہ تعالیٰ کے کلام کا کمال بلا غلط ہے کہ محبت کی فراوانی اور دریائے محبت میں طغیانی کے لیے ایک يُحِبُّ کی نسبت توّابین کی طرف فرمائی کہ اللہ توّابین کو محبوب رکھتا ہے اور دوسرے يُحِبُّ کی نسبت مُتَطَهِّرین کی طرف فرمائی کہ اللہ مُتَطَهِّرین کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اپنے بندوں کو توّابت اور متظہریت ان دو اداؤں پر ان کو اپنا محبوب بنانے کا عمل نازل کرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے دوبار يُحِبُّ نازل کرنے کی۔ سبحان اللہ! وہارے محبوب تعالیٰ شانہ کیا شان ہے آپ کی!

ایک مسئلہ سلوک کا استنباط

مُتَطَهِّرین باب تفععل سے نازل فرمایا۔ اس کے اندر ایک مسئلہ تصوف بھی ہے جو حق تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی تفسیر میں ہے یا نہیں لیکن سارے علماء اور مفسرین ان شاء اللہ اس کو تسلیم کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الطَّاهِرِينَ نہیں فرمایا کہ ہم محبوب رکھتے ہیں پاک رہنے والوں کو بلکہ مُتَطَهِّرین فرمایا جو باب تفععل سے ہے جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے اور تکلف کے معنی ہیں کہ تکلیف اٹھا کر کسی کام کو کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی نجاستوں سے پاک رہنے میں تم کو تکلیف اٹھانی پڑے، کلفت پیش آئے تو اس سے دربغ نہ کرنا۔ جی نہیں چاہتا گناہ سے بچنے کو، جی نہیں چاہتا حسینوں سے نظر ہٹانے کو مگر تم میری راہ میں تکلیف اٹھا لو۔ اگر لیلاوں کو دیکھو گے تو پریشانی آئے گی اور یہ تکلیف راہ لیالی کی ہوگی لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے تو یہ تکلیف راہِ مولیٰ میں داخل ہوگی۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کس کی راہ میں تکلیف اٹھانے میں فائدہ ہے۔ تمہارے مزاج میں اگرچہ گناہ پسندی اور حسینوں کی طرف نظر بازی اور ذوقِ حسن بنی ہے لیکن ان سے بچنے میں تمہاری روح کو تو سکون ملتا ہے مگر تمہارا نفس تمل کے لیے تتملا تا ہے اور بل کے لیے بلبلاتا ہے لہذا اس کو تتملانے دو اور بلبلانے دو، تکلیف اٹھاؤ۔ گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہوگی تمہارے نفس کو ہوگی، روح کو خوشی ہوگی اور تم روح سے زندہ ہو، نفس سے زندہ نہیں ہو۔ تمہاری گناہ کی جفا کاریاں اور بیوفائیاں سب روح کی بدولت ہیں۔ اگر میں تمہاری روح قبض

کرلوں تو تم کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا سبب حیات روح ہے تو تم سبب حیات کی کیوں فکر نہیں کرتے۔ جب تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو کتنی حیات تم پر بر س جائے گی۔

محبوب الہی بنانے والی دعا

تو مُنْتَطَهِرِيْنَ بَابِ تَفْعُلٍ سَمَّا نَازَلَ هُوَنَّا كَأَيْمَ عَظِيمَ اللَّهِ تَعَالَى نَعْطَافَرَمَا يَا لَيْكَنِ اسِّ مِنْ اِيْكَ عَلَمَ عَظِيمَ اور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ توَّابِيْنَ اور مُنْتَطَهِرِيْنَ کو محبوب رکھتے ہیں تو آپ کی رحمت متقاضی ہوئی کہ وضو کے آخر میں یہ دعا اپنی امت کو سکھادی:

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَطَهِرِيْنَ﴾

(سنّ الترمذی، کتاب الطهارة، باب فی مایقائٰ بعد الوضوء، ج: ۱، ص: ۱۸)

دیکھئے جو اسلوب نزول قرآن پاک کا ہے اسی اسلوب پر یہ دعا سکھائی گئی اور قرآن پاک میں جو دلفاظ توَّابِيْنَ اور مُنْتَطَهِرِيْنَ نازل ہوئے وہ اس دعا میں آگئے۔ اس وقت قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث کا ربط پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے ورنہ قرآن پاک کی آیت کہیں ہے اور حدیث پاک کہیں ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ذہن اس طرف نہیں جاسکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، شفقت اور رحمت کا امت پر نزول ہے کہ وضو کے آخر میں یہ دعا سکھادی کہ تم اب اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے والے ہو اے میری امت کے لوگو! انماز میں جب تم اپنے مولیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ دعا پڑھ کر حاضری دو تاکہ حالتِ محبوبیت میں تمہاری پیشی ہو اور میری امت کا کوئی فرد اس دعا کی بدولت اس دعا کی برکت سے محروم نہ رہے، نہ تو ابیت سے محروم رہے، نہ مُنْتَطَهِریت سے محروم رہے۔ دونوں نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ (محبوب الہی بنانے کا طریقہ، صفحہ: ۵-۱۵)

آیتِ شریفہ کی تفسیر بعنوانِ دگر

آیت وَيُحِبُّ الْمُنْتَطَهِرِيْنَ بَابِ تَفْعُلٍ سَمَّا نَازَلَ هُوَنَّا کَارَاز

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُنْتَطَهِرِيْنَ اس میں ایک علمی سوال ہوتا ہے کہ یحب کو دفعہ کیوں نازل کیا جبکہ عربی قaudہ سے عطف ممکن تھا یعنی یُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَالْمُنْتَطَهِرِيْنَ نازل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فَضْلًا وَرَحْمَةً یُحِبُّ دوبار نازل کیا کہ اس میں ڈبل انعام ہے یعنی جس طرح سے میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں اسی طرح مُنْتَطَهِرِيْنَ یعنی جو بے تکلف گناہ سے بچتے ہیں، گناہ سے بچنے میں تکالیف اٹھاتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا دل پر گم برداشت کرتے ہیں، اپنی حرام خواہش کا خون کرنے کی مشقت جھیلتے ہیں ان کو بھی میں

اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس لیے یُحِبُّ مستقل نازل کیا، عطف نہیں کیا تاکہ بندوں کو میرا محبوب بننے کی لائچی میں تکلیف اٹھانا اور میری محبت کے نام پر جان کی بازی لگانا آسان ہو جائے۔

جان دے دی میں نے ان کے نام پر

عشق نے سوچا نہ کچھِ انجام پر

یہ میرا ہی شعر ہے۔ اللہ کا محبوب بننا معمولی بات ہے؟ نعمتِ عظمیٰ ہے۔ اسی لیے مُتَطَهِّرِینْ بابِ تَفْعُل سے نازل کیا۔ اگرچہ یہ جملہ خبر یہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتا ہے لیکن اس میں جملہ انسائیہ ہے کہ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرو۔ اس جملہ خبر یہ میں یہ انسائیہ ہے ورنہ بابِ تَفْعُل کے بجائے کوئی دوسرا صیغہ بھی نازل کر سکتے تھے۔ یُحِبُّ الطَّاهِرِینْ فَرِمَادِیتے کہ میں پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں لیکن نہیں تطہر بابِ تَفْعُل سے نازل کیا اور بابِ تَفْعُل میں تکلف کی خاصیت ہے۔ اللہ اکبر! کیا عظیم الشان کلام ہے جو اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی طبیعت کو جانتے ہیں الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ بِهَا وَهَنَّ جَانِے جس نے پیدا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ گناہوں سے بچنے میں بندوں کو تکلیف ہو گی اس لیے تطہر بابِ تَفْعُل سے نازل کیا کہ پرانے پاپ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا لیکن متطہرین وہ بندے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑ کر دل کا خون کر لیتے ہیں اگرچہ گناہوں کی ان کو چاث پڑی ہوئی ہے، بد معاشیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے لیکن پرانی سے پرانی عادت کو چھوڑنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ جس کو عادت گناہوں کی پڑ جاتی ہے اس سے پوچھو کہ گناہ چھوڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل کیا چیز ہے، بندہ ہے کیونکہ بندے کا ہر جز بندہ ہے جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہمارا ہر جزا اللہ کا غلام ہے پھر دل اللہ کی غلامی سے کیسے نکل سکتا ہے الہذا دل کو پر تکلف زبردستی اللہ کی فرمائی برداری پر مجبور کرتے ہیں۔ لہذا بابِ تَفْعُل نازل کر کے اللہ تعالیٰ پر تکلف گناہوں سے بچنے کی تکلیف اٹھانے والوں کی تعریف فرمائے ہیں۔

(احقر مرتب عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کے خلیفہ مولانا یوسف پیل صاحب جو افریقہ سے آئے تھے اس تقریر کے وقت موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ متطہرین بابِ تَفْعُل سے نازل ہونے کا یہ راز نہ انہوں نے کسی عالم سے سانہ کسی کتاب میں پڑھا۔)

دوسرانکہ اس میں یہ ہے کہ وضو کے بعد کی جو منسون دعا ہے **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ** کاے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دتھجئے اور گناہوں کی نجاست سے

پاک رہنے کی تکلیف اٹھانے والوں اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرنے والوں میں مجھے بنا دیجئے۔ یہی طہارتِ حقیقیہ ہے۔ ملاعی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی حقیقت ہے طہارتِ الْأَسْوَارِ مِنْ دَنَسِ الْأَغْيَارِ یعنی غیر اللہ کے میل پچیل سے دل کا پاک ہوجانا۔ جب کسی حسین یا حسینہ، نمکین یا نمکینہ، دلکین یا دلکینہ، رُنگین یا رُنگینہ، معشوق یا معشوقہ کی محبت سے دل پاک ہوجائے تو سمجھلو طہارتِ باطنی حاصل ہو گئی۔ ملاعی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد جو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی اس میں یہ حکمت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ! وضو کر کے میں نے جسم تو دھولیا، ظاہری طہارت تو حاصل کر لی یہی میرے اختیار میں تھا لیکن دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا آپ اپنی قدرتِ قاہرہ سے میرے دل کو پاک کر دیجئے یعنی گناہوں کے ذوق، گناہوں کے شوق، گناہوں کے طوق یعنی طوقِ لعنت سے مجھے پاک کر دیجئے۔

اور ایک نکتہ یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تَوَآءِینَ کو اور مُتَطَهِّرِینَ کو محبوب رکھتے ہیں تو اُمت کو یہ دعا سکھادی کہ اے اللہ! مجھے تو بہ کرنے والوں میں اور بہ تکلف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے والوں میں اور غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دیجئے تا کہ اس دعا کی برکت سے امت کو مذکورہ طہارتِ باطنی کی توفیق ہو جائے اور اُمت محبوب ہو جائے۔ (خرائن شریعت و طریقت، ص: ۲۲۸)

آیت نمبر ۱۲

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
(سورة البقرة، ۲۵۷)

ضرورتِ مرشد پر فائدہ علمیہ برائے اہل علم

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کی تفسیر یُخْرِجُهُمْ سے ہے یعنی حق تعالیٰ شانہ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو انہیں سے نور کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ مضارع کے صینے سے یہ انعام عطا فرمایا ہے جس میں خاصیت تجدید استمراری کی ہے۔ ایسے حالات کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں

گر پڑے گر کر اُٹھے اُٹھ کر چلے

یعنی حق تعالیٰ شانہ اپنے دوستوں کو توفیق توہے سے پاک فرماتے رہتے ہیں اور دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانًا أَنَّ أَخْرَجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورة ابراهيم، آية: ۵)

اے موئی اپنی قوم کوتارکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر حق تعالیٰ شانہ نے تارکیوں سے نکلنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی:

﴿إِسْنَادُ الْأَخْرَاجِ إِلَى الْبَيِّنَ مَعَ كَوْنِ الْمُخْرِجِ الْحَقِيقِيِّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ لِلشَّيْخِ مَدْخَلًا عَظِيمًا فِي تَكْمِيلِ الْمُرِيدِ﴾

(بيان القرآن، مسائل السلوک، سورة ابراهيم، پ: ۱۳)

باوجود اس کے مخرج حقیقی اللہ تعالیٰ ہے پھر اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا توی دلیل ہے اس بات کی تکمیل مرید میں شیخ کو عظیم دخل ہے۔ (کشکول معرفت، صفحہ: ۲۸-۲۹)

ولی کس کو کہتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ولی بھی ہے:

﴿الْوَلِيُّ أَيُّ الْمُحِبُّ لِأُولَيَاءِهِ وَالنَّاصِرُ لَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ﴾

ولی وہ ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہوا و مرد کرتا ہوا ان کی دشمنوں پر۔

اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو ظلمات سے انوار کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ

ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى النُّورِ﴾

علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ولی بناتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ:

﴿مِنْ أَمَارَاتِ وَلَا يَتَهِّي لِعَبْدِهِ أَنْ يُدِيمَ تَوْفِيقَهُ حَتَّى لَوْأَرَادَ سُوءً أَوْ قَصَدَ مَحْظُورًا عَصْمَةً عَنْ ارْتَكَابِهِ وَلَوْ جَنَحَ إِلَى تَقْصِيرٍ فِي طَاعَتِهِ أَبْلَى إِلَّا تَوْفِيقًا لَهُ وَتَأْيِيдаً وَهَذَا مِنْ أَمَارَاتِ السَّعَادَةِ وَعَكْسُ هَذَا مِنْ أَمَارَاتِ الشَّقَاوةِ وَمِنْ أَمَارَاتِ وَلَا يَتَهِّي أَنْ يُرْزِقَهُ مَوَدَّةً فِي قُلُوبِ أُولَيَاءِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْتَرُ إِلَى قُلُوبِ أُولَيَاءِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَإِذَا رَأَى فِي قُلُوبِهِمْ لَعِبْدًا مَحَلًا يَنْتَرُ إِلَيْهِ بِاللُّطْفِ وَإِذَا رَأَى هَمَّةً وَلَيْ منْ أُولَيَاءِهِ لِشَانِ عَبْدٍ أَوْ سَمِعَ دُعَاءً وَلَيْ فِي شَانِ شَخْصٍ يَأْبَى إِلَّا فَضُلٌّ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ أَجْرٌ بِذَلِكَ سُنْتَهُ الْكَرِيمَةُ وَسَمِعَتْ الشَّيْخُ أَبَا عَلَى الدَّقَاقِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ وَلِيًّا مِنْ أُولَيَاءِ اللَّهِ مَرَّ بِبَلَدَةٍ لَنَالَ بَرَكَةً مُرُورِهِ أَهْلُ تِلْكَ الْبَلَدَةِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْوَلَايَةِ إِنَّ أَهْلَهَا مُنَزَّهُونَ

عَنِ الْذِلِّ قَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الذِلِّ إِلَّا سَرَاءٌ فَأَوْلَيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى دَائِمًا مُسْتَغْرِقُونَ
فِي عِزٍّ مَوْلَاهُمْ فِي دُنْيَا هُمْ وَآخْرًا هُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ بِمِنْهُ وَكَرَمَهُ ﴿٥﴾

(مرفأة المفاتيح، ج: ۵، ص: ۹۲)

ترجمہ: ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے خاص توفیق شاملِ حال رکھتے ہیں جس کا فیض یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ بھی کرے کسی برائی یا غیر شرعی فعل کا تو اس کی حق تعالیٰ حفاظت رکھتے ہیں اس کے ارتکاب سے اور اگر عبادت و ذکر میں مستحب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کوستی سے روک دیں گے اپنی خاص توفیق اور تائید سے۔ یہ تو علاماتِ سعادت ہیں اور اس کے عکس علاماتِ شقاقدت سے ہیں۔ اور ولی کی علامت سے یہ بھی ہے کہ اپنے اولیاء کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب پر ہر وقت نِمِ عنایت رکھتے ہیں پس جب کسی بندہ کے ساتھ تعلق اور محبت اس میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی نگاہِ لطف سے نوازدیتے ہیں۔ اور جب کسی اپنے ولی کی توجہ کو کسی بندہ پر دیکھتے ہیں یا کسی بندہ کے لیے اپنے ولی کی دعا کو سنتے ہیں تو اس پر اپنے فضل و احسان کو جاری فرمادیتے ہیں اور یہی ان کی سنت جاری ہے۔

اور میں نے شیخ ابو علی دقاق سے سنا ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ تعالیٰ کا کسی شہر سے گزر جاوے تو اس بستی کے لوگ اس کے فیض سے محروم نہ رہیں گے اور اس کے مرور (گزرنے) کی برکت سے بخشش دیئے جائیں گے۔

اور حق تعالیٰ کی ولایت کی خصوصیات سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو ذلت سے بچاتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کی عظمتوں میں وہ غرق رہتے ہیں پھر ان کو ذلت کیسے چھوٹکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہم کو بھی ان ہی کے ذمہ میں شامل فرمادیں اپنے احسان و کرم

سے۔ (اسکولِ معرفت، صفحہ: ۶۳-۶۵)

ولایتِ عامہ اور ولایتِ خاصہ

حضرت حکیم الامت تھانوی حوالہ روح المعانی اِنْ اُولَيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ مرتبہ اولیٰ میں جو ولایتِ عامہ تھی بشرط ایمان وہی مرتبہ ثانیہ میں تقویٰ کی شرط سے ولایتِ خاصہ پر فائز ہو جاتی ہے، اس کو ولایت کبھی بھی کہتے ہیں۔

سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ امْنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی معاصری سے پہیز کرتے ہیں یعنی ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب عطا

ہوتا ہے اور خوف اور حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف اور حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے۔

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾

(سورة یونس، آیہ: ۲۶)

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ بزرگی اور ولایت کا مدار ایمان اور تقویٰ پر ہے نہ کہ کشف و کرامت پر ہے۔ ملائی قاری فرماتے ہیں:

﴿إِلَّا سُتْقَامَةُ حَيْرٌ مِّنَ الْفَكَرَامَةِ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، ج: ۱، ص: ۸۳)

استقامت ایک ہزار کرامات سے فضل ہے۔ (کشکول معرفت، صفحہ: ۱۰۲-۱۰۳)

آیت نمبر ۱۲

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ﴾

(سورة البقرہ، آیہ: ۲۸۲)

اللہ تعالیٰ نے اپنے گھنگاروں کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی ہے جو عجیب و غریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گھنگار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے ہیں اور اس مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں جس کے سبب مساجد میں جانا اور نیک عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، شیطان نے انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیا ہے کہ اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کیا ہو گئی لیکن وہ اگر تو بکی سواری میں بیٹھ جائیں تو ایک لمحہ میں ان کی دوڑی حضوری سے تبدیل ہو جائے اور وہ اللہ کے پیارے ہو جائیں۔

(رواہ مغفرت، صفحہ: ۳)

اب میں آیت کریمہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا سرکاری مضمون نازل کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر کسی مجرم کو وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ اس قسم کا مضمون معافی نامہ کا لکھ کر دے دو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو کیا اس میں کسی کوشش ہو گا پھر سلطان السلاطین، احکم الخاکمین، معافی کا جو مضمون خود نازل فرمادیں اس کی مقبولیت میں کس کوشش ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ جن کو حساب لینا ہے وہ معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں کہ وہ وَاعْفُ عَنَّا اے اللہ! ہم کو معاف کر دے وَ اغْفِرْ لَنَا اور ہم کو بخشش دیجئے وَارْحَمْنَا اور ہم پر حرم فرمادیجئے انت مولانا آپ ہمارے مولیٰ ہیں۔ اب اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وَاعْفُ عَنَّا کے کیا معنی ہیں؟ مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَاعْفُ عَنَّا کے معنی ہیں اُمُحَاجَّ اثَارَ ذُنُوبِنَا ہمارے گناہوں کے نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجئے

کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔

۱) جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ سورہ زلزال میں ہے یوں مذہد تحدیث اخبارِ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین خود بولے گی کہ اس زمین پر اس نے عورتوں کو دیکھا تھا، اس زمین پر اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔

۲) دوسری گواہی خود اپنے اعضاء کی ہو گی کہ جس عضو سے گناہ کیا تھا وہ عضو ہاتھ یا پیر گواہی دیں گے۔ الیومَ نَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قیامت کے دن منہ سیل کر دیں گے اور ہاتھ پیر بولے لگیں گے، ہونٹ کہیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے تھے، کان کہیں گے ہم نے گانے سنبھالے تھے، آنکھیں کہیں گی کہ ہم دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کو دیکھتے تھے اس طرح سب اعضاء بولے لے لگیں گے۔

۳) تیسرا گواہ فرشتے ہیں کہ اماماً کاتبینَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کراماً کاتبین تمہارے اعمال سے باخبر ہیں اور چوتھی گواہی اعمال النامہ ہے وَإِذَا الصُّحْفُ نُشَرََتْ۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعْفُ عَنَّا كُوئی مٹا دوں میں تمہارے گواہوں کی گواہی مٹا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ الْحَفَظَةُ ذُنُوبَهُ کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس کے گناہ کو خود بھلا دے گا، ان کی یاداشت کی ریل صاف کر دے گا۔ فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔

وَ أَنْسَى ذلِكَ جَوَارِحَهُ اور اس کے ہاتھ پیر سے جو گناہ ہوا ہے ان کی ریل بھی صاف کر دے گا۔ وَ مَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ اور جس زمین پر گناہ ہوا ہے اس زمین کی ریل بھی صاف کر دے گا۔ حَتَّىٰ يَلْقَى اللَّهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ یہاں تک کہ وہ بندہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ رہے گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے نشانات اور شہادتیں فرشتوں سے مٹاؤں میں گے یا خود مٹا دیں گے؟ تو مفسر عظیم حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مٹاؤں میں گے۔ اگر فرشتوں سے مٹا تے تو فرشتے ہم کو طعنہ دیتے کہ تم لوگ تو نالائق تھے۔ یہ ہم نے مٹا دیا ہے۔ کیا کرم ہے اللہ کا، ایسے کریم مولیٰ پر کیوں نہ فدا ہوں جنہوں نے غلاموں کی آبرو رکھ لی اور ہمارے جراہم کو خود ہی مٹا دیا۔ اب جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر نیک اعمال کرنے لگیں گے جج، عمرے، روزہ، نماز وغیرہ تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ فَأُولُئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ

سَيِّئُهُمْ حَسَنَتِ اور لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّدُكِ رحمت سے ناامید مت ہو، اس کی رحمت غیر محدود ہے۔

جب مخلوق میں یہ قدرت ہے کہ ذرا سا بارود پھاڑوں کو اڑادیتا ہے تو اللہ کی رحمت میں یہ قدرت نہ ہو کہ گناہوں کے پھاڑوں کو اڑادے۔ وَأَغْفِرْ لَنَا أور ہم کو بخشن دیجئے کس طرح؟ يَا ظَهَارُ الْجَمِيلِ وَ سِرْتُ الْقَبِيعِ ہماری نیکیاں ظاہر کر دیجئے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ وَ ارْحَمْنَا يَرْحِمُ کیا ہے؟ جبکہ معافی اور بخشنش ہو گئی تو مفسر آلوسی فرماتے ہیں ایٰ تَفَضْلُ عَلَيْنَا بِفُنُونِ الْأَلَاءِ مَعَ اسْتَحْفَاقَنَا بِأَفَانِينِ الْعِقَابِ اے خدا! اب طرح طرح کی نعمتیں بھی ہم کو دیجئے۔ جو شخص طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا اس پر طرح طرح کی نعمتیں اور عنائیں برسا دیجئے اَنْتَ مَوْلَانَا اَنْتَ سَيِّدُنَا وَ مَالِكُنَا آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ وَ مُتَوَلِّيُ اُمُورِنَا اور آپ ہمارے تمام امور کے متوالی ہیں۔

(راہ مغفرت، صفحہ: ۳۲-۳۳)

آیتِ شریفہ کی مزید تشریح ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا﴾

(سورہ البقرہ، آیہ: ۲۸۶)

آیتِ وَأَعْفُ عَنَّا کی تفسیر

وَأَعْفُ عَنَّا کے معنی ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معافی دے دے اور ان کے نشانات کو بھی مٹا دے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وَأَعْفُ عَنَّا کے معنی ہیں:

﴿أَمْحُ اثَارَ ذُنُوبِنَا﴾

ہمارے گناہوں کے جو چارگواہ پیدا ہوئے ہیں ان کی گواہیوں کو مٹا دیجئے۔ جس زمین پر گناہ ہوا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی:

﴿بُوْمَئِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾

(سورہ الزلزلہ، آیات: ۳-۵)

اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اے زمین تجھ پر جس جس نے جو گناہ کیا تو گواہی دے اور دوسرا گواہی اعضاء کی ہو گی، جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی بولیں گے:

﴿الْيَوْمَ نَحْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(سورہ یس، آیہ: ۲۵)

اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء پر لگیں گے جو کچھ وہ کیا

کرتے تھے۔

ہاتھ کھیں گے کہ ہم نے اس طرح سے چوری کی تھی اور جیب کاٹی تھی۔ سارے اعضاء بولنے لگیں گے۔ تیسرا گواہ دو فرشتے کراماً کا تین ہیں جو اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اور چوتھا گواہ صحیفہ اعمال ہے۔

وَأَعْفُ عَنَّا میں درخواست ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کے تمام نشانات کو مٹا دے، میرے اعضاء کے گناہوں کو بھی مٹا دے، زمین کے گواہ کو بھی مٹا دے اور کراماً کا تین کی یادداشت سے بھی بھلا دے اور اس کے بعد اعمال نامہ میں جو گناہ درج ہیں توہہ کی برکت سے ان کو بھی مٹا دے۔

وَأَغْفِرْ لَنَا کی تفسیر ہے:

﴿بِإِظْهَارِ الْجَمِيلِ وَ سِترِ الْقَبِيْحِ﴾

یعنی آپ میری برا نیوں کو چھپا دیجئے اور میری نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے اللہمَّ أَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأُخْرَيْنَ اے اللہ ہم لوگوں سے ایسے بڑے کام ہو جائیں کہ قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے۔ وَأَغْفِرْ لَنَا کی تفسیر المعانی میں ہے۔

کون سی جاہ محمود ہے؟

اب اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو ظاہر کرنے کی طلب تو حب جاہ ہے، تو یہ حب جاہ نہیں ہے۔ حب جاہ وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے جاہ چاہے اور جو اللہ کے لیے چاہے کہ اللہ مخلوق میں ایسی عزت دے کہ جب میں بیان کروں تو سب لوگ سر آنکھوں پر رکھ لیں تو یہ طلب عزت برائے رب العزت ہے۔ جاہ وہ مذموم ہے جو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے ہو۔ جو بڑائی اللہ کے لیے ہو وہ مذموم نہیں مثلاً ہم اچھا لباس اس لیے پہنیں کہ لوگ مولویوں کو تقدیر نہ سمجھیں، چندہ مانگنے والا بھک منگانہ سمجھیں تو یہ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور مطلوب ہے۔ پس جب وَأَغْفِرْ لَنَا کہیے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میری برا نیوں کو مخلوق سے چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے۔ اسی طرح جب وَأَعْفُ عَنَّا کہے تو دل میں اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے گناہوں کے چاروں گواہوں کو مٹا دیجئے۔ اور آپ کا یہ وعدہ مذکورہ حدیث میں بربان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ سفیر جو ہوتا ہے سلطانِ مملکت کا ترجمان ہوتا ہے۔ سرو رعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ آپ کا یہ فرمادیانا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے تمام نشانات کو مٹا دیں گے اور خود مٹائیں گے، اپنے بندوں پر فرشتوں کا بھی احسان نہیں رکھیں گے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ترجمانی ہے۔ رحمۃ للعلمین کی زبان مبارک ارجم الراحمین کی رحمتوں کی ترجمان ہے۔

اس کے بعد ہے وَارْحَمْنَا بُس آج اسی مضمون کے لیے اتنی تہذید میں بیان کی کہ یا اللہ ہم پر حم

فرماد تجھے۔ معافی اور مغفرت کے بعد رحم کے کیا معنی ہیں؟ رحمت کی چار تفسیر حکیم الامت نے بیان کی جو شاید ہی آپ کسی کتاب میں پائیں گے۔ لہذا جب وَأَرْحَمْنَا کہے تو چار نعمتوں کی نیت کر لیجئے:

(۱) **توفیق طاعت:** گناہوں سے طاعت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ گناہ کی نحوست سے عبادت میں جی نہیں لگتا اور گناہوں کے کاموں میں خوب دل لگتا ہے اس لیے گناہوں میں بتلا ہو جاتا ہے اور پھر عبادت و فرماء برداری کی توفیق نہیں ہوتی۔

(۲) **فراخی معیشت:** روزی میں برکت ڈال دیجئے کیونکہ گناہوں سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے کہا تا بہت ہے لیکن پورا نہیں پڑتا۔

(۳) **بے حساب مغفرت:** قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجئے کیونکہ جس سے مواخذہ ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔

(۴) **دخول جنت:** اب علامہ آلوی کی تفسیر سنئے۔ فرماتے ہیں رحم کی درخواست میں اپنے کسی نیک عمل کا استحقاق نہ لانا۔

اب وَأَرْحَمْنَا کی تفسیر کرتا ہوں۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ تَفَضُّلَ عَلَيْنَا بِفُنُونِ الْالَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِنَا بِأَفَانِينِ الْعِقَابِ﴾

اے اللہ! جو بندہ گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا، فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین۔ جو افانین عذاب کا مستحق تھا یعنی اپنے طرح طرح کے گناہوں کی نحوست سے جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا اب معافی اور مغفرت طلب کرنے کے بعد اس پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرمائیے۔ اگر حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن میں اختر نہ دیکھتا تو اس مضمون تک ہمارے دماغ کی رسائی بھی نہ ہوتی کہ اللہ کی عنایات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرنا ناشکری ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے آپ نے یہ کرم کیا بلکہ یہ کہو کہ آپ کے کرم کا سبب محض آپ کا کرم ہے، میرا کوئی عمل اس کا سبب نہیں۔ توفیق عمل بھی آپ کا کرم ہے مگر آپ کے کرم کے عنوانات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی عبادت کی توفیق دے دی اور پھر اس کے بعد اپنے کرم سے اسے قبول فرمای کر کوئی نعمت عطا فرمادی۔ دیکھو! حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔

بہت ابھا گن مر گئیں جگت جگت بورائے

پیو جے کا چاہیں تو سوتت لیت جگائے

یہ ہندی سنو یعنی بہت سے پاگل دنیا میں پیالہ بھیک کا لے کر مارے مارے پھرے اور کچھ نہ ملا اور جس کو اللہ چاہتا

ہے سوتے ہوئے کو جگاتا ہے کہ اُنھوں نے پڑھ کر مغل غافل پڑا ہے، لے تجھ کو نسبتِ مع اللہ کی عظیم دولت دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بر بنائے استحقاقِ مت مانگو کہ میرا حق بنتا ہے۔ بس یہ کہو کہ میرا حق نہیں بنتا، ہماری عبادت آپ کی عظمتِ غیر محدود کے سامنے کچھ نہیں الہذا آپ اپنی مہربانیاں محض اپنی مہربانی سے دے دیجئے۔ یہ دعا وَارْحَمْنَا کی اس تفسیر کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی رحمت سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ یا رحم جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ بر بنائے استحقاق نہیں ہے ہم تو مستحق ہیں عذاب کے، ہمارا استحقاق تو عذاب کا ہے اور وہ بھی ایک دو طرح کے عذاب کا نہیں طرح طرح کے عذاب کے ہم مستحق ہیں لیکن معافی اور مغفرت کے بعد طرح طرح کے مستحق عذاب پر طرح طرح کی نعمتوں کی پاکش فرمادیجئے۔ یہ مضمون اب ختم ہو گیا آج بہت خاص تقاضے کی بنا پر یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی اپنا استحقاق نہ پیش کرو کہ میرا حق بنتا ہے، ضابطے سے مت مانگو را بطلے سے مانگو۔ اس لیے علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ جہاں تواب کے ساتھ درحیم نازل فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو ہم جو تمہاری تو بے قبول کرتے ہیں تو ضابطے سے نہیں کرتے شانِ رحمت سے کرتے ہیں کیونکہ ایک فرقہ معتزلہ ہے جس کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو قانوناً معاف کرنا پڑے گا تو علامہ آلوی تفسیرِ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ تواب کے بعد درحیم نازل فرمانا فرقہ معتزلہ کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، وہ قادرِ مطلق ہیں، کسی کو معاف کرنے پر وہ مجبور نہیں ہیں، اپنی شانِ کرم سے، شانِ رحمت سے معاف فرماتے ہیں۔ الہذا بندوں کا کام ہے کہ عاجزی سے ان کے حضور میں گڑگڑاتے رہیں۔ دین پر استقامت چاہتے ہو تو عاجزی اور شکستگی اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہے۔

(دین پر استقامت کا راز، صفحہ: ۲۹-۳۱)

آیت نمبر ۱۳

﴿رَبَّنَا لَا تُنْزِعُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

(سورہ آل عمران، آیہ: ۸)

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹایئے بعد اس کے کہ آپ نے حق کی طرف را دکھائی اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے (یعنی راہِ مستقیم پر جما کر رکھئے) اور آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ (بيان القرآن)

استقامت علی الدین اور حسنِ خاتمہ کی دعا کے عجیب تفسیری اطائف

ہر نبھی اپنے منی عنہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے رَبَّنَا لَا تُنْزِعُ قُلُوبَنَا بتارہا ہے کہ قلب میں

از اغت و بھی کی استعداد موجود ہے اور استعداد بھی ایسی کہ از اغت صرف گناہ زنا اور شراب تک محدود نہیں رہتی بلکہ عقیدہ تک خراب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نعوذ باللہ بنت اور مہدویت تک کادعویٰ کرنے لگتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھانہ ہونے دیجئے بعْدَ اذْهَدِيْتَنَا آپ کے جس کرم نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اسی کرم سے آپ ہم کو عدم از اغت بھی بخش دیجئے۔ عدم از اغت کی درخواست میں طلب ہدایت کی درخواست موجود ہے۔ اور عطاۓ ہدایت اور بقاۓ ہدایت اور ارتقاء ہدایت کی بھی درخواست ہے تاکہ ہمارا قلب ٹیڑھانہ ہونے پائے اور دل میں بھی گناہوں سے آتی ہے خصوصاً اس زمانہ میں بدنظری کے گناہ سے دل بالکل تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ بدنظری پر سرویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ:

﴿لَعْنُ اللهُ النَّاطِرُ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ﴾

(المشکوہ، کتاب النکاح، باب النظر الى المخطوبه)

تو نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے یہ شخص لعنت میں آگیا اور لعنت کے معنی ہیں الْبَعْدُ عَنِ الرَّحْمَةِ جب رحمت سے دوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ گئی الا مَارِحَمَ رَبِّیْ کا سایہ اس سے ہٹ گیا اور نفس امارہ کے شر سے بچنے کے لیے سوائے سایہ رحمت حق کے اور کوئی راستہ نہیں۔ الہذا سایہ رحمت ہٹنے سے یہ شخص نفس امارہ بالسوء کے بالکل حوالے ہو گیا۔ اب نفس اس سے جو گناہ کرادے وہ کم ہے کیونکہ السوء میں لام استغراق کا ہے۔ ابتداء عالم سے قیامت تک گناہ کے جو اقسام و انواع ایجاد ہوں گے سب اس لام میں شامل ہیں۔ پس اس کے گناہوں کی تاریخ ایسی بھیاں تک ہو جائے گی جس کا وہ خود تصور نہیں کر سکتا تھا۔ الہذا اے اللہ آپ کے جس کرم نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اپنے کرم سے اس ہدایت کو باقی بھی رکھئے اور اس میں ترقی بھی عطا فرمائیے۔ عطا کرم بھی فرمائیے اور ارتقاء کرم بھی فرمائیے۔

وَهَبْ لَنَا وَهَمِّيْنْ هَبْ كَرْدِيْجَيْنَ۔ کون ساھبہ؟ جس میں ہمارا نفع ہو۔ لَنَا میں لام نفع کا ہے مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اپنے پاس والی رحمت، اپنی خاص رحمت ہم کو وہ کر دیجئے۔ یہاں عام رحمت کا سوال نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ شروع میں عدم از اغت کا سوال کیا گیا اس لیے یہاں وہ خاص رحمت مانگی جا رہی ہے جو از اغت اور رُمی سے قلب کو محفوظ فرمادے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿الْمَرَادُ بِهِذِهِ الرَّحْمَةِ أَلَا سِيقَامَةُ عَلَى الدِّينِ وَحُسْنُ الْخَاتِمَةِ﴾

اور لفظ ہبہ سے کیوں مانگنا سکھایا گیا؟ کیونکہ استقامت علی الدین اور حسن خاتمه وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی برکت سے جہنم سے نجات اور دامگی جنت نصیب ہوگی۔ یہ ہماری محدود زندگی کے محدود اور ناقص

مجاہدات و ریاضات کا صلد ہر گز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ فرمادیا کہ خبردار! میری اس رحمتِ خاصہ کو اپنے کسی عمل اور کسی مجاہدہ اور کسی ریاضت کا بدلہ نہ سمجھنا کیونکہ حسِ خاتمہ میرا وہ عظیم الشان انعام اور وہ غیر محدود رحمت ہے جو دامًا دخولِ جنت کا سبب ہے جس کا تم کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ مثلاً اگر تم نے سو سال عبادت کی تو قانون اور ضابطہ سے سو سال تک تمہیں جنت میں رہنے کا جواز ہو سکتا تھا لیکن محدود عمل پر یہ غیر محدود انعام اور غیر فانی حیات کے ساتھ غیر فانی جنت عطا ہونا یہ صرف میری عطا اور میرا کرم ہے اس کرم کا سببِ محض کرم ہے الہذا میری یہ رحمتِ خاصہ اور انعام عظیم لینے کے لیے لفظِ حبہ سے درخواست کرو کیونکہ حبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے اور حبہ میں واحب اپنے غیر مقنای کرم سے جو چاہے عطا فرمادے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

﴿وَ فِي إِخْتِيَارِ صِيغَةِ الْهُبَّةِ إِيمَاءً أَنَّ هَذِهِ الرَّحْمَةَ أَىٰ ذَلِكَ التَّرْفِيقُ لِلْإِسْتِقَامَةِ عَلَى الْحَقِّ تَفَضُّلٌ مَحْضٌ بِدُونِ شَائِبَةٍ وُجُوبٌ عَلَيْهِ تَعَالَى شَانَةٌ﴾

اور صیغہ ہبہ اختیار فرمکر حق تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمادیا کہ یہ رحمت جس سے مراد وہ توفیقِ خاص ہے جس سے بندوں کو دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے اور جو سبب ہے حسِ خاتمہ کا یہ محض حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور آگے انکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ معرضِ تقلیل میں ہے کہ تم کوہم سے اس نعمتِ عظمی کو حبہ سے مانگنے کا کیا حق ہے؟ انکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ معنی میں لاؤ انکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ کے ہے۔ ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے داتا اور بہت بڑے بخشش کرنے والے ہیں۔ (انضالِ رباني، صفحہ ۹۷-۹۸)

علامہ آلوسی سید محمود بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ عدم ازانۃ کے مقابلہ میں جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد رحمتِ عام کے ساتھ یہاں رحمتِ خاص بھی ہے:

﴿الْمُرَاذُ بِالرَّحْمَةِ الْأَنْعَامُ الْخَاصُّ وَ هُوَ التَّوْفِيقُ لِلثِّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ وَ فِي سُؤَالِ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْهِبَّةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَعَالَى تَفَضُّلٌ مَحْضٌ مِنْ غَيْرِ شَائِبَةٍ وُجُوبٌ عَلَيْهِ عَزَّ شَانَةٌ﴾

(تفسیر روح المعانی، ص: ۶۰، پ: ۳)

ترجمہ: اس رحمت سے مراد رحمتِ خاص ہے اور وہ حق پر رہنے کی توفیق ہے، لفظ ہبہ سے سوال سکھانے میں تعلیم ہے کہ جس طرح ہبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے اور صرف عنایاتِ واحب سے ہوتا ہے اسی طرح استقامت کی نعمتِ محض عطاۓ حق ہے فضلِ محض ہے۔ ضابطہ سے نہیں ملے گا۔ صرف زاری اور الحاج سے دعا کرنے سے ملے گا۔ کما قال العارف الروی۔

زور را بگذار و زاری را بگیر
رحم سوئے زاری آید اے فقیر

ترجمہ: طاقت سے یہ دولت نہیں ملتی رونے سے کام بنتا ہے۔ اے فقیر! رحمتِ حق سوئے گریہ وزاری متوجہ ہوتی ہے۔

اور انکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ سوال کی تقلیل ہے۔ یعنی لاَنَكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ہم آپ سے اس رحمتِ خاصہ کو بطور ہبہ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ بہت بخشنش کرنے والے اور بہت عطا کرنے والے ہیں۔ واہ رے میرے کریم مالک مانگنے والوں کے لیے اپنی کیسی صفت بیان فرمادی کہ ہر گھنگاریہ دولت مانگ لے۔

یہ نعمت ہدایت اور توفیقِ حق تعالیٰ کی ولایت کی تفسیر ہے۔ حضرت آلوی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں:

﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورہ البقرہ، آیہ: ۲۵۷)

کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کلمات سے اخراج بذریعہ ہدایت و توفیق یہ ولایت کی تفسیر ہے:
﴿يُخْرِجُهُمْ بِهِدَايَتِهِ وَ تَوْفِيقِهِ وَ هُوَ تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ﴾

اور ولی کی تفسیر میں فرمایا:
﴿أَيُّ مُعِيْهِمُ وَ مَحْبُّهُمْ وَ مَتَوَلِّيُّ أَمْوَاهُمْ وَ أَفْرَادُ النُّورِ لِوَحْدَةِ الْحَقِّ وَ جَمَعِ الظُّلْمَةِ لِتَعَدُّدِ فُنُونِ الضَّلَالِ﴾

(تفسیر روح المعانی، پ: ۳، ص: ۱۲)

یعنی اللہ تعالیٰ ان کا معین ہے اور ان کا محب ہے اور ان کے امور کا متولی ہے۔ اور نور کو مفرد بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ حق ایک ہوتا ہے اور کلمات کو جمع کے صیغہ سے بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ گمراہی کے انواع متعدد ہوتے ہیں۔

استقامت کی دعا حدیث سے

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَدْعُوْا يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتَ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ﴾

(جواهر البخاری، ص: ۱۵۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے

تھے اے دلوں کے بد لئے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھئے، میں نے عرض کیا کہ آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ:

﴿لَيْسَ مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَاعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقْيِمَهُ أَقَمَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزِيغَهُ﴾

(تفسیر روح المعانی، ص: ۸۹، پ: ۳)

ترجمہ: نہیں کوئی قلب مگر وہ اللہ تعالیٰ کی دوالگیوں کے درمیان ہے۔ اگرچا ہے قائم رکھئے حتیٰ پر اگرچا ہے طیڑھا کرنا تو طیڑھا کر دے۔

حسن خاتمه نصیب ہونے کا طریقہ

حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ گاہ گاہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس جاتے رہو اور ان کی صحبت میں رہو۔ یہ ہے کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أَىٰ خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُ مُشْلَهُمْ وَكَذَا فِي الرُّوْحِ جس ولی کے پاس طالب رہتا ہے اس کی صحبت کی برکت سے ویسا ہی ولی بن جاتا ہے حسن خاتمه جس طرح اللہ والوں کی محبت اور صحبت سے نصیب ہوتا ہے اسی طرح ان کی عداوت سے سوء خاتمه کا اندریشہ ہوتا ہے۔ (کشول معرفت، صفحہ: ۲-۳)

علام آلوی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

﴿الْمَرَادُ بِالرَّحْمَةِ الْأَنْعَامُ الْخَاصُّ وَهُوَ التَّوْفِيقُ لِلشَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ﴾

عدم ازاغت کے لیے جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے اور وہ توفیق ہے حق پر قائم رہنے کی اور لفاظ ہبہ سے مانگنے میں یہ تعلیم ہے کہ:

﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَفَضُّلٌ مُحْضٌ بِدُونِ شَائِبَةٍ وُجُوبٌ عَلَيْهِ تَعَالَى شَانَةٌ﴾

استقامت کی نعمت فضل محض ہے، عطاً حق ہے، ہبہ ہے۔ جس طرح ہبہ بغیر معاوضہ ہوتا ہے، محض ہبہ کرنے والے کی عنایت سے ہوتا ہے اسی طرح دین پر استقامت کی نعمت ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی محض حق تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ملتی ہے اور اُنکَ اُنَّ الْوَهَابُ معرض تقلیل میں ہے یعنی لائنکَ اُنَّ الْوَهَابُ تو معنی یہ ہوئے کہ ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے، بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔

اس دعا کا معمول دین پر استقامت اور حسن خاتمه کا بہترین نسخہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اللہ نے اپنی عنایات کو جو ہم پر واجب فرمایا تو اس کا نام و جوب تفصیلی اور و جوب احسانی اس لیے ہے کہ استقامت اور ایمان پر موت اور جنت کا ملتا اللہ تعالیٰ کے ہبہ پر ہے، ہم اپنے اعمال کے زور سے اس کو نہیں پاسکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یوں کھور بنا لا تُزغ قُلُوبَنَا اے ہمارے پالنے والے! ہمارے دل کو ازاغت سے یعنی ٹیڑھا ہونے سے بچائیے کیونکہ دل جب ٹیڑھا ہو گا تو جسم کے ہر عضو سے گناہ شروع ہو جائیں گے کیونکہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء اس کے تابع ہیں۔ یہاں عدم ازاغت سے مراد استقامت ہے کیونکہ:

﴿أَلَا شِيَاءٌ تُعْرَفُ بِأَضَادِهَا﴾

ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے اور رات کی پہچان دن سے ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ازاغت سے استقامت کی پہچان کرائی کیونکہ استقامت کی ضد ازاغت ہے۔ لہذا جب دل ٹیڑھا نہیں ہو گا تو مستقیم رہے گا۔ معلوم ہوا کہ عدم ازاغت ہی استقامت ہے۔ لا تزغ کے معنی ہیں کہ ہمارے دل کو ٹیڑھانے ہونے دیجئے یعنی ہمیں استقامت عطا فرمائیے بعد اذ هَدَيْتَنَا بعد اس نعمت کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت سے نوازا تو پھر اب دوبارہ گمراہی سے بچائیے وہب لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں ایک خاص رحمت ہبہ کر دیجئے مگر ہبہ میں اور رحمت میں قصل کیوں فرمایا؟ ہبہ کے بعد فوراً رحمت کا لفظ نازل نہیں فرمایا بلکہ موهوب، واهب اور نعمت ہبہ میں تین الفاظ سے فاصلہ کر دیا، ایک لَنَا، دوسرا مِنْ اور تیسرا لَدُنْكَ پھر رحمت کی نعمت کو بیان فرمایا تاکہ میرے بندوں کو شوق پیدا ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے مُنْگُوانا چاہ رہے ہیں، جیسے ابا بچہ کو لڑو دکھائے اور ذرا سا اونچا کر لے تو بچہ اشتیاق کے مارے اُچھلنے لگتا ہے تو اِشْتِيَاقًا لِّقُلُوبِ الْعِبَادِ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے فاصلہ فرمادیا۔ اور یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں:

﴿الْمُرَادُ بِالرَّحْمَةِ الْإِنْعَامُ الْمُخْصُوصُ وَ هُوَ التَّوْفِيقُ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِيقِ﴾

(تفسیر روح المعانی، ج: ۳، ص: ۹۰)

یہاں رحمت سے مراد عام رحمت نہیں ہے، روئی بوئی لکھوئی کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہاں مراد خاص رحمت ہے اور وہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ہے جس کو استقامت کہتے ہیں۔ پس یہاں رحمت سے مراد استقامت ہے اور استقامت کی نعمت جس کو عطا ہو گئی اس کا خاتمہ بھی ان شاء اللہ ایمان پر ہو گا کیونکہ جو سید ہے راستہ پر جا رہا ہے وہ منزل پہنچ جائے گا اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عدم ازاغت سے شروع ہوا،

اس کے بعد ہدایت ملنے پر اظہارِ شکر سکھایا، آخر میں رحمت خاصہ کا سوال ہوا۔ پس سیاق و سبق بتاتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد استقامت ہے۔ تاب کا شعر ہے۔

ہماری آہ و فغاں یوں ہی بے سبب تو نہیں

ہمارے زخم سیاق و سبق رکھتے ہیں

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبہ نازل فرمائی کو ایک عظیم تعلیم عطا فرمائی کہ تم نعمتِ استقامت، حسن خاتمہ اور جنت اپنے اعمال سے نہیں پاسکتے لہذا ہم سے ہبہ مانگو اور ہبہ میں کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا، ہبہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ تم میرے پاس اپنے اعمال اعلیٰ درجہ کے پیش کرو تب میں تمہیں استقامت دوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے ہندے میری عظمت غیر محدود کا حق اپنی محدود طاقتوں سے ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں، عبادت سے زیادہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لفظ ہبہ نازل فرمایا کہ تم سے یہ رحمت ہبہ مانگو کیونکہ اس رحمت کا تم کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتے۔ پس نعمتِ استقامت اور عدمِ اzaght لیعنی دل کا ٹیڑھانہ ہونا جس کے بدله میں دائیٰ جنت ملے گی یہ تمام نعمتیں قانوناً تم نہیں پاسکتے کیونکہ قانوناً تم اس کے حقدار نہیں ہو سکتے مثلاً اگر تم نے ساٹھ برس عبادت کی ہے تو ساٹھ برس تک تم جنت کے حقدار ہو سکتے ہو، ساٹھ برس کی عبادت سے دائیٰ جنت کا قانوناً کہاں حق بتا ہے لہذا ہم سے ہبہ لیعنی بخشش مانگو کیونکہ ہبہ اور بخشش بلا معاوضہ ہوتی ہے۔ وَ هُبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ خاص رحمت استقامت اور حسن خاتمہ کی جس کا ثمرہ جنت ہے:

﴿ذلِكَ تَفَضُّلٌ مَعْظُضٌ مِنْ غَيْرِ شَائِبَةٍ وَجُوبٌ عَلَيْهِ عَزَّ شَانَهُ﴾

(تفسیر روح المعانی، ج: ۳، ص: ۹۰)

یہ مفضل سے پاؤ گے اس لیے وجوب کاشائیہ بھی نہ لانا کہ اللہ کے ذمہ اس کا دینا واجب ہے۔ اسی لیے ہبہ سے مانگنے کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ رحمت تم اپنی عبادتوں سے نہیں پاسکتے یہ مفضل ان کی بخشش اور بھیک ہو گی اس لیے بھکاری بن کر مانگو کیونکہ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ تَوَالَّدُ كَرْجَرْد فقیر ہو۔

میرے شیخ و مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعا کے بعد انکَ اُنْتَ الْوَهَابُ جو ہے یہ کیوں ہے؟ گویا ہندے سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو آپ سے ہبہ مانگتے ہیں تو سارے عالم ہی آپ سے ہبہ مانگ رہا ہے، آپ کتنا دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں واہب نہیں ہوں وہاب ہوں، کثیر الہبہ ہوں، سارے عالم کو ہبہ دے دوں پھر بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کی نہیں ہو گی۔ میرے شیخ نے تفسیر

روح المعانی نہیں دیکھی تھی مگر جس مبداء فیاض سے علامہ آلوی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یقینی تفسیر عطا ہوئی، اس مبداء فیاض سے وہ قیامت تک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے رہیں گے۔

تو میرے شیخ کے علوم کے ساتھ علامہ آلوی کی علمی تائید دیکھئے۔ فرماتے ہیں انکَ اُنتَ الْوَهَّابُ معرضِ تعلیل میں ہے ای لَأَنَّكَ اُنتَ الْوَهَّابُ سارا عالم آپ سے ہبہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، ہم فقیروں کا بہت بڑے داتا سے پالا پڑا ہے تو انکَ اُنتَ الْوَهَّابُ میں اللہ تعالیٰ نے ہبہ مانگنے کے حکم کی علت بیان فرمائی کہ تم ہبہ مانگنے سے گھبراو مت کیونکہ میں بہت بڑا وہاب ہوں انکَ خالی خبر نہیں معنی میں لَأَنَّكَ کے ہے یعنی ہم آپ سے ہبہ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے داتا ہیں۔

(دین پر استقامت کا راز)

آیت نمبر ۱۲

﴿فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ﴾

(سورہ آل عمران، آیہ: ۳۱)

اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اتباعِ رسول ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرمادیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو ان کُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے اور پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے ہیں اور اپنے محبوب سے کھلوار ہے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے نجح جاؤ۔ جس شخص نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک میں ارشادِ مبارک کے ارشادِ مبارک میں فرق کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشادِ مبارک کی قدر نہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا اتَّكُمُ الرَّوْسُولُ فَخُذُوهُ میرے رسول تم کو جو احکام عطا فرمائے ہیں اُن کو سر آنکھوں پر رکھ لو ما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اُس سے رُک جاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے اُن کو بھی کرو اور جن باتوں کا

حکم ہمارا رسول دے اُن کو بھی کرو اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رُکو اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رُکو، خبردار! میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے ہی فرمان کے ناقل اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہیں، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔

محبت کی دو قسمیں

معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود یعنی غیر مقبول جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے، بخاری شریف کی حدیث میں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھی! ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول نہ اس کے نفل قبول لہذا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعہ ملتی ہے۔

عشق رسول کی بنیاد اتباع رسول ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا تھے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرمار ہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اجلِسُوا یعنی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھا ہے اَفْضَلُ الصَّحَابَةَ بَعْدَ خُلُفَاءِ الرَّأْشِدِيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی تھوڑا کانے ی شبہ ببالنیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتو ہیں مسجد کے دروازہ پر جو توں میں بیٹھ گئے، سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبد اللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ محدثین لکھتے ہیں یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی انتہائی قدراً اور زگاہِ رسالت میں انتہائی شانِ محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارانہیں ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جو توں میں بیٹھ جائیں لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعود کی اتباع دیکھتے کہ انہوں

نے اگر مگر نہیں لگایا، جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں۔
مرضی تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے
بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

(آداب عشق رسول ﷺ، ص: ۵)

آیت نمبر ۱۵

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۳۵)

حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے

آج کا جو مضمون ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم ہو جائے وہ اس سے جا کر معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے کہ بھی ہم کو معاف کر دیجئے۔ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ نہ لے۔ ہم کو معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے کیونکہ اولیاء اللہ کے حالات میں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ستانے والے کو معاف بھی کر دیا مگر پھر بھی وہ اللہ کے انتقام اور غصب سے نہ بچا۔ تو جس سے معافی مانگوں اس سے بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ سے بھی میری معافی کرادو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی معافی کا واقعہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، باپ نے بھی معاف کر دیا تھا لیکن بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے اور بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری معافی کرا دیجئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دن تک روتے رہے اور اللہ سے اپنے بیٹوں کے لیے معافی طلب کرتے رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آگئے۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام مبارک ہو! اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو معاف کر دیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ لیکن کیسے معاف کیا؟ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے پیچھے آپ کھڑے ہوں، آپ کے پیچھے یوسف علیہ السلام پھران کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھئے۔ دیکھو یہ جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی دعا ہے، آسمانی دعا ہے:

﴿يَارَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَعُ رَجَاءَ نَا﴾

اے ایمان والوں کی امید! آپ ہماری امیدوں کو نہ کٹئے یعنی ہم کو مایوس نہ کیجئے۔

﴿يَا غِيَاثَ الْمُؤْمِنِينَ أَغْشَا﴾

اے ایمان والوں کی فریاد سنے والے! ہماری فریاد سن لیجئے۔

﴿يَا مُعِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِنَا﴾

اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے! ہماری مدد کیجئے۔

﴿يَا مُحِبَّ التَّوَابِينَ تُبْ عَلَيْنَا﴾

اے توبہ کرنے والوں کو محبوب اور پیارا بنانے والے! ہماری توبہ قبول فرمائے، ہم پر مہربانی کر دے۔
قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ﴾

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنالیتے ہیں۔

اس کے بعد وہی سے اللہ تعالیٰ نے تسلی کر دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ تکونی راز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ندامت بھی دور کر دی اور وہی نازل ہوئی۔
اگر کنویں میں گرائے جانے کا یہ واقعہ نہ پیش آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج نہ نصیب ہوتی۔
علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہلے ہی سے ہاتھ کھو لے کھڑے تھے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔

بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی راہوں سے پیار دیتے ہیں جو بظاہر بہت خوب ریز نظر آتی ہیں۔ اس راہ میں بعض اوقات ایسے مصائب آتے ہیں کہ دل لرز جاتا ہے کہ اس مصیبت کا کیا نجام ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی مصیبت کو رایگاں نہیں جانے دیتے بشر طیکہ ان سے رجوع رہے، مرکز نہ چھوڑے چاہے مر جائے مگر مرکز نہ چھوڑے آخری سانس تک اللہ سے لپٹا رہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و وعید کو یاد کرنے والے

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَكْرَسُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ سُبْحَانُهُ كُلُّ خطا ہو بھی جائے تو اس خطا کی تلافي وہ کیسے کرتے ہیں، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے ان عاشقوں کی۔ گناہ کے بعد ان کی علامتِ مقبولیت کیا ہے ذکر کرو! اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے یہاں کیا معنی ہیں؟ یہاں ذکر اللہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کر کے یا بندوں کا حق مار کے ہاتھ میں شیخ لے کر سجنان اللہ،

سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کی پانچ تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر ہے:

﴿ذَكُرُوا اللَّهَ أَيْ ذَكْرُوا عَظِمَتَهُ وَ وَعِيَدَهُ﴾

اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں کہ بہت بڑے مالک اور بڑی طاقت والے مالک کو میں نے ناراض کر کے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی ہے، اگر خدا نے کینسر پیدا کر دیا تو کہاں جاؤں گا یا ہارت فیل کر دیا تو اس خبیث حالت میں موت آجائے گی۔ مگر یہ عقل بھی اُسی کو آتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، گدھوں کو عقل نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ذَكُرُوا عَظِمَتَهُ اللَّهِ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں وَ وَعِيَدَهُ اور اس کی وعیداً اور عذاب کو یاد کرتے ہیں کہ اتنے عظیم مالک نے اگر عذاب دیا تو کہاں پناہ ملے گی۔ عَظِمَتَهُ اور وَعِيَدَهُ کی ایک ہی تفسیر ہے، جب عظمت ہوتی ہے تب ہی اس کی وعید بھی عظیم معلوم ہوتی ہے۔ اگر عظمت نہ ہو تو اس کی وعید سے بھی نہیں ڈرتا مثلاً ایک آدمی مر رہا ہے، چار پانی پر لیٹا ہے، ٹی بی میں بتلا ہے، وہ اگر کسی کو دھمکاتا ہے کہ تجھے ڈنڈے ماروں گا تو دوسرا کہتا ہے کہ ابے تو کیا کر لے گا؟ اُٹھے گا تو چکر کھا کر گر پڑے گا۔ لہذا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے وہی اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اور جتنی سزا میں ہیں جہنم وغیرہ کی سب کو سوچتا ہے کہ میرا کیا حال ہو گا؟

اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشی کو یاد رکھنے والے

ایک تفسیر ہو گئی اور دوسری تفسیر ہے:

﴿وَ ذَكُرُوا الْعَرْضَ عَلَيْهِ تَعَالَى شَانَهُ﴾

اور اللہ کے حضور اپنی پیشی کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ تفسیریں ہو گئیں۔

قیامت کے دن کے حساب کو یاد رکھنے والے

اب تیسری تفسیر پیش کرتا ہوں:

﴿ذَكُرُوا سُؤَالَةِ بِذَنِبِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

قیامت کے دل کے سوالات کو یاد کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے متعلق پوچھیں گے کہ تم نے فلاں کو بری نظر سے کیوں دیکھا تھا؟ تم کو زندگی میں نے کس لیے دی تھی؟ جوانی کس لیے دی تھی؟ تم نے مقطع صورت میں کون سا کام کیا؟ بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں تم نے ننگ بیزید کام کیوں کیا؟ پس اللہ کے حساب سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے ڈرنے والے

اور چوتھی تفسیر ہے:

﴿ذَكَرُواْ جَلَّاَهُ فَهَأْبُوا﴾

اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو یاد کرتا ہے کہ جس نے شیر پیدا کیا کہ اگر شیر دھاڑ دے تو آدمی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے چاہے شیر کٹھرے میں بند ہو حالانکہ جانتا ہے کہ شیر باہر نہیں آ سکتا مگر پھر بھی آواز سے بے ہوش ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ کی جلالت شان کو یاد کر کے ڈرجاتے ہیں کہ جب اس کی ادنیٰ مخلوق کا یہ حال ہے تو جو شیر کا خالق ہے اس کے جلال کا کیا عالم ہو گا۔

آیت فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ الخ کی تفسیر

اللہ نے نافرمان قوموں کی نافرمانیوں کے بدله میں جب عذاب نازل کیا تو اللہ کے عذاب میں کیا طاقت ہے؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا هَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی پھر ان کو برابر کر دیا یعنی اس ہلاکت کو پوری قوم کے لیے عام کر دیا کہ کوئی بھی بچنے نہ پایا اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں آج دشمن کو برابر کر دیا یعنی ایسا بتاہ و بر باد کیا کہ اس کا وجود بھی باقی نہیں رہا۔ جن کو اپنی قوت پر نازختا آج ان کا اور ان کی بڑی بڑی عمر توں کا کہیں نشان تک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی شان نازل کی جو پوری کائنات میں کسی بھی عظیم الشان مملکت والے بڑے سے بڑے بادشاہ کو چاہے وہ پوری دنیا کا مطلق العنوان بادشاہ ہو حاصل نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نازل کرنے کی طاقت کے ذیل میں بیان فرماتے ہیں کہ جس قوم پر اس کے گناہ کے سبب ہم نے عذاب نازل کیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا تو دنیوی بادشاہ تو کسی قوم کو مزادے کر ڈرتے رہتے ہیں لیکن ہماری کیا شان ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا يَحَافُ عُقُبَهَا اور اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کے بعد اس کے رد عمل، ری ایکشن اور انتقام کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں کوئی بادشاہ کسی قوم یا کسی صوبہ پر انتقام نازل کر دے، بمباری کرادے تو بعد میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے انتقام نہ لے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ لو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ کہیں کوئی قوم ہم سے انتقام نہ لے اور ہمارا کام تھام کر دے۔ یہ چار تفسیریں ہو گئیں۔

جمالِ الٰہی کو یاد کر کے گناہوں پر نادم ہونے والے

پانچویں تفسیر ہے:

﴿ذَكَرُوا جَمَالَهُ فَاسْتَحْيُوا﴾

اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں پھر شرم جاتے ہیں کہ میں نے کہاں ان فانی چیزوں سے دل لگایا۔ جو سارے عالم کی لیلا و اس کو نمک دیتا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ قیامت کے دن جنت میں جب وہ پیارا نظر آئے گا، اللہ اپنا دیدار کرنے کا تو اللہ کہتا ہوں کہ دنیا یہی نہیں جنت کے بھی پیارے یاد نہیں آئیں گے۔ اللہ ایسا پیارا ہے کہ جنت کی پیاری حوریں بھی یاد نہیں آئیں گی۔ مجنوں کو لیلی بھی یاد نہیں آئے گی۔ خالق لیلی کا نور اور چمک دمک بے مثال اور بعید از خیال ہے۔ سارے عالم کا نمک، سارے عالم کا حسن اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیس کِمِثِلِه شئی اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ایک ذرہ نمک پر یا گل ہونے والو! اس اللہ پر کیوں نہیں مرتے جس کے لیے نمک کے سمندر اور پہاڑ اور سرچشمہ کی مثال بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد جنت بھی یاد نہیں آئے گی، جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔

ترے جلوؤں کے آگے ہمیت شرح و بیان رکھ دی
زبانِ بے نگہ رکھ دی ٹگاہ بے زبان رکھ دی

دیدارِ الہی کے بعد جب جنتی واپس ہوں گے تو حوریں بھی کہیں گی کہ میاں آپ کے چہرے پر آج بڑی چمک ہے اور عجیب و غریب نمک ہے۔ کہاں سے آرہے ہیں آپ؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جلوے اور جعلی دیکھ کر آئے ہیں، ان کی جعلی ہمارے چہروں میں نفوذ کر گئی ہے۔ یہ انعام ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی راہ کے غم اٹھائے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ بغیر غم اٹھائے جنت مل جائے وہ نادان ہے۔ ارے! زندگی کو قیمتی بنالا خترت روئے اب مرنے کے قریب آچکا ہے۔ میری آہ و فغاف کب تک سنو گے، کب تک اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لاوے گے؟ کیا اللہ والا بننے میں آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا؟ ناج گانے اور مردہ جسموں پر مرنے والو! میں نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جن کی جوانی حسن پرستی میں گذری لیکن انہی حسینوں کا جب حسن بگڑ گیا تو بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر وہاں سے بھاگے اور مرند اتو کیا دیتے اپنی عاشقی پرخون کے آنسو روئے لگے کہ میری زندگی غارت گئی۔ مگر کیا کروں تم بھی مفقود اعقل ہو۔ تمہیں بھی تو ان غارت گروں اور ستم گروں سے بھاگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب جانتے ہو کہ غارت گر ہیں، ستم گر ہیں تو کیوں ان سے دل لگاتے ہو، ان سے نظر بچا کر ترپنہ اللہ کو پسند ہے۔

تمام عمر ترپنہ ہے موچ مضطہ کو
کہ اس کا رقص پسند آگیا سمندر کو

اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندے ان پر کشش چہروں سے نظر بچا کر اپنے دل کو ترپانیں، تڑپتے رہیں لیکن قصد آن کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر قلب کی اس موچِ مضطرب کو پیار کرتا ہے، درجاتِ عالیہ دیتا ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں تجلی طور بھر دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، آمین۔ (علامتِ مقبولین، صفحہ: ۳۸-۲۸)

۱۶ آیت نمبر

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِرِ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(سورة ال عمران، آیہ: ۱۲۳)

اصلی شکر کیا ہے؟

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِرِ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ اللَّهُ نے جنگِ بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے تو اس کا شکر یہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس تقویٰ سے رہو، گناہ سے بچوتا کہم شکر گزار بنے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف زبانی شکر کافی نہیں، زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور آنکھوں سے بدنظری کرنا یہ حقیق شکر نہیں، زبان سے بھی شکر ادا کرو اور عمل سے بھی شکر ادا کرو۔ شکرِ سانی سنت ہے اور شکرِ عملی یعنی تقویٰ فرض ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ دیکھئے اگر کسی کا بیٹا زبان سے ہر وقت باپ کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ لیکن باپ کی بات نہیں مانتا تو کیا باپ کا دل خوش ہوگا لہذا اصلی شکر گزاری تقویٰ ہے۔ (فیوضِ ربانی، صفحہ: ۵۱-۵۵)

۱۷ آیت نمبر

﴿وَالْكَظِيمُونَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

(سورة ال عمران، آیہ: ۱۳۲)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی تین علمائیں بیان کی ہیں:

- ۱۔ جو لوگ کہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔
- ۲۔ ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور
- ۳۔ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھا حسان بھی کر دیتے ہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ وَالْكَظِيمُونَ الْغَيْظُ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ وَالْكَظِيمُونَ کے

معنی ہیں الَّذِينَ يَكُظُمُونَ الْغَيْظَ اسِمٌ فاعل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو معنی میں اسم موصول کے ہو جاتا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو غصہ کو ضبط کر لیتے ہیں۔ غصہ آنا بُر انہیں ہے غصہ کا بے جا استعمال برائے۔ اگر غصہ کا مادہ برآ ہوتا تو قرآن میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کے بجائے العادِمِينَ الْغَيْظَ نازل ہوتا۔ جس کے معنی ہوتے کہ وہ لوگ جو غصہ کو معدوم و مفقود و فنا کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العادِمِينَ الْغَيْظَ نازل نہیں فرمایا اس لیے کہ غصہ کا عدم مراد نہیں ہے اگر غصہ معدوم ہو جائے تو کفار سے مقابلہ کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے، وہ تو اللہ نے رکھا ہے لیکن غصہ کے موقع پر اس کا استعمال کرے، مثلاً جہاد ہو رہا ہے اب خدا کے شمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو، اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے بلکہ اس وقت تو کہو ہلُّ مِنْ مُبَارِزٍ ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے، لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ یہ ہیں مردان خدا جو غصہ کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں اماں مقصود ہے یعنی رذائل کو زائل نہیں کیا جاسکتا ان کا رخ پھیرا جاسکتا ہے مثلاً کسی کے اندر غصہ کا مادہ زیادہ ہے، اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے کیا کرتا تھا کسی نے بُرا کہہ دیا بس آپ سے باہر ہو گیا کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر نہ کیا اور غصہ نافذ کر دیا۔ لیکن اصلاح کے بعد اسی غصہ کا رخ بدل گیا، اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، خدا تعالیٰ کے شمنوں سے بغضہ رکھتا ہے، نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ ہرگز تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ غصہ تو ہے لیکن اب امالہ ہو گیا، رخ بدل گیا جو محمود اور پسندیدہ ہے۔

اور کَظُمُ کے کیا معنی ہیں۔ عرب کے لوگ کَظُمُ کا استعمال کہاں کرتے تھے؟ قرآن کیونکہ محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے لہذا علامہ آلوی السید محمود بغدادی مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی میں عربوں کا نقل کیا ہے تاکہ قرآن صحیح سمجھ میں آجائے، فرماتے ہیں کہ کَظُمُ عرب کی لغت میں اس وقت بولتے تھے جب مشک بھر کر پانی اُلٹنے لگتا تھا تو عرب کے لوگ رسی سے اس کا منہ باندھ دیتے تھے۔ لہذا کَظُمُ کے معنی ہیں شُدَّ رَأْسٌ الْقِرْبَةِ عِنْدَ إِمْتِلَاءِ هَا مشک کا منہ باندھ دینا جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ جب تم کو غصہ آجائے اور تمہارے جسم کی مشک کے منہ سے غصہ میں اول فول گالی گلوچ یا کوئی انتقامی جذباتی اور مضر بات نہ نکل جائے، اس وقت جلدی

سے کاظمی رسم سے منہ کو باندھ دو اور غصہ کو ضبط کرلو، اسی کا نام ہے کاظم غیظ۔

اچھا غیظ اور غصب میں کیا فرق ہے؟ جیسے دفتر والے کہتے ہیں کہ آج صاحب کا موٹھیک نہیں ہے غیظ اور غصب میں بیٹھے ہوئے ہیں تا یہ یوں سے کچھنا چاہتی ہو گئی۔

علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیظ و غصب کا فرق بیان کیا ہے۔ غیظ کے معنی ہیں کہ غصہ آئے اور انسان اس کو ضبط کر لے۔ غیظ میں آدمی اندر رکھتا ہے اور غصب کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے اس لیے غیظ کا استعمال مخلوق کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصب سے بچوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے غیظ سے بچوں، غیظ کا لفظ صرف مخلوق کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اور غصب کا استعمال مشترک ہے خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، یعنی غصب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور مخلوق کی طرف بھی کی جاسکتی ہے۔

حضرت صدیق اکبر اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم اب میں ان پر بھی احسان نہ کروں گا اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدر لڑے ہوئے تھے، اصحاب بدر، جنگ بدر کی برکت سے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی:

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

(سورة النور، آیة: ۲۲)

مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جس کے ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صدیق کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے تم اس کی خطماعاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسرا قسم اٹھائی کہ وَاللَّهُ إِنِّي أُحِبُّ أَهْلَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لِيُّ اللَّهُ كی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطماعاف کرتا ہوں اور فرمایا کہ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کروں گا! یہ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللَّهُ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس تفسیر کی تائید میں علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن حسین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندی ان کو وضو کراہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا،

انہوں نے تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا وہ حافظہ قرآن تھی فوراً یہ آیت پڑھی:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْطَ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۱۳۲)

اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا قد کَظَمْتُ عَيْطَ میں نے اپنا غصہ پی لیا، اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا، یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے۔ کسی کے منہ سے بھی نکلے، ہے تو خدا کا فرمان، چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو، ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو۔ لہذا فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کر دی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا قد عَفَوْتُ عَنْکَ میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ اس کے بعد اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا جامیں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ (علاج الغضب، صفحہ: ۱۵)

بس غصہ کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہد ہے کیونکہ غصہ آگ ہے اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے اور مجاہد کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس مجاہد کی بدولت بڑی کرامت حاصل ہو گئی۔

غصہ کے وقت آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہے اور حدیث میں ہے کہ غصہ بھی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی (ج: ۱، ص: ۹۵) میں حدیث نقل کرتے ہیں:

﴿إِتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمَرَةٌ تَوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابْنِ اَدَمَ﴾

غصہ سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دلیل بیان فرمائیں کہ غصہ کا مادہ اور اس کے اجزاء آگ سے بنے ہیں:

﴿الَا تَرَوْنَ إِلَى اِنْتِفَاخٍ أَوْ دَاجِهٍ وَ حُمَرَةٍ عَيْنِيهِ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الاداب، باب الامر بالمعروف، ص: ۳۷)

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردان کی ریگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے، آگ جل جائے تو شیشہ کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے۔ آنکھیں شیشہ ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسرا دلیل اِنْتِفَاخٍ اَوْ دَاجِهٍ بیان فرمائی یعنی اس کی گردان کی ریگیں بھی پھول جاتی ہیں۔ تو غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اور غصہ میں دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ (علاج الغضب، صفحہ: ۲۹)

منحصر سا علاج عرض کرتا ہوں کہ جب غصہ آجائے تو فوراً اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

پڑھیں لیکن ذرا دا میں باہمی بھی دیکھ لیں کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہا اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تiar ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے شیطان بنادیا۔ حالانکہ اعوذ باللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کے شر سے لیکن جہالت کا کیا علاج ہے۔

آیت نمبر ۱۸

﴿إِنَّ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِينَ﴾
(سورة آل عمران، آیہ: ۱۳۰)

شہادت کے رُموز و اسرار

دل میں ایک خیال آتا تھا کہ جنگِ اُحد میں ستر صحابہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کافروں کو ہنسنے کا موقع ملا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کافر ہرگز غالب نہیں آسکتے تھے۔ اس راز کی تلاش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مدد نہ فرمائی جو روح المعانی میں مل گیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ اے صحابہ! اگر تم کو زخم لگا ہے تو تمہاری مدنظر میں مقابل اس کافر قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ اگر آج تمہارے ستر شہید ہوئے تو جنگِ بدر میں کافروں کے بھی ستر آدمی مارے گئے ہیں۔ لہذا تم اپنادل چھوٹا نہ کرو، تم گھاٹے میں نہیں ہو۔ وہ لوگ کفر پر مر نے سے جہنم میں گئے اور تمہارے ساتھی شہید ہو کر جنت میں داخل ہوئے۔ جو کفر پر مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کا حوروں سے نکاح ہو جاتا ہے اور شہید کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہید کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی چیزوں کاٹ لے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَ تِلْكَ الْأَيَامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں یعنی کبھی ایک قوم کو غالب کر دیا اور دوسروی کو مغلوب کر دیا اور کبھی اس کے عکس کر دیا اور دنوں کو اس طرح بدلنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اگر صحابہ ہمیشہ فاتح رہتے اور ان کو کبھی شکست نہ ہوتی تو پھر ایک بھی کافرنہ رہتا فاَنَّ الْكُفَّارَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامَ عَلَى سَبِيلِ الْيَمِينِ وَ التَّفَاعُلِ تو کفار سب کے سب صرف برکت اور نیک شگونی کے طور پر اسلام میں داخل ہو جاتے کہ یہ بہت کامیاب اور مبارک قوم ہے جس کو ہمیشہ فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اخلاص

سے اسلام قبول نہ کرتے جیسے لیکیشن کے زمانہ میں بعض سیاسی لوگ ہوا کا رُخ دیکھتے ہیں کہ کون سیاسی جماعت جیتے گی تو جیتنے والی جماعت میں صرف کرسی کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نیک مقصد نہیں ہوتا۔ علامہ آلوسی و تلکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی ایک حکمت تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ صرف مخلصین، اللہ کے عاشقین، اسلام میں داخل ہوں، دنیوی کامیابی اور فتح چاہنے والے غیر مخلصین سے اسلام کا دامن پاک رہے۔

آگے اللہ تعالیٰ شہادت کا راز بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کو ہم نے شہادت کیوں دی ہے، ہمیں تو ان کے ایمان و یقین کا علم تھا ہی وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا تاکہ میرا علم جو مخلوق پر مخفی تھا وہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، خون شہادت قبول کر لیتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑتے کیونکہ مصیبت کے وقت ہی امتحان ہوتا ہے اور امتحان کے وقت مخلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ مخلص اللہ پر جان دے دیتا ہے اور منافق اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ كَيْ تَفَسِيرَ مِنْ حَزْرَتِ حَكِيمِ الْإِلَمِتَ مَجْدَ الْمَلَكَتِ مَوْلَانَا تَحْانُوِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے بیان القرآن میں میں القویں یہ الفاظ بڑھادیئے (تاکہ ظاہری طور پر) بھی اللہ کا علم مخلوق پر ظاہر ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال و مستقبل پر محیط ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے کمال ایمان و یقین و عشق و محبت کا تو علم تھا ہی لیکن اپنے علم مخفی کو مخلوق پر ظاہر کرنا تھا اور اپنے عاشقوں کا ساری کائنات میں ڈنکا پڑانا تھا کہ میرے عاشق ایسے ہوتے ہیں جو مجھ پر اپنی جانوں کو فدا کر دیتے ہیں۔

جان دے دی میں نے ان کے نام پر
عشق نے سوچا نہ کچھ انعام پر

اور صحابہ کے خون شہادت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تاریخ لکھوادی جس عظمت کو لکھنے سے سات سمندر اور اس سمندروں کے مثل اور سارے دنیا کے درختوں کے قلم قاصر تھے اور أحد کے دامن میں ستر شہیدوں کے جسم مبارک سے بزبان حال یا شعار نشر ہو رہے تھے۔

ان کے کوچے سے لے چل جنازہ مرا
جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے

ستہ شہیدوں کے جنازوں کی نماز سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی جن کا جنازہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَ يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ جَنَّاتُ أَحَدٍ میں یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ میرا انتظام تھا کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔

حسن کا انتظام ہوتا ہے
عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

یہ میرا انتظام تھا کہ منعم علیہم کے ایک طبقہ کو وجود بخشن تھا کیونکہ بغیر منعم علیہم کے انسان صراطِ مستقیم نہیں پاسکتا تھا لہذا منعم علیہم کے چار طبقے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے:

﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ﴾

(سورة النساء، آیة: ۲۹)

نبیین، صدیقین اور صالحین کو تو امت نے دیکھ لیا تھا لیکن اگر شہید نہ ہوتے تو منعم علیہم کا ایک اہم طبقہ وجود میں نہ آتا اور کفار قرآن پاک کی صداقت پر اعتراض کرتے کہ شہداء کا وہ طبقہ منعم علیہم کہاں ہے جس کا قرآن پاک میں اعلان کیا گیا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے شہادت دے کر اس طبقہ کا وعدہ پورا کر دیا۔ علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں آ رہی تھیں تو مدینہ کی خواتین صحابیات پوچھتی تھیں کہ یہ کس کی لاش ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ شہداء کی لاشیں ہیں تو ان کے منہ سے نکل گیا و یتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس امت میں شہید بھی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ پسند فرمایا اور قرآن پاک میں نازل فرمادیا لیکن الشہداء سے الف لام تخصیص کا ہٹا دیا اور آیت یوں نازل فرمائی وَ يَتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شُهَدَاءَ نَكِرَهُ نازل کیا کیونکہ اگر الشہداء نازل ہوتا تو پھر صرف احمد کے شہید ہی شہید کہلاتے، شہادت کے لیے وہی خاص ہو جاتے کیونکہ الف لام تخصیص کے لیے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو قیامت تک شہادت کا دروازہ کھولنا تھا اس لیے شہداء نازل فرمایا تاکہ قیامت تک شہید ہوتے رہیں اور قیامت تک اس امت کو شہیدوں کی ایک جماعت مل جائے۔ ان شہیدوں نے اپنے جان دے کر ہم کو وفاداری کا سبق دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ بھی مجھے احمد کے دامن میں حاضری کا شرف دیتا ہے تو میں ان شہیدوں کے صدقہ میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ ان شہداء نے آپ پر جان دے دی، اپنا خون شہادت پیش کر دیا اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے اپنی نظریں بچا کر اپنے دل کی آرزوؤں کا خون کر لیں لہذا ان کی جانبازی کے صدقہ میں ہم سب کو بھی اپنی ذات پاک پر جان کو فدا کرنے کی اور خون آرزو کرنے کی توفیق اور بہت عطا فرمادیجئے۔ (عطاء رباني، صفحہ: ۲۹-۳۳)

آیت نمبر ۱۶

﴿إِنَّمَا اسْتَرَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ بِعْضٌ مَا كَسَبُوا﴾

(سورة آل عمران، آیت: ۱۵۵)

اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ آلوی نے ان کا تذکرہ کیا ہے یعنی شیطان تم کو کب بہکاتا ہے،

تمہارے اوپر کب قدرت پاتا ہے؟ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو بیعوضِ مَا كَسْبُوا سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توفیق بڑھتی جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بُرے اعمال کرتا ہے تو قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، پھر شیطان اس اندھیرے میں قبضہ جمایتا ہے ورنہ شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مومن کے دل پر قبضہ کر لے لا مَجَالَ لَهُ عَلَى إِبْنِ آدَمَ بالْوُسُوْسَةِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ بنی آدم کے دل پر قبضہ کر لے لیکن جب دل میں اندھیرا پاتا ہے تو مثل چکا دڑ کے آ جاتا ہے اور گناہوں پر اکسانے لگتا ہے لیکن جب بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لے تو ندامت کے نور سے قلب پھر روشن ہو جائے گا اور پھر شیطان بھاگ جائے گا۔ جس کا دل چاہے شیطان کو وہ جلد بھاگنے کو وہ جلدی سے توبہ کر لے، دیرنة کرے ورنہ وہ اس دل کو اپنا اڈا اور مرکز بنالے گا۔

علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی میں سلطان ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ لکھتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہوں کا تذکرہ کہیں تفسیر میں آ سکتا ہے؟ لیکن یہ سلطان ہے کہ جس نے سلطنتِ لمح، اللہ کے نام پر بادشاہی تو آج تفسیروں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، سلطنت دی، خدا پر فدا ہو گئے تو

اب مرانام بھی آئے گا ترے نام کے ساتھ

تو سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ طوف کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے کہ اے خدا مجھ کو عصمت عطا کر دے لیعنی مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو، معصوم ہو جاؤ۔ تو دل میں آواز آئی کہ اے ابراہیم ابن ادھم! كُلُّ عِبَادِه يَسْأَلُونَهُ الْعِصْمَةَ سارے انسان گناہوں سے معصوم ہونے کی درخواست کر رہے ہیں اگر وہ سب کو معصوم کر دے علی مَنْ يَتَكَرَّمُ وَ عَلَى مَنْ يَتَفَضَّلُ تو پھر خدا کس پر کرم کرے گا اور کس پر مہربانی کرے گا۔ اگر سب مقدس فرشتے بن گئے تو اللہ کس کو معاف کرے گا، اس کی مغفرت کس پر ظاہر ہو گی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسپراینٹ کا قول ملا علی قاری نے مشکوٰۃ کی شرح میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی تیس برس تک درخواست کی کہ یا اللہ! مجھ کو معصوم کر دے، مجھ سے کبھی غلطی نہ ہو، کوئی خطانہ ہو، تیس برس کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں لیکن میری تیس برس کی دعا قبول نہیں کی۔ فوراً دل میں آواز آئی کہ اے اسپراینٹ! تم معصوم بننا چاہتے ہو لیکن معصومیت کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، جب یہی مقصد ہے تو میں نے محبوب بنانے کی دو کھڑکیاں کھوئی ہوئی ہیں تو معصومیت اور تقویٰ والی کھڑکی ہی سے کیوں چپکا ہوا ہے۔ کیا تو ہماری یہ آیت تلاوت نہیں کرتا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ﴾

(سورة البقرة، آية: ۲۲۲)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب بنایتے ہیں۔

توجب ہم نے ایک اور کھڑکی توبہ کی بھی کھول رکھی ہے تو اس کھڑکی سے کیوں نہیں آتا۔ اگر خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے مجھ کو راضی کر لے۔ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور پچھتہ عزم کرتا ہے کہ اے اللہ میں آئندہ ہر گز گناہ نہ کروں گا، جان دے دوں گا مگر آپ کونا راض نہ کروں گا لیکن باوجود پوری کوشش کے پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر یہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، گرگڑتا تا ہے، عاجزی کرتا ہے اور آئندہ گناہ کا عزم نہیں رکھتا حدیث پاک میں ہے کہ ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے چاہے دن میں ستر بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہو۔ لہذا تابعین کو ما یوس نہ ہونا چاہے۔ (حقوق النساء)

آیت نمبر ۲۰

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۱۹۱)

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۸)

تفکر فی الخلائقات سے استدلال تو حیدر مفتر

روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھی تھے آسمان کے نیچے گاؤں میں لیٹنے کی عادت ہوتی ہے، گاؤں میں لیٹنے ہوئے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا یا یہا السَّمَاءُ وَالنُّجُومُ أَنَّ لَكَ رَبًا وَ خَالِقًا اے آسمانو اور ستارو! تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی رب ہے کوئی تمہارا خالق ہے پھر اس نے کہا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اے اللہ! مجھ کو بخش دیجئے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس امتی کو خوشخبری سنادیں کہ میں نے اس کے استدلال تو حیدر کو قبول کر لیا کہ اس نے مجھے کس طرح سے پہچانا، اے آسمانو اے ستارو! تمہارا کوئی رب اور پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ! مجھ کو بخش دیجئے۔ تو ایک دیہاتی اور بدھی کے اس استدلال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس کی مفتر فرمادی۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھی تو ایسے ستارے نظر آتے ہیں یا نہیں۔ راتوں میں کبھی آپ بھی یہی گفتگو کر کے اپنی مفتر کا سامان کر لیجئے۔ اگر عربی کی عبارت یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیجئے کہ اے آسمانو، اے ستارو! تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور رب ہے۔ ایک جملہ اس میں پوشیدہ ہے کہ وہی ہمارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی وہی پالنے والا ہے پھر کہیے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اے اللہ! ہم کو بخش دیجئے۔

ان الفاظ میں مغفرت کا سامان ہے۔ شاپنگ کر لیجئے۔ آج کل بازاروں میں سو دا خریدتے ہو، بس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سو دا خریدلو۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اثر، مغفرت کا اثر رکھا ہوا ہے لہذا جب آسمان پر نظر ہو ستارے نظر آئیں تو جو عربی داں ہیں مولانا لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ دیں۔ یاَيُّهَا السَّمَاءُ وَالْجُوْمُ أَنَّ لَكِ رَبِّاً وَخَالِقًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اور جو عربی نہیں جانتے وہ اردو میں کہہ لیں کہ اے آسمانو اور ستارو! تمہارا کوئی پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے اے خدا ہم کو بخش دیجئے۔ ان شاء اللہ مغفرت ہو جائے گی کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔

قرآن پاک میں عاشقانِ حق کی شان

تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں فکر کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ میرے خاص بندے جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ جب کروٹ بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، آہ! یہ کیا معنی ہیں؟ یہ عشق و محبت سکھا رہے ہیں کہ عاشقوں کا شیوه یہی ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ ہم کو یاد کرتے رہیں اگر مجھلی ایک سینئڈ کے لیے دریا سے الگ ہو جائے گی تو مجھلی کی موت ہے۔ اگر تم ہم کو ایک لمحے کو بھول جاؤ گے تو اے انسانو! تمہاری موت ہو جائے گی، موت ایمانی ہو جائے گی۔ جانور بھی تو زندہ ہے۔ جانوروں کی طرح زندہ رہو گے لیکن ایمانی زندگی تمہاری باقی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ ہر حالت میں مجھے یاد رکھتے ہیں۔ کیا معنی کہ میری فرماں برداری سے مجھے خوش رکھتے ہیں اور نافرمانی کر کے مجھے ناراض نہیں کرتے۔ یہ معنی ہیں ذکر کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے خاص بندے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرتے ہیں۔

تفکر فی خلق اللہ شیوہ خاصانِ خدا

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كہ آسمانوں میں، زمینوں میں سمندر میں اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں کہ کیا شان ہے اس کی! اتنی بڑی دنیا جس پر ہم بیٹھے ہیں چوبیں ہزار میل کا دائرہ ہے اور آٹھ ہزار کا قطر ہے، پہاڑ اور سمندر سب بھرا ہوا ہے نیچے کوئی ستون، سپورٹنگ پلر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے اتنے بڑے مالک ہیں کہ جوز میں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو بغیر تھوپنی کھمبتا قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا پھر اپنے بندے کے دل کو دین پر قائم نہیں رکھ سکتے مگر چاہتے ہیں کہ پہلے فریاد کرو پھر دیں گے۔ (آل اللہ اور صراطِ مستقیم، صفحہ: ۲۷)

ذکر برائے خالق، فکر برائے مخلوق

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عظمتوں کی پہچان کے لیے میری مخلوقات میں غور کرو، میری پروش اور ربو بیت میں آسمانوں، زمینوں، سورج اور چاند، پہاڑوں اور سمندروں میں غور کرو کہ میں کتنا عظیم الشان ہوں۔ یہی میرے اللہ ہونے کی دلیل ہے میری مخلوق میں فکر کرو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے فکر کا لفظ نازل کیا اور اپنے نام کے لیے ذکر کا لفظ نازل کیا یہ ذکر کو کروں اللہ نازل کیا اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ کنازل فرمایا۔ حکیم الامت قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوك میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فکر برائے مخلوق اور ذکر برائے خالق ہے۔ آہ! کیا علوم ہیں ہمارے بزرگوں کے۔

ممانعت تفکر فی اللہ کی حکمت

اور حدیث پاک میں اللہ کی ذات میں فکر کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ لا تَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو کو وہ کیسے ہیں؟ اس کی علمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فَإِنَّكُمْ لَمْ تَقْدِرُوْ فَدَرَهْ فَاقَ تَعْلِيَيْهِ ہے پس تحقیق چونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو عقل کی ڈبیہ میں، عقل کے برتن میں نہیں لاسکتے ہو۔ عقل تمہاری محدود، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود۔ پس غیر محدود کو محدود میں کیسے نہیں لاسکتا؟ صراحی اپنے اندر ملکے کو نہیں لاسکتی، ملکا اپنے اندر حوض کو نہیں لاسکتا، حوض اپنے اندر دریا کو نہیں لاسکتا، دریا اپنے سمندر کو نہیں لاسکتا جب کہ یہ سب محدود ہیں۔ جب چھوٹے محدود بڑے محدود کو اپنے اندر نہیں سما سکتے تو خدا تعالیٰ تو غیر محدود ہیں، ہم محدودوں کے اندر وہ کیسے آسکتے ہیں۔

(ابن اللہ اور صراطِ مستقیم، ص: ۷۶)

تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو کہ اس کی مصنوعات و آثار و نشانیاں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، سمندروں کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دیتا ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی:

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

ہمارے خاص بندے آسمانوں اور زمینوں میں تفکر کرتے ہیں چونکہ اس عالم ناسوت میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ عالم محدود ہے اور حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور غیر محدود، محدود میں کیسے آسکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس عالم میں اپنے آپ کو دکھادیں تو سارا عالم فنا ہو جائے کیونکہ اس عالم کی تخلیق مادہ سے ہوئی ہے اور مادہ میں مشابہ تجلیاتِ الہیہ کا تخلیق نہیں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿نَفَّكُرُوا فِي الْخَلْقِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي الْخَالقِ فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ﴾
(کنز العمال)

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری عقل محدود اس ذات غیر محدود کے احاطہ سے قاصر ہے، فہم محدود میں ذات غیر محدود کا ادراک محال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو کیونکہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ عالم بھی مخلوق ہے اور مخلوق کی رسائی مخلوق تک ہو سکتی ہے کہ کائنات کے عجائب کو دیکھ کر اور ان میں غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیچان کرنے کے لیے یہ عالم پیدا فرمایا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم علم سے ہے جس کے معنی ہیں نشانی۔ پس سارا عالم ان کی نشانی ہے اس عالم کے ذرہ ذرہ میں اپنی نشانیاں بکھیر دیں تاکہ میری نشانیوں میں تم مجھ کو پاجاؤ۔ اسی کو مولانا اصغر گونڈوی فرماتے ہیں۔

میرے سوال وصل پہ پیغم سکوت ہے
بکھر ادیئے ہیں کچھ مہہ و انجم جواب میں

یہ عالم، عالم امتحان ہے اس لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمادیں اور ان نشانیوں کے پردے میں خود کو چھپا دیا تاکہ امتحان باقی رہے اور اہلِ عقل اور اہلِ نظر ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم پر فدا ہو جائیں۔ مولانا اصغر گونڈوی فرماتے ہیں۔

رِدَائے لَالَّهُ وَ گُلُّ، پُرْدَةُ مَهْهَ وَ انْجَمْ
جَهَانْ جَهَانْ وَهُوَ چَبَّےُ ہیں عَجِیْبُ عَالَمُ ہے

یہاں حق تعالیٰ ہم سے ایمان بالغیب چاہتے ہیں۔ مولانا رومی حق تعالیٰ کی طرف سے حکایۃ فرماتے ہیں۔

لَيْمَنُوںْ بَالْغَيْبِ نِیْ بَایِدِ مَرَا
تَا بِ بَسْتَمِ رُوزَنْ فَانِی سَرَا

اے میرے بندو! میں تم سے ایمان بالغیب چاہتا ہوں لہذا اس عالم فانی میں میں نے کوئی سوراخ اور دریچہ نہیں رکھا جس سے تم مجھ دیکھ سکو۔

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس عالم میں ایمان بالغیب اور اعمالِ صالحہ سے ہماری آنکھیں بنائی جائیں اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، آخرت میں یہ پٹی ہٹا دی جائے گی اور آنکھیں کھول دی جائیں گی اور وہاں ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ مشاہدہ تجلیاتِ الہیہ کی صلاحیت پیدا فرمادیں گے۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے

کہ حدیثِ احسان میں ہے:

﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی ﷺ عن الایمان والاسلام، ج: ۱، ص: ۱۲)

اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ اس دنیا میں کائنات کو رہے گا کیونکہ یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، جنت میں کائنات کے کاف کی پٹی ہشادی جائے گی وہاں انکے سے دیکھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں پرده عالم غیب اٹھا دیا جاتا تو مشاہدہ امور غیب سے انتظامِ معاش درہم برہم ہو جاتا اور پھر امتحان بھی نہ رہتا تو اہل ایمان کو جزا اور اہل طغیان کو سزا کس چیز پر ملتی؟ ایمان بالغیب کی بعض حکمتیں حق تعالیٰ نے انسان کی عقل کو عطا فرمائیں لیکن پوری حکمت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (درس مشنوی مولانا روم، صفحہ: ۲۵۱-۲۲۸)

شرح آیت بالاعنوان دِکر

اہل عقل کون لوگ ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب یعنی عقلاً مندوں کون لوگ ہیں:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۱۹۱)

بین الاقوامی عقل والے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ، جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ، خود بخود ان کی زبان پر جاری ہے۔ یہ دلیل عقل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہیں کہ عقلاً مندوہ ہے جو اپنے خالق اور مالک کو اور اتنے بڑے صاحب قدرت اور صاحب کرم کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ کسی آن اللہ کو نہیں بھولتا۔ یہ محاورہ ہے کہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے ہم کو یاد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک سانس بھی ہم کو ناراض نہیں کرتے، ایک سانس بھی ہم سے غافل نہیں ہوتے اس کا یہ مطلب نہ سمجھنے کہ کھڑے ہوئے تو اللہ کو یاد کر لیا بیٹھے تو اللہ کو یاد کر لیا اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ لغت سے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن شریف محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عاشق وہ ہیں جو ہر سانس مجھ پر فدا کرتے ہیں ایک سانس بھی مجھ کو ناراض نہیں کرتے۔

جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ قرب عطا کرتا ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے یعنی قرب ندامت، اعتراض قصور۔ خطاب ہوگئی اب بیٹھے ہوئے رورہے ہیں۔ عبادت کی، حج و عمرہ کیا، تہجد پڑھا،

تلاوت کی تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کی توفیق ہے۔ خطا ہو گئی تو رور ہے ہیں کہ اللہ میاں آج تو مجھ سے خطا ہو گئی۔ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ مجھے معاف کر دیجئے اب زار و قطار رور ہے ہیں۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ پھر ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ رو رو کے موت کی گود میں نہ چلا جائے، مر ہی نہ جائے۔

اس توبہ و ندامت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر سکینہ اور سکون نازل کرتا ہے تاکہ کہیں شدت غم سے میرے بندہ کی موت واقع نہ ہو جائے میرا عاشق ندامت سے مر ہی نہ جائے۔ اتنی ندامت ہو کہ گناہ سے نفرت ہو جائے اتنی ندامت نہ ہو کہ موت ہی واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی موت نہیں چاہتے۔ اپنے عاشقوں کی حیات پر سکون اور دوسروں کی حیات کے لیے ان کو نمونہ اور ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے عاشقوں کو ایسی حیات دیتے ہیں کہ لاکھوں انسان ان سے ولی اللہ بنتے ہیں۔
(نزل سکینہ، صفحہ ۷۶-۷۷)

آیت نمبر ۲۱

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّلٍ وَفَتْلُوًا وَقُتْلُوًا لَا كَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمْ وَلَا دِخْلَهُمْ جَنَّتٍ (النَّحْشُورُ)

(سورة ال عمران، آیة: ۱۹۵)

موجودہ دور میں صحابہ کے اعمالِ منصوصہ کے اختیار کی صورت

ال آیات میں حضرات صحابہ کے چند اہم اعمال کا ذکر ہے اور ان پر ان کی سیمات کو تجویز مانے اور داخلہ جنت کا تاکید کے ساتھ وعدہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ اعمال حسب ذیل ہیں:
(۱) ہجرت جو صورۃُ اور حقیقتہ ہر اعتبار سے کامل تھی یعنی ترکِ وطن بھی کیا اور ترکِ معاصی و خطایا بھی کیا۔ حدیثِ پاک ہے **الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالَّذِنُوْبَ**۔

(۲) **أُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ** اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہ مجاہدہ غیر اختیاری ہے۔ یعنی کفار کی جانب سے اس قدر تنگ کیے گئے کہ چاروں ناچار ترکِ وطن کرنا پڑا اور مجاہدہ غیر اختیاری کو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے مجاہدہ اختیاری سے بعض وجوہ اور بعض حالات میں افضل لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجاہدہ اختیاری میں عجب و پندر کا خطرہ ہوتا ہے بر عکس غیر اختیاری میں اپنی مجبوری پر نظر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ مجاہدہ اختیاری میں اپنے نفس کے ارادہ و اختیار کا داخل ہوتا ہے اور غیر اختیاری میں خالص تکوینی اور غلبی تربیت کے اسرار شامل ہوتے ہیں۔

(۳) **وَأُوذُوا فِي سَيِّلٍ** اور میرے راستے میں اذیت دیئے گئے اس یاء نے تو تمام اذیتیں

لذیذ کر دیں اور اس ایذاء کا مقامِ رفت و صبح فرمادیا کہ جو ایذا کسپ دنیا کے لیے اور اغراضِ نفسانیہ کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے اور وہ ایذاء جو میرے لیے برداشت کرتے ہیں اس میں فرق کس قدر ہے بس میری نسبت یاء سے اس کو سمجھ سکتے ہو اور میری عظمت سے اس ایذاء کی قدر و منزلت کا اندازہ کرو۔

قیمتِ خود ہر دو عالم گفتئی

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

(۲) وَقُتْلُوا وَقُتْلُوا اور مقاتله کیا کفار سے اور قتل ہوئے اس کی راہ میں۔ خدا کے حکم سے کفار کی گردن مارنا اور خدا کی راہ میں شہید ہونا یہ عمل اگر صرف رضائے حق کے لیے ہو تو یہ مقاتله اور شہادت مقبول کہلاتی ہے ورنہ اگر نفس کے لیے ہے اور غیر حق کے لیے ہے تو عدمِ اخلاص کے سبب نامقبول ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ نفس سے جہاد کرنا (یعنی نیک اعمال) پر قائم رہنا اور نواہی سے (گناہوں سے) نفس کو روکنے کی کلفت کو برداشت کرنا یہ بھی شہادتِ باطنی معنوی ہے (خواہشاتِ نفسانیہ کا خون تبغ امیرِ الہی سے کرنے والے) یہ لوگ بھی قیامت کے دن امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔

ترے حکم کی تبغ سے ہوں میں بدل

شہادت نہیں میری ممنون خبر

ان اعمال کو جو حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں آج بھی ان کے اختیار کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ (۱) اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دے خود ہست نہ ہو تو اہل اللہ سے تدبیر دریافت کریں اور کسی اہل اللہ سے باضابطہ اصلاحی تعلق کے بغیر نفس کی اصلاح ناممکن ہے۔ پس ترکِ معاصی کے لیے گھر سے کسی اہل اللہ کے پاس جانا گویا کہ یہ بے گھر ہوا اللہ کے لیے اور هجران عن المعااصی والخطایا سے یہ والدین هاجرُوا کی صفات میں ان شاء اللہ تعالیٰ کھڑا کیا جائے گا۔ (۲) اپنے گھروں سے نکالے گئے اگر آپ کے گرد و پیشِ معاصی کے اڈے ہیں اور معاشرہ نہایت خراب ہے کہ آپ اور آپ کے بچے وہاں رہ کر دین پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو صاحبِ ماحول اور صالحِ بستی یا محلہ کی طرف ہجرت کرنا اس شرف کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ (۳) اُوذُوا فِي سَبِيلِي آپ بھی مجاہدات اور تکالیفِ احکامِ الہیہ کے بجالا نے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی تکالیف کو جھیلنے سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ (۴) مقاتله اور شہادت کا یہ شرف اگر جہاد بالکفار کا موقع ہاتھ نہ آئے تو نفس سے جہاد جو جہاد اکبر ہے کرتے رہیں اور نفس سے کشتی اڑتے رہیں۔ یہ تمام عمر کا جہاد ہے۔

کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں یہ حسرت کہ سر نہیں ہے
نہیں تو ہے اس سے بڑھ کے رونا کہ دل نہیں ہے جگر نہیں ہے

آیت نمبر ۲۲

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾

(سورة النساء، آیة: ۱)

صلدر حی کے حق دار کون ہیں؟

ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ صلد رحی کا بھی خاص خیال رکھو، آج کل اس معاملہ میں لوگوں میں بہت لاپرواہی پائی جاتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ارحامِ رحم سے ہے، عام لوگ اپنے ہی ماں باپ سے نیک سلوک کرنے کو صلد رحی سمجھتے ہیں لیکن علامہ آلوی السید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد یوی کے ماں باپ بھی صلد رحی یعنی خونی رشتہوں کے برابر ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح اپنے ماں باپ کا ادب لازم ہے اور جیسے اپنے ماں باپ اور دادا دادی کے حقوق ہوتے ہیں ایسے ہی یوی سے جو رشتہ بنتے ہیں ان کا حق بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے یعنی وہ بھی صلد رحی میں داخل ہو جاتے ہیں، اب تفسیر روح المعانی کی عبارت عرض کرتا ہوں:

﴿الْمُرَادُ بِالْأَرْحَامِ الْأَقْرَبَاءِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَمِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ﴾

(روح العانی، ج: ۲، ص: ۱۸۵، دار احیاء التراث العربي)

یعنی وہ رشتہ دار جو خاندانی نسب سے ہیں اور جو رشتہ یوی سے بنتے ہیں وہ صلد رحی میں شامل ہیں۔

(بے پردازی کی تباہ کاریاں)

آیت نمبر ۲۳

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(سورة النساء، آیة: ۱۹)

الله تعالیٰ نے قرآن میں بیویوں کے لیے جو یہ سفارش نازل فرمائی کہ وَعَاشِرُوْهُنَّ بالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آناً اگرچہ یہ کڑوی بات کریں گی کیونکہ آدمی عقل کی ہیں لیکن ان کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ بھلائی اور احسان کارکھنا۔
سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿الْمُرَأَةُ كَالضِّلْعِ إِنْ أَقْمَنَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ﴾

(صحیح البخاری، ج: ۲، باب المداراة مع النساء)

عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھالو گے اور اس کا ٹیڑھا پن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سفارش فرمانے سے معلوم ہوا کہ اگر بیویاں اہم نہ ہوتیں تو اتنا بڑا مالک ان کی سفارش کیوں نازل فرماتا کیونکہ دنیا میں بھی بڑا آدمی کسی اہم آدمی ہی کی سفارش کرتا ہے، اپنے پیاروں کی سفارش کرتا ہے، غیر پیارے کی سفارش نہیں کرتا۔ لیکا کوئی وزیر اعظم کسی گورنر یا کمشنر سے کہہ سکتا ہے کہ بھگلی پاڑے کے فلاں بھگنی کا خیال رکھنا، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ جواہم اور وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے اسی کے لیے سفارش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیویاں نہایت اہم اور وی آئی پی ہیں اسی لیے وَاعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی آیت نازل فرمادی کہ قیامت تک علی الاعلان میرے اس حکم کی تلاوت کی جائے گی، میرا نبی بھی تلاوت کرے گا، نبی کے صحابہ بھی تلاوت کریں گے، قیامت تک اولیاء اللہ اس حکم کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس سفارش کو میں قرآن پاک کا جز بnar ہوں تاکہ میری بندیوں کی اہمیت سب کو معلوم ہو جائے۔ جنت میں تو ان کی اہمیت ظاہر ہے کہ یہ حوروں سے زیادہ حسین کردی جائیں گی مگر دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں ان کی شخصیت نہایت اہم اور وی آئی پی تھی جب ہی تو ان کے لیے سفارش نازل فرمائی کیونکہ ان کے ہی پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے، ان ہی کے پیٹ سے اولیاء پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی نیکریاں اور کارخانے ہیں لہذا عورتوں کو حقارت سے مت دیکھو۔ ان کے ناخترے اور کڑوے پن کو برداشت کرو کہ کم عقل ہیں۔ اگر آپ کا ایک ہی بچہ ہو اور آپ کا بہت پیارا ہو لیکن کم عقل ہو تو بتائیے آپ اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے یا انہیں بلکہ مخلّه والوں سے بھی کہہ دیں گے کہ میرا بچہ کم عقل ہے اگر آپ کو کوئی نقصان کر دے تو مجھ سے ڈبل پیسے لے لینا لیکن میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا تو اللہ تعالیٰ کا اپنی بندیوں کے لیے سفارش کرنا اپنی بندیوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ لہذا یوی کو دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور آگے مصدر نازل فرمایا مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اور مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے جیسے زَيْدُ عَدْلٌ زَيْدِ عَدْلٍ یعنی انتہائی عادل ہے، مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً کے معنی ہوئے کہ یہ تمہارے لیے سرپا بمحبت اور سرپا رحمت ہیں۔ دنیا میں بھی رحمت ہیں کہ ان سے دور و فی ملتی ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہیں کہ اگر ان کے پیٹ سے کوئی ولی اللہ پیدا ہو گی تو تمہاری مغفرت کا سامان ہو گا۔ اس وقت قیامت کے دن ان بیویوں کی قدر معلوم ہو گی۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۱۸-۱۹)

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلانی سے پیش آؤ۔ علامہ آل اوی

نے روح المعانی میں پارہ نمبر ۲۷ سورہ حُمَّن کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوال کر کے قیامت تک عورتوں پر احسان کر گئیں۔ سرو ر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ! جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا وَبِمَا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں جو کیا ہے، شوہروں کی خدمت کی ہے، بچے جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

﴿بِصَلَاتِهِنَّ وَ صِيَامِهِنَّ وَ عِبَادَتِهِنَّ الْبَسَ اللهُ وَ جُو هُنَّ النُّورُ﴾

(تفسیر روح المعانی، ج: ۲، ص: ۱۲۶)

ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ اپنا نور ڈال دے گا جو مستراد ہوگا، اضافی ہوگا۔ حوروں کے اندر رودہ نور نہیں ہوگا۔ اللہ جس پر اپنا نور ڈال دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔

(حقوق النساء، صفحہ: ۶)

مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے آنکھ بند کر کے عرشِ اعظم پر نہیں رہتے تھے زمین والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ، ایک جہاد ختم ہوا، ابھی توارر کھنہ نہیں پائے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو گیا لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور پھر مبارک پر نسم نہ ہو۔ اپنی بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج چھوٹی ہوئی ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہم دوستوں میں خوب نہیں گے خوب لطیف سنائیں گے اور بیوی کے پاس جا کر سنبھیجیدہ بزرگ بن جائیں گے، منہ سکوڑے ہوئے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں۔ اور وہ بے چاری تجھب میں ہے کہ یا اللہ میں دن بھر منتظر تھی کہ رات میں آئے گا تو اپنے شوہر سے ہنسوں بولوں گی اور یہ پتھر کا بُت بنا ہوا ہے۔ یہ مسکرا ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے۔ رات بھرنو افل میں جا گنا اور بیوی سے بات نہ کرنا یہ صحابہ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑی عمر کے صحابی گئے۔ انہوں نے عبادت شروع کر دی تو ان بزرگ صحابی نے فرمایا:

﴿فَإِنْ لَا هُلْكَ عَلَيْكَ حَقًا وَ إِنْ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًا﴾

(ستن ابی داؤد، کتاب الصلوة، باب ما یؤمر به من القصد في الصلوة)

تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے میں تمہارا مہمان ہوں مجھ سے با تین کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اب اپنی بیوی کا حق ادا کرو اس بھی با تین کرو۔ (حقوق النساء صفحہ ۳۲-۳۳)

قرآن کریم کی رو سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے، اپنی عصمت اور مال کی حفاظت جو امورِ خانہ داری میں سب سے اہم ہیں ان کے بجالانے میں خاوند کے سامنے اور پیچھے کا حال بالکل برابر رکھے، یہ نہیں کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اہتمام کرے اور اس کی عدم موجودگی میں لا پرواہی بر تے۔ ایک حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔“ (معارف القرآن)

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار اور فرمانبردار ہو اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں۔ (بحرِ محیط)، (حقوق النساء، صفحہ: ۵۶)

۲۲ آیت نمبر

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيمَنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فِيمَنْ نَفْسِكَ﴾

(سورة النساء، آیہ: ۷۹)

تم کو جتنی نیکیاں مل رہی ہیں خواہ حج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت ہو یہ سب اللہ کی عطا ہے اور تم نے جتنے گناہ اور بُرا ایساں کی ہیں یہ تمہارے نفس کی بدمعاشی اور شرارت ہے کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے اور الف لام السوء کا اسم جنس کا ہے یعنی وقتِ نزول قرآن سے لے کر گناہ کے جتنے انواع قیامت تک ایجاد ہوں گے سب اس السوء میں شامل ہیں کیونکہ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے الٰ مَارَحَمَ رَبِّي مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا استثنی نہیں ہے، یہ مخلوق کا استثنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا استثنی ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں قبول فرمائیں اس کو اس کا نفس بھی خراب نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے استثنی کے سامنے نفس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں لاَ مَا رَحْمَ رَبِّیْ میں جو ما ہے یہ مصدر یہ ظرفیہ زمانیہ ہے الہذا ترجمہ ہوا ای فی وَقْتِ رَحْمَةٍ رَبِّیْ یعنی جب تک تمہارے رب کی رحمت کا سایہ رہے گا تمہارا نفس بھی تم کو بر باد نہیں کر سکتا۔

حقیقت میں سب کچھ اختیار آپ کا ہے، وجود آپ کا ہی ہے، ہمارا وجود فانی ہے اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کو وجود کہا جائے جیسے سورج ستاروں سے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا وجود ہے مگر مثل عدم کے ہے۔ ہماری ہستیاں حق تعالیٰ کی ہستی کے فیضان سے ہیں، ہماری ذات خود سے قائم نہیں بلکہ ہم حق تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے فیضان صفت حی اور فیضان صفت قیوم سے قائم ہیں۔ جس دن صفت حی اور صفت قیوم کے طہور کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے اس دن آسمان گر پڑے گا، سورج اور چاند گر پڑیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان دونا موالی حی اور قیوم سے سارا عالم قائم ہے۔ تو مولانا کا اشارہ یہی ہے کہ ہمارا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ہماری گویائی، بینائی، شنوائی سب آپ کی مدد سے ہے ورنہ حقیقتاً گویائی آپ کی گویائی ہے، شنوائی آپ کی شنوائی ہے، وجود آپ کا وجود ہے کہ ازال سے ابد تک ہے۔ آپ قدیم ہیں، غیر فانی ہیں، قادر مطلق ہیں، ہم حادث اور فانی ہیں، ضعیف ہیں الہذا ہمارا بولنا کوئی بولنا ہے، ہمارا سننا کوئی سننا ہے، ہمارا وجود کوئی وجود ہے کہ ابھی ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ابھی روح نکل جائے تو خاموشی ہے، ساعت بند اور بینائی ختم۔ ہم بالکل لاشے ہیں، آپ کے تابع ہیں اور انتہائی بے کس ہیں۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل بے کس ہیں تو جزا اور سزا کیوں ہے؟ جیسے ایک شخص ایسا ہی ایک مضمون پڑھ کر ایک باغ میں گھس گیا اور انگور کھانے لگا اور جب باغ کا مالک آیا تو اس نے پوچھا کہ میرے درخت کے انگور کیوں کھاتا ہے؟ اور یہ سب کیوں کھالیے؟ یہ سب میرے درخت کے ہیں تو اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، زمین بھی خدا کی، آسمان بھی خدا کا، میں بھی خدا کا اور درخت بھی خدا کے، انگور بھی خدا کے اور سب بھی خدا کا۔ خبردار جو مجھے کھانے سے منع کیا تو مالک باغ نے کہا اچھی بات ہے۔ ابھی بتاتا ہوں اور ایک رسے لے آیا اور اس سے اس کو خوب باندھ دیا اور ایک ڈنڈے سے اس کی پیانی شروع کی تو وہ چلانے لگا کہ کیوں مارتا ہے؟ تو مالک باغ نے جواب دیا کہ میں بھی خدا کا، تو بھی خدا کا، رسہ بھی خدا کا، اور ڈنڈا بھی خدا کا خبردار جو چلایا تو اس وقت اس نے کہا اختیار است اختیار است اختیار میں تو بہ کرتا ہوں، میں بجور نہیں ہوں، مجھے اختیار ہے اختیار ہے۔ ماہمہ لاشیم سے مولانا فرقہ جریہ کی تائید نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بے کسی اور عاجزی ظاہر کر کے حق تعالیٰ کی رحمت سے درخواست کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے اور مندرجہ بالا واقع بھی مشنوی کا ہے جس میں فرقہ جریہ کا رد ہے۔ (فناں روی، ۳۲۳-۳۲۲)

اے خدا! ہم مجبور نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے کو آپ کے حوالہ کیا ہے کہ ہم لاشی ہیں اور آپ ہی

سب کچھ ہیں، یہ آپ کی عظمت شان کا اعتراف اور اپنی حکمرات و عاجزی و بے کسی پیش کی ہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کی رغبت اور سجدوں کی لذت میں ترقی عطا فرمائیں۔ یہ دراصل لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ترجمہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں حدیث نقل کی کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدریٰ مَا تَفَسِّيْرُهَا یعنی اے عبداللہ ابن مسعود! اس لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے معنی صحیح ہے؟ عرض کیا اللہُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ترجمہ سن لو۔ سبحان اللہ! نبی کے الفاظ ہیں اور نبی کے الفاظِ نبوت کی شرح الفاظِ نبوت سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ لا حَوْلَ کے معنی ہیں لا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَصْمَةِ اللَّهِ یعنی ہم اللہ کی محصیت سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ خود اللہ حفاظت نہ فرمائے، اللہ کی حفاظت سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں وَ لَا قُوَّةَ إِلَى وَ لَا طَاقَةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعُونِ اللَّهِ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔ زور چھوڑ دو اور آہ وزاری اختیار کرو۔ اللہ کا رحم آئے گا آہ وزاری سے، یہ زور سے نہیں آئے گا کہ میں بُرَأْتُمْ ہوں، مقدس ہوں، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اگر دعویٰ کرو گے تو رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہذا زور چھوڑ دو اور زاری اختیار کرو تاکہ اللہ کا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ مل جائے اور نفس کے شر سے خدا اپنی حفاظت میں قبول فرمائے۔

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ میں جو رحم ہے جس کے صدقہ میں نقوسِ انسانیہ، حرکاتِ نفسانیہ اور آثارِ شیطانیہ سے محفوظ رہتے ہیں وہ رحم اگر لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی گویا تفسیر فرمائی اور اس رحم کو مانگنے کو جو ضمون عطا فرمایا وہ گویا حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

﴿وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(سورة الحشر، آیہ: ۷)

جو ہمارا نبی تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو یعنی جو حکم دے اس کو سر آنکھوں پر رکھو اور جس بات سے روک دے اس سے رُک جاؤ گویا اس آیت میں مذکورہ رحمت کو مانگنے کے لیے طریقہ اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بزبانِ نبوت عطا فرمایا کہ اگر تم إِلَّا کے بعد مَا رَحِمَ رَبِّيْ چاہتے ہو اور نفس کی بدمعاشیوں سے تحفظ چاہتے ہو تو یہ دعا مانگو:

﴿بِاَحَدٍ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغْيِثُ اَصْلَحْ لِي شَانِيْ كُلَّهُ﴾

وَلَا تَكُلُّنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ ﴿٢﴾

(السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول اذا امسى، ج: ۲، ص: ۲۷)

اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ **اَصْلُحْ لِي شَانِي** میری ہر حالت کو درست فرمادیجئے، میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی نافرمانی میں بتلانہ ہو، نہ کان گانا سنے، نہ آنکھ حسینوں کو دیکھے، نہ ناک خوشبوئے حرام سو نگئے، نہ زبان غیبت کرے، نہ ہونٹ حرام بوسے لیں، غرض سر سے پیر تک ہر جزاً آپ کافر مار بردار ہو اور **كُلُّهُ تَأْكِيدٌ** ہے یعنی میری کوئی بھی حالت ایسی نہ رہنے پائے جو آپ کو پسند نہ ہو، میری ہر ناپسندیدہ حالت کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال لیجئے، میری ہر ادائے بندگی کو وفاۓ بندگی سے مشرف فرمادیجئے کہ سر سے پیر تک کھیں بھی بے وفائی کا داع میرے اوپر نہ لگنے پائے اور میں سراپا آپ کا ہو جاؤں۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا
انہیں کا انہیں کا ہوا جارہا ہوں

وَلَا تَكُلُّنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ اور اے اللہ! جس نفس کو آپ نے امارہ بالسوء فرمایا ہے مجھے پلک جھپکنے بھر کو اس دشمن کے سپرد نہ فرمائیے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی نفس امارہ بالسوء ہے کیونکہ کسی دشمن کو ہر لمحہ ہر وقت یہ استطاعت نہیں کہ پلک جھپکنے بھر میں ہمیشہ ہی وہ اپنے مقابل کو ہلاک کر دے لیکن یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ اس میں یہ استطاعت ہے کہ پلک جھپکنے میں یہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفۃ عین اس کے حوالہ ہونے سے پناہ مانگی ہے کہ ایک پل میں یہ مومن کو کافر، ولی کوفاسق اور انسان کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل بنادیتا ہے۔

اور فرقہ جبریہ کا عقیدہ جبر کہ انسان مجبور محض ہے جو موجب ہے کامیابی و مجدوار خمود کا یعنی بے عملی اور اعمال میں ٹھنڈا اور مست پڑ جانے کا۔ اے خدا اس فیض کے جرا ثیم سے ہماری حفاظت فرمائیں، ایسی گمراہی کو ہمارے اندر نہ آنے دیجئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں بالکل ست اور ٹھنڈے ہو جائیں اور بے عملی اور گمراہی کا شکار ہو کر خیسر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ہو جائیں۔ یہ عقیدہ جبرا تنا گمراہ کن ہے کہ انسان کو اعمال سے بیزار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں، مسجد جب جائیں گے جب اللہ پاک بلا کیں گے لیکن اس سے کہو کہ روزی کمانے کے لیے بازار کیوں جاتے ہو، گھر پر پڑے رہو جب اللہ میاں بلا کیں تب جانا۔ اور کھانا کیوں ٹھونستے ہو، جب اللہ میاں کھلائیں کھالینا۔ دین ہی کے کاموں میں مجبور ہو، ذرا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور ہو جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ و نماز روزہ اللہ پڑا غفور رحیم ہے لیکن اللہ تو رزاق بھی ہے پھر دو کان کیوں کھولتے ہو، سارا دن گھر میں پڑے رہو، رزق خود

آجائے گا۔ وہاں تو بڑے چست ہو، یہ حیلہ بازیاں اور حیلہ سازیاں صرف دین ہی میں ہیں۔ دنیا کے کاموں میں کیوں حیلہ بازی نہیں کرتے۔

اے کہ تو دنیا میں کتنا چست ہے
دین میں لیکن تو کتنا سست ہے

(فخار رومی، ۳۲۷-۳۳۲)

آیت نمبر ۲۵

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِبُهُمْ وَيُحْبِبُنَاهُ أَذْلَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزَةً عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا تِيمَ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهِمْ﴾

(سورة المائدۃ، آیۃ: ۵۲)

کفار سے دوستی کا انجام ارتدا دھے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب میں کہ مضر صحبوں سے گمراہی کے جراشیم پیدا ہوتے ہیں

ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلَيَاءَ﴾

(سورة المائدۃ، آیۃ: ۵۱)

یہودی اور عیسائی سے تجارت کر سکتے ہو، لیں دین کر سکتے ہو لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے، ان کی محبت دل میں نہ ہو اور اگر دل سے محبت کی تو تمہارا ایمان ارتدا د سے تبدیل ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلامت نہ رہے گا۔

کفار سے معاملات جائز، موالات حرام

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہود یوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو۔ علامہ آلوی نے اس کی تفسیر کی لان مُوَالَةُ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى تُوْرَثُ الْإِرْتَدَادُ یعنی یہود و نصاریٰ کی دوستی تمہارے قلب میں مرتد و کافر ہونے کا ذوق پیدا کر دے گی لہذا ان سے تجارت ولین دین تو جائز ہے لیکن ان سے دوستی و مودت رکھنا، ہر وقت ساتھ کھانا پینا اور دوستی کے تعلقات پیدا کرنا جائز نہیں قلب میں ان کی محبت نہ آئی چاہیے۔ (علامات اہل محبت، صفحہ: ۹-۱۰)

سلوک کا ایک اہم مسئلہ

تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے گا تو

اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میں اصل میں یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اللہ اپنی محبت دے دے، یا کوئی کرامت یا کوئی نعمت عطا فرمادے تو اس کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے کہ اتنے زمانہ تک ہم نے شیخ کی صحبت اٹھائی، اتنے زمانے ہم نے مختین کیس تب اللہ میاں نے ہم کو یہ دیا۔ اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات اور محنتوں کی طرف نہ کرو بلکہ ان کو عنایاتِ الہیہ کا شترہ سمجھو۔

عنایاتِ الہیہ کو شرہ مجاہدات سمجھنا ناشکری ہے

یہ ایک مسئلہ حضرت نے لکھا جس کی عربی عبارت پیش ہے تاکہ علماء حضرات کو لطف آجائے:

﴿فَإِنْ بَعْضَ الْمُغْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَالسَّالِكِينَ يُنْسِبُونَ كَمَا لَأَتَهُمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ وَهَذَا عَيْنُ الْكُفُّرَانِ﴾

یعنی بعض نادان صوفی اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات وفضل کی طرف نہیں کرتا یہ سخت ناشکری ہے۔ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کی تمام مہربانیوں کا سبب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی رحمت کا سبب آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم کا سبب آپ کا کرم ہے، ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے جو سبب بن سکے آپ کے کرم کا۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں عطا فرمائی جس سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ بندہ روزے رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، تہجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو اپنے اعمال کی طرف نسبت نہ کرے، نیکی کر دیا میں ڈال، اپنی نیکیوں کو بھول جائے، جو کچھ ملے اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے۔

قرآن پاک سے استدلال

اس مثال سے پہلے ایک استدلال پیش کرتا ہوں جو میرے رب نے ابھی ابھی مجھے عطا فرمایا۔

قرآن شریف کی آیت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی کہ مثال سے پہلے تم میرے کلام سے ثبوت پیش کرو:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾

(سورہ النساء، آیہ: ۷۹)

تجھ کو جو نیکی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجوہ سے برائی صادر ہو وہ تیرے نفس کی شرارت اور بدمعاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں کہ دنیا میں تم کو جو بھلائی ملے، اولاد ملے، روزی ملے، علم ملے، تقریر کرنی آجائے کوئی بھی نعمت ملے فِمَنِ اللَّهُوَ اللَّهُ کی عطا ہے۔ اگر ہم کو اپنے عمل کی طرف نسبت کرنے کی ہدایت

ہوتی تو اللہ فرماتے کہ تم اپنی عبادات کی طرف نسبت کرو کہ تم نے یہ کیا تو میں نے یہ دیا لیکن یہاں میں نے تم نے کچھ نہیں ہے فِیْمَ اللَّهِ سُبَّ اللَّهُکی عطا ہے اور جب کوئی تم کو براٹی پہنچ تو وہ تمہارے نفس کی شرارت کی سزا ہے۔

حُسْنِ اتفاق و سوء اتفاق کفار و ملحدہ کی ایجاد

نیکیوں کو حسن اتفاق مت کہوا اور برائیوں کو سوء اتفاق مت کہوا۔ یہ الفاظ نجپریوں نے، کافروں نے، ملدوں نے جاری کیے ہیں۔ کہ اگر کوئی نعمت ملی تو کہہ دیا کہ صاحب آج حسن اتفاق سے مجھنوکری مل گئی۔ اللہ کا نام بھی نہیں لیا کہ اللہ کے کرم سے مجھے یہ نوکری ملی۔ نیکیوں کو حسن اتفاق نے لوٹ لیا اور برائیوں کو سوء اتفاق نے لوٹ لیا کہ سوء اتفاق سے آج گرنے، چوٹ لگ گئی، ایکسٹینٹ ہو گیا۔ نہیں کہا کہ یہ میری شامت اعمال اور نالائقی کی سزا تھی۔

جزاء بھی دراصل عطا ہے

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری فرماتے تھے کہ جنت بھی جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ ہمارے عمل کا بدلہ نہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی اور دلیل بھی میرے شیخ نے قرآن پاک سے تیسی پیش کی کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو جنت دوں گا تو جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ یہ میری طرف سے بدلہ ہوگا لیکن یہ بدلہ تمہارے عمل کا نہیں ہو گا یہ بھی میری عطا ہوگی جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ کے بعد عَطَاءً حِسَابًا نازل کر دیا کہ یہ جزا بھی دراصل میری عطا ہے، بخشش ہے۔

جنت کو جزا عمل فرمانا بھی رحمت ہے اور اس کی عجیب مثال

میرے شیخ فرماتے تھے کہ آخرت میں نیک عمل کا بدل جو ملے گا، جنت ملے گی یہ بھی حقیقت میں ان کی عطا ہے لیکن جزا کیوں فرمایا؟ یہ مالک تعالیٰ شانہ کی غایت کرم اور زبردست مہربانی ہے۔ جیسے کسی بچے کے ہاتھ کو باپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کوئی خط لکھوادے اور بیٹے سے کہو کہ واہ بیٹے! تم نے بڑا اچھا خط لکھا حالانکہ وہ تو بابا نے خود لکھوایا ہے لیکن بچے کی طرف نسبت کر رہا ہے، شabaشی دے رہا ہے کہ شabaش بیٹا تم نے بڑا اچھا خط لکھ دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نماز روزہ ہو رہا ہے لیکن ہمارا دل خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ جنت تمہارے اعمال کی جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے جَزَاءَ مِنْ رَبِّکَ لیکن اے میرے پیارے بندو جَزَاءَ کہہ رہا ہوں تمہاری شabaشی کے لیے مگر حقیقت میں ہے یہ عطا ہے، میرا جزا کہنا بھی عطا ہے، تمہارے عمل کے بدلہ میں میرا یہ لفظ جزا بھی عطا ہے تمہارا دل خوش کرنے کے لیے۔ میرے شیخ کے علوم کو ذرا دیکھئے جن کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملک تھانوی نے فرمایا تھا کہ آپ

حامِلِ علومِ نبوت بھی ہیں اور حاملِ علومِ ولایت بھی ہیں۔ حضرت پر علومِ الہام ہوتے تھے۔ کیا علمِ عظیم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کو جزاء دیں گے وہ سب اللہ کی عطااء ہے۔

حضرت حکیمِ الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف اور مسئلہ سلوک کو کہ بعض نادان صوفی اللہ پاک کے انعامات کو اپنے مجاہدات کی طرف نسبت کرتے ہیں میں قرآنِ پاک سے مدلل کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآنِ پاک کی دلیل سے یا حدیثِ پاک کی دلیل سے ثابت کر دوں۔ حضرت حکیمِ الامت نے اس مسئلہ سلوک کے متعلق وہاں کوئی دلیل نہیں لکھی۔ یہی لکھا جو میں نے پیش کیا۔ اب دلیل پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ يَوْمَ تَدْعُ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ جُواہِرِ اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو ہمیں ایسے خبیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسلام سے جتنے لوگ چاہو بھاگ جاؤ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کے۔ لہذا اگر تم مرتد ہوتے ہو تو فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُوَّمٍ تَوْمِیں جلد سے جدا ایک قوم پیدا کر دوں گا۔ فِ دَخْلِ كَرْدِيَا فِسْوَف جس کے معنی ہیں کہ بلا تاخیر میں ایک ایسی قوم پیدا کر دوں گا یُحِبُّهُمْ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔

يُحِبُّونَهُ پر يُحِبُّهُمْ کی تقدیم کی ایک حکمت

حضرت ثابت بنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، خادم سے کہا کہ تسبیح لاو۔ پھر تسبیح پڑھنے لگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یاد فرمار ہے ہیں۔ خادم نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یاد فرمار ہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرْ كُمْ ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے۔ لہذا میں تو ان کو یاد کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہ مجھے یاد کریں گے۔ قرآنِ پاک غلط نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِذْ كُرُونَى تَمْ ہم کو یاد کرو اپنی اطاعت سے، ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے یعنی فَإِذْ كُرُونَى بِالْإِطَاعَةِ أَذْكُرْ كُمْ بِالْعِنَايَةِ تو جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھ کو یاد فرمائے رہے ہیں۔

تقدیم يُحِبُّهُمْ کی دوسری حکمت از تفسیر روح المعانی

اب علامہ آلوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنئے۔ اختر کا جو جواب آپ نے سنایا بھی ان ہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ علامہ آلوتی فرماتے ہیں انَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ عِبَادِهِ اللَّهَ تَعَالَى نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر مقدم کیا، يُحِبُّهُمْ فرما کر اپنی محبت کو پہلے بیان کیا اور يُحِبُّونَہُ میں بندوں کی محبت کو بعد میں بیان کیا۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سے محبت

کرنے والے بندے سمجھ جائیں، یقین کر لیں، ایمان لائیں کہ إِنَّهُمْ يُحْبُّونَ رَبَّهُمْ یہ لوگ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں بِفَيْضَانِ مَحَبَّةٍ رَبِّهِمْ اپنے رب کی محبت کے فیضان سے پونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر رہے ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی محبت کا فیضان ہے اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ شیطان ہے۔ جب اللہ کی محبت کی اور عبادت کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ ماں کی محبت کا فیضان ہے۔ (علامات اہل محبت، صفحہ ۲۷-۲۸)

آگے فرمایا ذالِکَ فَضْلُ اللَّهِ یہ میراً فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے رجوع جسمانی بھی ہے اور اللہ کے فضل سے رجوع باطنی بھی ہے۔ لہذا محبت میں جب ترقی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ یہ ماں کا فضل ہے۔ (محبوب الہی بنے کاظمیہ، صفحہ ۲۶-۲۷)

اہلِ محبت کی تین علامات

اب اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی علامات بیان فرماتے ہیں کہ تین علامتیں جس میں دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ یہ میرے عاشقوں میں سے ہے۔

پہلی علامت..... مومنین کے ساتھ تواضع و فنا بیت نفس

اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے کیونکہ میں جس کے دل میں آتا ہوں اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے تواضع کے ساتھ ملتا ہے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے کو ہر مسلمان سے مکر سمجھتا ہے، دل سے مسلمانوں کا اکرام کرتا ہے۔

اللہ کے عاشقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، مسلمانوں سے مت کر لتے ہیں، دل میں ہر مسلمان سے خود کو مکر سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، مومنین کا اکرام میرے لیے باعثِ عزت ہے۔

بوقتِ مقابلہ اہلِ محبت کی کفار پر شدت

ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِینَ کافروں پر سخت ہیں، میرے دشمنوں کے سامنے نفس کی فنا بیت نہیں دکھاتے مثلاً ہندوستان سے جنگ ہو رہی ہوا اور پاکستانی فوج مسلمان بارڈر پر ہندوؤں سے کہے کہ اے ہندو بھائیو! ناچیز حقیر فقیر عبد القدر آپ سے لڑنے آیا ہے۔ وہاں ایسا کہنا حرام ہے، وہاں اکڑ کر جاؤ۔ بھائی وائی کچھ موت کہو۔ کہہ دو کہ اے کافرو! آج ہم تمہیں کلمہ کی گرمی اور ایمان کی طاقت دکھائیں گے، تم اگر سیر ہو تو ہم سوا سیر ہیں۔

یہ دونوں ملاکِ اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان کی ہے معطوف علیہ معطوف سے جملہ معطوفہ بن کر

ایک علامت ہوئی اور دوسرا علامت کیا ہے؟ (علامات اہل محبت، صفحہ ۲۱-۲۳)

اہلِ محبت کی دوسری علامت.....یُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

یُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں اور یہ مجاہدہ

چار قسم کا ہے جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے:

(۱) رضائے حق کی تلاش میں تکلیف اٹھانے والے:

الَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَةَ فِي اِبْتِغَاءِ مَرْضَانَنَا جَوَاهِمَ كَوْخُوشَ كَرْنَے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے کہ اس طیڈی کو حسین لڑکی کو یا حسین لڑکے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے پہچانو گے یہ نیراعاشق ہے؟ میراعاشق ہے تو میری خوشی کو مقدم کرے گا اپنی خوشی کا خون کر دے گا پھر اس کے دل کے سرخ اُنف پر میں اپنے قرب کا سورج طلوع کرتا ہوں جس کی مستی کے سامنے دنیا بھر کی لیلاوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

تو مجاہدہ نمبر ایہ ہے کہ اہل محبت جب اپنی خوشیوں میں اور اللہ کی خوشیوں میں تصادم دیکھتے ہیں تو اللہ کی خوشی پر عمل کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا خون کر دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ دل تو چاہتا ہے کہ اس حسین اور نمکین یا اس حسینہ اور نمکینہ کو دیکھ لیں مگر اے اللہ آپ کی اجازت نہیں ہے آپ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، لہذا میں آپ کو خوش کرتا ہوں اور اپنے نفس دشمن کو ناخوش کرتا ہوں اور زبان حال سے یہ شعر پڑھتا ہو انظر پھیر لیتا ہے۔

بہت گو والے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں
تری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں
آرزو کیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے عاشق ہیں اور میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کو کیسے پہچانو گے؟ علامت یہ ہے کہ جن سے مجبور کرتا ہوں اس کو غیروں سے دل نہیں لگانے دیتا۔ یہ علامت ہے کہ میں ان بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ آپ بتائیے آپ اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں؟ تو جو اللہ کا ہو گیا، جس کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو حسینوں کے سپرد نہیں کریں گے۔ اگر وہ خود بھی چاہے گا تو نہیں جا سکتا، غیر کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشی کو آگے رکھتے ہیں، اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں۔

(۲) دین کی نصرت میں مشقت اٹھانے والے:

الَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَةَ فِي نُصْرَةِ دِينِنَا اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کو پھیلانے کی مشقت کو اٹھاتے ہیں چاہے مال سے ہو یا علم سے ہو، علماء کو باہر ملکوں میں اپنا مال خرچ کر کے اشاعت دین کے لیے بلا تے ہیں اور عالم دین و عز و نصیحت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کرتا ہے۔ عالم دین اور اس کے ساتھ رہنے والے قیامت کے دن اسی قافلہ میں، دین کے پھیلانے والوں میں شامل ہوں گے۔

(۳) احکامِ الہبیہ کی تعمیل میں مجاہدہ کرنے والے:

اور اللہ کے عاشقوں کی تیسری علامت ہے الَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَةَ فِي امْتِيشَالِ اوَامِرِنَا جو لوگ اللہ کے احکام بجالانے میں پس و پیش نہیں کرتے، اگر مگر نہیں کرتے۔

مرضیٰ تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے

پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

وہ یوں نہیں کہتے کہ اگر ڈاڑھی رکھ لوں گا تو مگر کیا ہو گا۔ ارے میاں اگر نے شادی کی مگر سے اس سے جو لوڑ کا پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کہ۔ اگر مگر نہ کجھے ورنہ مرنے کے بعد کہنا پڑے گا کہ کاش کہ ڈاڑھی رکھ کر مرتے۔ جلدی کجھے، درینہ کجھے۔

نہ جانے بلے پیا کس گھڑی

تو رہ جائے تکنی کھڑی کی کھڑی

اور ڈاڑھی رکھ کر گال کھر پنے کی تکلیف سے نجات حاصل کیجھے، عیش کیجھے نہ بلید کی ضرورت نگال کھر پنے کی، ورنہ سنگل کوٹ، ڈبل کوٹ اور کھوٹی اکھاڑ کوٹ ایک مصیبت ہے، ڈاڑھی سے آدمی قلندر لگتا اور ڈاڑھی منڈانے سے انسان بندر معلوم ہوتا ہے اور یوئی بھی اس سے دعا نہیں کراتی۔ کہتی ہے کہ یہ تو "ٹٹ فارٹیٹ" ہے "جیسی میں ہوں ویسے یہ ہے۔ دونوں کے گال برابر۔ ڈاڑھی رکھ لیجھے پھر یوئی کہے گی کہ میاں دعا کرنا۔ دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں اور اللہ والوں کی جماعت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔

(۴) اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے والے:

اور اللہ کے عاشقوں کی چوخی علامت کیا ہے؟ الَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَةَ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَنْ مَنَاهِنَا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ (علامات اہل محبت، صفحہ: ۲۲۳-۲۲۴)

اہلِ محبت کی تیسری علامت..... مخلوق کی ملامت کا خوف نہ ہونا
اللہ کے عاشقوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق کی ملامت کا خوف، دل سے نکل جائے۔ کوئی
کچھ کہہ آپ وہی کام کیجئے جس سے اللہ خوش ہو ساری دنیا آپ پر ہنسے لیکن آپ کو کسی کی پروانہ ہوان شاء اللہ
آپ ہی کا درجہ بلند ہوگا۔ (علامات اہلِ محبت، صفحہ ۳۱)

لہذا اللہ تعالیٰ یہ تینوں علامتیں بیان فرماتا ہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا، جس نے چاروں
قسم کے مجاہدات کیے اور میری راہ میں تکلیف اٹھائی اور جس نے اپنے قلب میں سارے عالم کی ملامت
سے بے خوف محسوس کی یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ ذلیک فَضْلُ اللَّهِ یہ اللَّهُ کی مہربانی ہے یُوْتَیْهُ مَنْ
يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لہذا اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ملیں، جو
کمالات عطا ہوئے یہی کہے کہ مالک یا آپ کا فضل، آپ کی مہربانی ہے میرا کوئی کمال نہیں۔ آپ کی عطا
ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے اور فضل محتاج قانون نہیں ہوتا جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث
میں ہے کہ وہ شخص جس نے سو قتل کیے تھے اور جو توہبہ کے ارادہ سے چلا لیکن راستہ میں اس کا انتقال ہو گیا اور
وارثین سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ روح نکالنے میں رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں
اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی پیاس کرو۔ اگر گناہ کی زمین قریب ہے تو عذاب کے فرشتے
اس کی روح لے جائیں اور توہبہ کی زمین اور نیک بندوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں
جب فرشتوں نے زمین کی پیاس کی تو اللہ نے گناہ کی زمین کو دور کر دیا اور اللہ والوں کی زمین کو قریب
کر دیا۔ وہ زمین دراصل قریب نہیں تھی اللہ نے حکم دیدیا تَقْرُبَیْ اے زمین تو قریب ہو جا۔

فضل قانون سے بالاتر ہے

ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ پیاس کا حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل تھا
اور زمین کو قریب کر دینا یا اس کا فضل تھا اور فضل پابند قانون نہیں ہوتا جیسے آپ دو مزدور لائے اور دونوں کو سو
روپے یومیہ پر کھا۔ شام کو آپ نے دونوں کو حسب وعدہ سور و پے دیئے لیکن ایک مزدور سے چپکے سے کہا
کہ قانون سے تم سور و پے کے مستحق تھے جو ہم نے تم کو ادا کر دیئے لیکن میں مکہ شریف سے ایک گھڑی لا یا تھا
وہ مہربانی کے طور پر تم کو دے رہا ہوں۔ مہربانی اور فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمادیں اگرچہ قانوناً ہم جہنم کے لائق
ہوں، سزا کے لائق ہوں لیکن اے خدا اپنے فضل کے صدقہ میں ہم سب کو بلا استحقاق جنتی ہونا مقدر فرمادیں
دے اور بے حساب مغفرت فرمادے۔

بس آج میرا مقصود یہی تھا کہ میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ کے مسئلہ سلوک کو قرآن پاک کی دلیل سے ثابت کروں کہ حضرت نے جو کچھ فرمایا کہ اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کا شرہ نہ سمجھنا چاہیے اس کی دلیل قرآن پاک سے یہ ہے ذلک فضلُ اللہُ یُوتیہ مَنْ يَشَاءُ جَكَبَهُ جَوَلُگَ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے پستی و خاکساری اختیار کرتے ہیں اور کافروں کے اوپر سخت ہیں اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور سارے جہان کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے یا انکا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ میرا کرم، میری مہربانی، میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيِّمٌ۔

واسعُ اور علیمُ کا ربط

یہاں یہ دو اسم واسعُ اور علیمُ کیوں نازل فرمائے؟ علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ واسعُ کے معنی ہیں کثیر الفضل۔ واسعُ اس لیے نازل کیا کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سوچیں کہ جب فضل سب پر تقسیم ہو جائے گا تو ہم کو کہاں سے اللہ میاں اتنا فضل دیں گے۔ اسی لیے یہاں واسعُ نازل فرمایا کہ میرا فضل تھوڑا سا نہیں ہے، میں کثیر الفضل ہوں۔ میرے پاس فضل کا اتنا خزانہ ہے کہ لا یَخَافُ نَفَادَ مَا عِنْدَهُ میں اللہ ہوں اور مجھے اپنے فضل کے ختم ہونے کا کوئی اندر یشہ نہیں۔ یہ عبارت روح المعانی کی ہے۔ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ علیمُ کی تفسیر کی ای کثیرُ الفضل لا یَخَافُ نَفَادَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْفَضْلِ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا فضل ہے کہ اللہ کبھی اپنے فضل کے ختم ہونے کا اندر یشہ نہیں کرتا، غیر محدود فضل ہے کہ اگر ساری کائنات پر تقسیم کردے تو بھی کمی نہیں ہوگی۔

اور علیمُ کے معنی کیا ہیں ای علیمُ باہلہ و مَحَلِّہ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے فضل کے کون لوگ اہل ہیں اور کس محل میں مجھ کو اپنا فضل کرنا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل کا اہل بھی بنادے اور محل بھی بنادے۔ جب وہ فضل کرتا ہے تو خود ہی سب کچھ بنادیتا ہے۔

حسن کا انتظام ہوتا ہے

عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

آخری آیت وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيِّمٌ کی تشریح کے لیے کہ اللہ کے فضل کا کون اہل اور محل ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سن لیجئے سب مطلب سمجھ میں آجائے گا۔ وہ کیا شعر ہے۔

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں

گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

آیت شریفہ کی شرح بعنوان دگر

﴿مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِمُهُمْ وَيُحْبُّونَهُ﴾
(سورۃ المائدۃ، آیۃ: ۵۲)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایاً **یُجْهُونَهُ** کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں:

﴿قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مَحَيَّةَ عَلَى مَحَيَّةِ عِبَادِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُجْهُونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَيَّةِ رَبِّهِمْ﴾
اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میرے ساتھ محبت ہے یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن پاک اور ساری حدیث پاک تصوف ہی تصوف ہے۔ تصوف نام ہے محبت کا اور قرآن و حدیث میں محبت ہی محبت ہے۔ منکر میں تصوف دراصل وہی ہیں جو محبت سے خالی ہیں۔ ظالموں کو اللہ والوں کی غلامی کرنے میں حصہ جاہ مانع ہے کہ اس راستے میں تو چھوٹا بننا پڑے گا، کسی کو اپنا بڑا بنا پڑے گا لہذا حصہ جاہ مانع ہے کہ میں بڑا بنا رہوں، لوگ مجھے سلام کریں حالانکہ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے مٹا دیتے تو مخلوق بھی ان کو دل سے چاہتی مخلوق کے دل میں اللدان کی عزت ڈال دیتا۔

تو **يُجْهُمُ وَيُحْبُّونَهُ** میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نازنہ کریں کیونکہ یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے اور اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں، مختلف با خلاق اللہ ہوتے ہیں، واسطے ظہور رحمت ہوتے ہیں لہذا پہلے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں جس کے فیض سے مریدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے شخ نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ شخ نے کہا کہ یہ میری ہی محبت کا فیض ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں تو فرمایا اچھا! اور حضرت نے اپنی توجہ ہٹالی۔ پھر چچہ مہینے تک وہ شخص نہیں آیا جکہ روزانہ آتا تھا۔ پھر شخ نے توجہ ڈالی اور محبت سے اس کو یاد کیا تو پھر آگئے تو فرمایا کہ آپ کی محبت کہاں گئی، چچہ مہینے کہاں رہے؟ وہ مرید نادم ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یقین آگیا کہ میری محبت آپ ہی کی محبت کا فیضان ہے۔

اور یہ آیت مرتدین کے مقابلہ میں ہے کہ یہ مرتدے وفا ہیں ان میں محبت نہیں ہے اب ان کے مقابلہ میں **فَسَوْفَ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ** میں ایک قوم عاشقوں کی پیدا کروں گا کون سی قوم؟ **يُجْهُمُ وَيُحْبُّونَهُ** یہ وہ قوم ہے جس سے میں محبت کروں گا اور جو مجھ سے محبت کرے گی۔ معلوم ہوا کہ عاشقوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے **فَسَوْفَ يَأْتِيُ** کا ظہور ہے جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا کیونکہ اتنا میں سو فہ ہے مگر

اس کا تسلسل منقطع نہیں ہے لہذا جو اپنے شیخ کا عاشق ہوتے سمجھ لو کہ یہ فَسُوفٌ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ کا ایک فرد ہے۔ اس لیے بقوم نازل فرمایا باقی قوم نازل نہیں فرمایا کہ ہم بہت سی قومیں نازل کریں گے۔ مفردنازل فرمائ کرتا دیا کہ سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہیں لہذا ہم سب ایک قوم ہیں اگرچہ کوئی پنجابی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی عربی ہے لاکھوں زبانیں ہیں مگر اللہ کے عاشقوں کو اللہ نے ایک قوم فرمایا۔ دیکھو یہاں کتنے ملکوں کے لوگ جمع ہیں۔ یہ برطانیہ کا ہے یہ انگریزی میں ہاؤ آر یو کہے گا، یہ جنوبی افریقیہ کا ہے یہ تمہاری طبیعت کیم چھوپوچھے گا اور بگلہ دلیش والے پوچھیں گے کیم آچھی اور پٹھان کہے گا پختیر راغلے اور فارسی والا کہے گا مزارج شماچہ طور است اور عربی والا کہے گا کیف حالک لیکن یہ سب ایک قوم ہیں۔ معلوم ہوا کہ قومیت زبانوں سے نہیں بنتی، معلوم ہوا کہ قومیت صوبوں اور علاقوں سے نہیں بنتی، معلوم ہوا کہ قومیت رنگ و رونگ اور الوان والسنۃ کے اختلاف سے نہیں بنتی یہ قومیت يُحِبُّهُمْ وَ يُحْبُونَہ سے بنتی ہے، اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا پورے عالم میں جو بھی اللہ کا عاشق ہو گا وہ ہماری قوم ہے اور جو ان کا عاشق نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ ہماری قوم کا نہیں اگرچہ ہمارے وطن کا ہو، اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارا خون، ہماری زبان، ہمارا صوبہ، ہمارا اعلاقہ، ہمارا ملک کیوں نہ ہو لیکن وہ ہماری قوم کا نہیں کیونکہ وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے۔ يُحِبُّهُمْ وَ يُحْبُونَہ کافر نہیں ہے۔ ہماری قوم اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے۔ سارے عالم کو اس قوم کی خبر نہیں، یہ وہ قوم ہے جس کو غالتوں کا نبات نے نازل فرمایا ہے۔ اے روں وامریکہ! تم کیا جانو کہ قوم کیا چیز ہے؟ پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی بتائی ہوئی قومیت معتبر ہے یا تمہاری بنا تائی ہوئی۔ تمہاری قومیت تو رنگ و نسل، ملک و قوم اور زبانوں کے اختلاف سے بنتی ہے جس کا نتیجہ نفرت وعدالت ہے اور عاشقان خدا کی قوم کی امتیازی شان يُحِبُّهُمْ وَ يُحْبُونَہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ ایک عاشق دوسرے عاشق سے مل کر مست ہو جاتا ہے۔

کیونکہ ایک قوم ہونے کے احساس سے محبت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے۔ اس آیت کا نزول سارے عالم کے عاشق میں اضافہ محبت کا ضامن ہے کیونکہ یہ علم کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایسی قوم ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی قوم کو محبوب رکھتا ہے جیسے جن بچوں کو باپ سے تعلق قوی ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور باپ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی محبت سے محروم ہیں وہی آپس میں

لڑتے ہیں اور جن کے قلب اور قلب پر اللہ کی محبت غالب ہے وہ ایک دوسرے پر فدا ہوئے جاتے ہیں۔

سارے عالم کے عاشقان خدا ایک قوم ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُوفَ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللَّهُ تَعَالَى اپنے عاشقوں کی ایک قوم پیدا کرے گا۔ آتی یاٹی کے ساتھ اللہ نے ”ب“ لکا دیتا کہ اتیان معنی میں متعدد ہو جائے، لانے کے معنی میں ہو جائے کہ یہ قوم خود سے نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے، اولیاء اللہ بنائے جاتے ہیں۔ خود سے نہیں بن سکتے اور اس قوم کی کیا شان ہے؟ یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَہ کہ اللہ اس قوم کے افراد سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور یہی دلیل عشق ہے کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی عاشق ہو گی اور قوم نازل فرمایا اقوام نہیں نازل فرمایا۔ لہذا پنجاب کا ولی اللہ، سندھ کا ولی اللہ، بلوچستان کا ولی اللہ، سرحد کا ولی اللہ، افغانستان کا ولی اللہ اور سارے عالم کے ولی اللہ سب ایک قوم ہیں، سب اپنے بھائی ہیں، سب ہماری برداری ہیں، اللہ کے عاشقوں کی ایک ہی برداری ہے۔ اقوام نازل نہ فرمانا دلیل ہے کہ اللہ کے عاشقین بہت سی قومیں نہیں ہیں، ایک ہی قوم ہیں لہذا ان کو اپنی برداری سمجھو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں اور ان کا رنگ اور کلر Colour کیا ہے؟ مسلمان جبشی کا کلر مت پوچھو، انگریز مسلمان کا کلر مت پوچھو۔ کوئی رنگ ہو۔ کوئی کلر ہو، کوئی نسل ہو، کوئی زبان ہو، اللہ تعالیٰ کے عاشقین سب ایک قوم ہے۔ اللہ کے عاشقوں کی قوم رنگ اور نسل اور زبان اور علاقوں سے نہیں بنق۔ یحیهم ویحبونہ سے بنتی ہے لہذا جو بھی اللہ کا عاشق ہے خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم کا ہو کسی زبان اور کسی علاقہ کا ہو یہ سب ایک ہی قوم اور ایک برداری ہیں۔

(صحیح البخاری و مسلم، حدیث بیان الوجی، ص: ۲۳)

آج ایک عظیم علم اللہ نے عطا فرمایا کہ جتنے مرتد ہیں بے وفا ہیں، یہ اہل محبت نہیں ہیں، یہ پیاسے نہیں تھے ورنہ پانی ان کو خود تلاش کر لیتا۔ اگر ان کے دل میں محبت کی پیاس ہوتی تو اللہ کی رحمت ان کو خود تلاش کر لیتی، اپنے آغوش کرم میں لے لیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں فرماتے کیونکہ عاشق بھی اپنے محبوب کا درنہیں چھوڑتا۔ خواجه صاحب نے اس حقیقت کو اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے۔

میں ہوں اور حشر تک اس در کی جیں سائی ہے

جبیں معنی پیشانی یعنی ہماری پیشانی اللہ کی چوکھٹ کو گڑتی رہے گی، قیامت تک اگر اللہ ہمیں زندگی دے دے تو ہم بے وفا اور بھاگنے والے نہیں ہیں، اللہ کے دروازہ پر ہماری پیشانی قیامت تک رہے گی۔

سر زاہد نہیں، یہ سر سر سودائی ہے

یہ عاشقوں کا سر ہے، یہ زاہد خشک کا سر نہیں ہے جو ان کے در کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔

اگر اہلِ محبت بھی بے وفا ہوتے تو مریدین کے مقابلہ میں یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ اگر اہلِ محبت بے وفا ہوتے تو نوع ذ باللہ مرتد کا مقابلہ مرتد سے ہوتا حالانکہ مقابلہ تو ضد سے ہوتا ہے جیسے دو من طاقت والے پہلوان کے مقابلہ میں چار من طاقت والا پہلوان لایا جاتا ہے۔ پس اس آیت میں اہل ارتاد کا مقابلہ اہل وفا سے ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ قوم اہل وفا ہے جو کبھی مرتد نہ ہوگی۔ بے وفاٹی کی کلی مشنک کے فرد کامل یعنی مرتدین کے مقابلہ میں وفاداری کی کلی مشنک کے فرد کامل یعنی اہلِ محبت لائے جا رہے ہیں الہذا یہ کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ اس قومیت کے عالم میں جتنے افراد ہوں گے وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، بے وفا نہیں ہوں گے، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے اور شیخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ سے بھاگنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی جس طرح نبی سے بھاگنے والے جو تھے وہ پہلے ہی سے بے وفا تھے۔ شیخ نائب رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں شیخ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس کو اہل اللہ سے محبت نہیں ہوتی اور جس کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے پیاروں کے صدقہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، کیا اللہ نے ان سے محبت کی؟ کیا ابو جہل سے اللہ نے محبت کی؟ کیا ابو لہب سے اللہ نے محبت کی؟ نبی سے دشمنی کے سبب ان پر غضب نازل ہوا اور جہنوں نے نبی سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنے شیخ و مرشد کی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت و عنایت ان کو نصیب ہوتی ہے اور جو اہل اللہ سے محبت نہیں کرتے عنایاتِ حق سے محروم رہتے ہیں۔

اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے کہ اہلِ محبت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے اور جو اللہ سے محبت کرے گا بھلا اس کا خاتمہ خراب ہوگا؟ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ محبت کی صحبت میں رہوتا کہ ان کی برکت سے تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آجائے جو حضاسمن ہے حسن خاتمہ کی۔ (درس مشوی مولانا رام، صفحہ: ۱۸۲-۱۸۳)

آیتِ بالا کی مزید شرح

کفار سے موالات و محبت سببِ ارتاد ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْ لِيَاءً اَيْمَانًا وَالوَيْلُ لِيَهُودِ يَوْمَ اُرْعِي سَيْئَوْمَ کو دوست مت بنا۔ علامہ آلوئی فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی کرنے کو منع فرمایا اور اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل فرمائی یاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

مَنْ يُرَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ الْغُجُس میں مرتدین کا تذکرہ ہے اور یہ دلیل ہے کہ ان مُواالاتِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى تُوْرُثُ الْأَرْتَادَ یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی ارتادا کا سبب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیش بندی اور روک تھام فرمادی کہ دیکھو میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، ان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام ہے یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آجائے گا۔ جس تالاب میں مچھلی نہ ہو لیکن کسی مچھلی والے تالاب سے اس کا رابطہ ہو جائے تو ساری مچھلیاں اس میں منتقل ہو جائیں گی اسی طرح اگر یہود و نصاریٰ سے تم نے اپنادل قریب کیا تو ان کے کفر کی مچھلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آجائیں گی۔ لہذا تم ان سے معاملات تو کر سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ موالات یعنی محبت و دوستی حرام ہے اور معاملات کیا ہیں؟ تجارتی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ۔ آپ فرانس جا کر کافروں سے مال خرید سکتے ہیں لیکن دل میں ان کی محبت و اکرام نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ دل اکرام کے ساتھ ان کو گلڈ مارنگ اور سلام کرو۔ ان کی عزت دل میں آئی کہ کفر ہوا مَنْ سَلَّمَ الْكَافِرَ تَبْجِيلًا لَا شَكَ فِي كُفُرِهِ جو کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے دشمن کا اکرام کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ایک ہندو ڈاکیہ آتا تھا اور سلام کرتا تھا کہ مولوی صاحب آداب عرض تو حضرت فرماتے تھے آ۔۔۔ داب اور میرے کان میں فرماتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آ اور میرا پیر داب۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کافر کا اکرام لا لازم نہ آئے۔ عرض کافر کا اکرام دل میں نہ ہو اور تحقیر بھی نہ ہو کیونکہ کافر کے کفر سے تو بعض واجب ہے لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے لہذا جس کافر کو دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو اللَّهُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا بَتَّلَكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كُثُرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا اس میں آپ تحقیر سے بچ جائیں گے کیونکہ زبان و دل سے شکر نکل گیا اور شکر اور کبر جمع نہیں ہو سکتے۔ (ارشادات درود)

۲۶ آیت نمبر

﴿لَا أَحِبُّ الْأَفْلَيْنَ﴾

(سورہ الانعام، آیہ: ۲۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول لَا أَحِبُّ الْأَفْلَيْنَ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ آپ جگل میں دیکھیں گے کہ جہاں کہیں مردہ بھینس یا گائے پڑی ہو گی وہاں گدھ ہی گدھ نظر آئیں اور بازیشا ہی صرف زندہ شیر کا شکار کرتا ہے۔ احقر کا شعر ہے۔

می تکیرد بازِ شہ جو شیر نر
کرگسماں بر مُردگاں بکشادہ پر

بازِ شاہی سوائے شیر نر کے کسی جانور کا شکار نہیں کرتا اور گدھ پر پھیلائے ہوئے مردہ لاشوں سے چھپتے ہوئے ہیں۔ مردہ سڑی ہوئی لاش ان کو پلا و قورمہ معلوم ہوتی ہے۔

اسی طرح جو دنیاۓ فانی کے عاشق ہیں ان کا حوصلہ اتنا پست اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ دنیاۓ مردار اور فنا ہونے والی صورتیں ان کو نہایت محنتم بالشان نظر آتی ہیں اور کرسوں کی طرح مردہ لاشوں سے لذت کشی ان کا شعار اور مقصد حیات بن جاتا ہے۔ جو بندہ مقرب باللہ ہو جاتا ہے اس کی روح جو شہباز معنوی ہے دین کی شکارگاہ میں مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام لاَ أَحِبُّ الْأَفْلَيْنَ کا نعرہ بلند کرتی ہے اور بجز اللہ کے کسی ماسوئی کی طرف رُخ نہیں کرتی اور بجز رضاۓ الہی کے کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتی۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ذرا سی حسین شکل سامنے آگئی تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اس فانی صورت پر مرنے لگے۔ مومن طبیعت کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کے برکس کافر اور مومن فاسق طبیعت کے غلام ہوتے ہیں جو شکل اچھی لگی اس پر فدا ہونے لگے اور جب وہی شکل بگڑائی سب کھل ختم ہو گیا، حسن کے شامیانے اُجڑ گئے تو یہ عاشق صاحب بھی بگڑ گئے اور جس پر مر رہے تھے اس سے بچھر گئے اور ایسے بھاگے جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے:

﴿كَانُهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَفِرُوْنَ ۝ فَرَثُ مِنْ قَسْوَرٍ ۝﴾

(سورۃ المدثر، آیۃ: ۵۰-۵۱)

آہ! پھر کیا فرق ہوا مومن میں اور کافر میں۔ حسن بگڑنے کے بعد تو کافر بھی بھاگتا ہے، اگر اس وقت مومن گنہگار بھی بھاگا تو کیا کمال کیا کیونکہ نفس کے کہنے سے اس کا قرار تھا نفس کے کہنے سے فرار ہوا۔ مومن کامل، صاحب نسبت اور ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ عین عام شباب حسن میں وہ اللہ کے خوف سے نظر بچاتا ہے، اس کا نفس بھی کہتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لوں لیکن اللہ کے خوف سے وہاں سے بھاگتا ہے:

﴿فَقُرُوْا إِلَى اللَّهِ ۝﴾

(سورۃ الذاریات، آیۃ: ۵۰)

پر عمل کرتا ہے اس کا فَقُرُوْا إِلَى اللَّهِ لَوْ جَهَ اللَّهُ ہے اس لیے یہ عارف باللہ ہے اور جو نفس کے کہنے سے حسن پر فدا ہوا اور نفس کے کہنے سے بگڑے ہوئے حسن سے بھاگا یہ بگڑ بلا تو ہو سکتا ہے عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا فرار بگڑ بلا کا فرار ہے عارف باللہ کا فرار نہیں۔ عارف باللہ کا فرار اور ہے بگڑ بلا کا فرار اور ہے۔ طبیعت نفس کے حکم سے بھاگنا اور ہے اللہ کے حکم سے بھاگنا اور ہے۔

جب میرا پہلا سفر ری یونین کا ہوا تھا جو فرانس کے ماتحت ایک جزیرہ ہے تو فرانس ریڈ یونے

اعلان کیا کہ فلاں روزمندر کے کنارے برہنہ لڑکیاں اور برہنہ لڑکے نہائیں گے۔ بعض مسلمان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب نفس میں بہت لائق لگ رہی ہے کیا کریں، نفس اُدھر کھینچتا ہے اور اللہ کا خوف روکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک مراقبہ چند منٹ کرو کہ یہ لڑکیاں جو کل نہائیں گی سب نوے سال کی ہو گئیں، گال پچکے ہوئے ہیں، دانت باہر ہیں، چھاتیاں ایک ایک فٹ نیچے لگی ہوئی ہیں، سفید بال بڈھے گدھے کی دم کی طرح جھپڑے گئے، رعشہ سے گرد نیس ہل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر فرانس ریڈیو اعلان کرے کہ کل سب نوے سال کی بڈھیاں ننگی نہائیں گی تو پھر کیا دیکھنے جاؤ گے۔ لہذا جس حسن پر کل بڑھا پا آنے والا ہے اس سے تم آج ہی بھاگو تو اجر و ثواب اور اللہ کا قرب ملے گا ورنہ بھاگو گے تو کل بھی لیکن پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ نوجوانوں نے کہا کہ اس مراقبہ سے ہمیں بہت نفع ہوا۔

یہ توزندگی کا حال ہے اور مرنے کے بعد جب لاش پھٹ جاتی ہے، کیٹرے رینگنے لگتے ہیں، بدبو کا بچپا اٹھتا ہے اس وقت ذرا ان پر مر کر دکھا۔ عراق پر جب بمب اری ہوئی تو دس ہزار نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی لاشیں سڑکیں تو اخباری رپورٹر بھی وہاں نہ جا سکے اتنی سخت بد بو تھی۔ آہ! کیا ایسی بد بودار چیزوں پر مرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا سڑنے والی لاشوں پر مرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾

(سورة الذاريات، آیة: ۵۲)

اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم مرنے والوں پر مر رہے ہیں۔ دنیا کی فانی چیزوں سے دل نہ لگا و اور مثل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لا احباب الا فلین کہو کہ ہم ان مٹنے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ (دریں مشتوی مولانا روم)

آیت نمبر ۷

﴿فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾

(سورة الانعام، آیة: ۱۲۵)

شرح صدر اور اس کے معنی

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو! اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی ہے وہ سنانا مجھ پر فرض ہے، لہذا سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم ہدایت دینا

چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامَ یہاں ان مصدر یہ ہے یعنی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ هِدَايَتَ اللَّهِ تَعَالَى جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سینہ کو کس طرح کھولتے ہیں؟ فرمایا کہ سینہ اس طرح کھلتا ہے کہ اس میں اپنا ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ (تفسیر روح المعانی، پ: ۸)

ایک ہاتھی نشین نے ایک جھونپڑی والے سے کہا کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو غریب جھونپڑی والے نے کہا کہ آپ سے کون دوستی کرے؟ آپ تو میرے یہاں ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے میری تو جھونپڑی، ہی مسماں ہو جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی رہے گی۔ اس نے کہا کہ میں جس غریب سے دوستی کرتا ہوں اس کا گھر اتنا بڑا بنوادیتا ہوں کہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر آسکوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ سارے احکام کا بجالانا اس کو آسان اور سارے گناہوں سے بچنا اس کو سہل ہو جاتا ہے۔

سُنْ لَ اَ دُوْسْتِ جَبْ اِيَامْ بَحْلَةَ آتَتْ هِيَنْ

كَحَّاتْ مَلَنْتِي وَهُوَ خُودَ آپْ هِيَ بَتَلَاتْ هِيَنْ

جس کو وہ اپنا بناتے ہیں اس کے دل کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھے اپنا بنا رہے ہیں، اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا نا چاہتے ہیں۔

نَهْ مِيَنْ دِيَوانَهْ ہُونْ اَصْغَرْ نَهْ مجَّهْ كُو ذوقَ عَرِيَانِي

كُوئَيْ كَھِنْچَيْ لَيْ جَاتَا ہَيْ خُودَ جِيبَ وَگَرِيَانِ

دَلْ مِيَنْ نُورِ ہِدَايَتَ آنَےَ كَيْ عَلَامَاتَ

پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کھلانا تو آپ نے بتا دیا کہ ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے لیکن کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ نور ہدایت کے دل میں آنے کی علامت کیا ہے؟ ورنہ انگریز کہہ سکتا تھا کہ ہمارے دل میں بہت نور ہے۔ دیکھتے نہیں کہ ہماری چھڑی میں بھی اُجلاء آ گیا ہے۔ تم کا لواہ ہندوستانیو کیا جانو کہ نور کیا چیز ہے؟ بتائیے کہ سکتا تھا کہ نہیں؟ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ ان کے سوال سے نور ہدایت کی علامات کا ہم کو علم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس نور کے دل میں آنے کی تین علامات ہیں۔ دوستو! غور سے سنئے اور غور کیجئے

کہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا یہ نور کس حد تک داخل ہوا ہے؟

نورِ ہدایت کی پہلی علامت

پہلی علامت یہ فرمائی کہ **الْتَّجَافِيُّ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ** دنیا جو دھوکہ کا گھر ہے اس سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ کشتی کو پانی میں چلاتے ہیں لیکن پانی کو کشٹی کے اندر نہیں گھسنے دیتے۔ کشتی بغیر پانی کے چل سکتی ہے؟ پانی پر ہی چلتی ہے لیکن پانی کو اندر نہیں گھسنے دیتے۔ اگر غلطی سے پانی کچھ اندر آ گیا تو کشتی والے ایک ملازم رکھتے ہیں جو ذہب میں پانی بھر بھر کر کشتی کے باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اگر کشتی میں پانی بھر جائے تو کشتی بچے گی؟

تو پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکہ کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکہ کا گھر کیوں رکھا؟ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو تاجر صاحب کا کاروبار قبر میں جاتا ہے؟ ان کی مرسید یہ اور شامدار گاڑیاں جاتی ہیں؟ ان کے سمو سے اور پاپڑ جاتے ہیں؟ ان کے موبائل جن پروہ ٹھیل ٹھیل کر، زاویے بدلت کر اور شانِ دکھانے کے لیے عجیب عجیب منہ بنانے کی بات کرتے ہیں بتاؤ وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں؟ اسی لیے دنیا دھوکہ کا گھر ہے کہ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ کاروبار، نہ سموسہ نہ پاپڑ۔

بس جس کے دل میں ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکہ کا گھر ہے اس سے وہ دل نہیں لگاتا۔ جسم سے وہ دنیا میں رہتا ہے، یہوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کار بھی رکھتا ہے لیکن دل میں اس کے یار ہوتا ہے یعنی محظوظ حقیقی تعالیٰ شانہ۔ اس حقیقت کو اگر کوئی مشکل سمجھ رہا ہو تو وہ میرا ایک اردو شعر نے لے

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار ہے

نورِ ہدایت کی دوسری علامت

لیکن اس علامت میں حدیث کے ظاہری الفاظ سے غلط معانی نکال کر ہندو جوگی اور راہب بھی شامل ہو سکتے تھے جو دریا کے کنارے دنیا سے بظاہر کنارہ کش ہو جاتے ہیں لیکن کلامِ نبوت کی بلاغت کا عجائز ہے کہ دوسری علامت نے جو گیوں اور راہبوں کو اس زمرہ سے نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی طرف ہر وقت توجہ و **الْإِنَابَةُ إِلَى** **دَارِ الْخُلُودِ** سر و رعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جنت اور آخرت کی طرف ان کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا

ہے۔ دیکھتے میں یہاں کراچی سے آیا ہوں۔ لندن میرے لیے پر دیس ہے یا نہیں؟ تو آپ بتائیے کہ کیا میں کراچی کو بھول جاؤں گا؟ ایسے ہی جو اصلی عقلمند لوگ ہیں وہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے، اپنے مولیٰ سے ملنا ہے۔ اس لیے جلدی جلدی وہ آخرت کو کرنی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سب چھوٹ جائے گا اور یہیں رہ جائے گا لہذا کوئی مسجد بنوادیا، کوئی مدرسہ بنوادیا۔ لہذا عقلمند مالدار لوگ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اسی طرح جلدی جلدی اپنی رقم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کہ کسی مسجد میں لگادیا، کسی مدرسہ میں رقم لگادی یا زمین خرید کر کسی اللہ والے عالم کو دے دی کہ آپ یہاں کوئی بڑا مدرسہ یا جامعہ یادار العلوم بنائیے۔ یہ سب سے بڑا کاریخیر ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ زمین کا صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا۔ آخرت میں کرنی ٹرانسفر کرنے کے یہ سب طریقے ہیں۔

نور ہدایت کی تیسرا علامت

اور تیسرا علامت کیا ہے؟ وَ إِلَّا سُتْعَدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ اور موت آنے سے پہلے وہ تیار رہتا ہے، موت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، جلدی سے ادا کرو، کتنے روزے باقی ہیں، کتنی زکوٰۃ باقی ہے سب کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جو باقیں پوچھیں گے موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی فائل درست رکھتا ہے۔ بس دل میں نور ہدایت آنے کی یہ تین علامات ہیں۔
(نور ہدایت اور اس کی علامات، حصہ اول، صفحہ: ۸-۲۸) (۵۳-۵۴)

آیت نمبر ۲۸

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

(سورہ الاعراف، آیۃ: ۲۳)

جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اور ہماری بگڑی کو بنانا چاہتا ہے۔ اے اللہ! آپ احکم الحکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں آپ کا یہ معافی کا مضمون نازل فرمانا گویا آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ فکر نہ کرو تمہاری بربادی کی منتها کو یعنی تمہاری منتها تے تحریک اور منتها تے بربادی کو ہم اپنے ارادہ تعمیر کے نقطہ آغاز سے درست کر سکتے ہیں، ہم سو برس کے کافر اور ڈاکو کو پل بھر میں ولی بنا سکتے ہیں۔

جو ش میں آئے جو دریا رحم کا
گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء

پس رَبَّنَا ہی میں آپ نے اپنی محبت کا رس گھول دیا، رَبَّنَا کہلا کر اپنی محبت کی چھری سے ہمیں ذبح کر دیا کہ اے ظالمو! میں تمہارا پانے والا ہوں، کہیں اپنے پانے والے کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اپنے پانے والے کی نافرمانی کرنا انتہائی بے وفائی، بے غیرتی اور کمینہ پن ہے، تم کتنے بے غیرت ہو کہ اپنے پانے والے کو ناراض کرتے ہو اور رَبَّنَا کلی مشکل ہے اور کلی مشکل وہ کلی ہے جس کے افراد متفاوت المراتب ہوتے ہیں لہذا ہر شخص کا رَبَّنَا الگ ہے، اولیاء صدیقین کا رَبَّنَا الگ ہے، عام مومنین کا رَبَّنَا الگ ہے، گنجگاروں کا رَبَّنَا الگ ہے، ہر ایک کا رَبَّنَا بقدر اس کی ندامت کے الگ الگ ہو گا اور ہر شخص کی ندامت بقدر اس کے تعلق اور محبت کے الگ ہو گی۔ اللہ تعالیٰ سے جس کو جتنا شدید تعلق ہو گا اتنی ہی شدید ندامت اس کو ہو گی اور جتنی شدید ندامت ہو گی قلب کی اتنی ہی گہرائی سے اس کا رَبَّنَا نکلے گا۔ لہذا رَبَّنَا کے افراد متفاوت المراتب ہیں۔

اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا..... (اللَّهُمَّ اَنْتَ عَلَيْنَا رَحْمَةُ النَّبِيِّنَ) نے ہم انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ ملائکہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے خطا نہیں ہوتی وہ معصوم الغطرت ہیں لہذا یہ ہمارے لیے بذریعہ باباً آدم علیہ السلام عطا فرمایا۔ گنجگاروں کے لیے معافی کا یہ سرکاری مضمون ہے جس کے ایک ایک لفظ میں پیار ہے ورنہ مجرم کو سخت الفاظ میں ڈانتے ہیں کہ معافی مانگ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار سے سمجھایا ہے کہ تم سے خطا ہو جائے تو کہو رَبَّنَا اے ہمارے پانے والے۔ ان کلمات استغفار میں ہی تمہیں ہمارا پیار مل جائے گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے کہ رَبَّنَا سکھا کر اپنا رشتہ بتا دیا کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں ورنہ خالی اللَّهُمَّ بھی سکھا سکتے تھے لیکن یہاں رَبَّنَا سکھا یاتا کہ میرے بندوں کو معافی کی امید ہو جائے کیونکہ پانے والا جلد معاف کر دیتا ہے جیسے ماں باپ بچوں کو جلد معاف کر دیتے ہیں۔ رَبَّنَا سکھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلا دی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہارے پانے والے ہیں، تمہاری جلد معافی ہو جائے گی۔ اگر ہمیں تم کو معاف کرنا نہ ہوتا تو ہم تم سے رَبَّنَا کہلاتے۔ جب باپ اپنے بچے کو سکھائے کہ یوں کہو کہ اے میرے ابو! مجھے معاف کر دیجئے تو معلوم ہوا کہ باپ کا ارادہ معافی ہی دینے کا ہے ورنہ سزا کا یہ عنوان نہیں ہوتا۔ اگر باپ بیٹے کو ڈنڈے لگانا چاہتا ہے تو یہ نہیں سکھائے گا کہ کہو یا آبوئی بلکہ دوڑا لے گا کہ ٹھہرنا لائق ابھی تیری پٹائی لگاتا ہوں۔ یا آبوئی سکھانا دلیل ہے باپ کی شفقت کی اور رَبَّنَا سکھانا دلیل ہے حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے نزول کی۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سکھانا کہ مجھے صرف اللہ نہ کہو، خالی رب بھی نہ کہو بلکہ کہو بناءے ہمارے پانے والے، یہ پیار کا جملہ دلیل ہے کہ باوجود تمہاری خطاوں کے اب ہم تمہیں پیار کرنے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اب تمہیں اپنا پیارا بنانے والے ہیں۔ رَبَّنَا سکھا کر

گناہوں سے معافی بھی دے دی اور رہنا کامزہ اور نشہ بھی دے دیا۔ گنہگاروں کو مزہ دے دے کر معافی دے رہے ہیں ورنہ مزہ دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب نہیں، فصلًا واحساناً گنہگاروں کو معافی کا سرکاری مضمون ایسا دیا کہ میرے بندوں کو رَبِّنَا کہنے کا مزہ بھی آجائے۔ جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابوتو کیا اس بچہ کو مزہ نہیں آتا؟ تو میرے ربا کہنے میں کیا بندہ کو مزہ نہیں آئے گا؟ رَبِّنَا کہنے کا مزہ الگ ہے ظَلَمْنَا کہنے کا مزہ الگ ہے، انفُسَنَا کہنے کا مزہ الگ ہے، جو بھی بیان کروں گا جو میرا مالک میرے دل کو عطا فرم رہا ہے۔ ہر لفظ میں مزہ ہی مزہ ہے، مزے کا سمندر بھرا ہوا ہے، محبت کا رس بھرا ہوا ہے۔ کیا کہوں کیسا کریم مالک ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کو معافی کا سخت مضمون نازل نہیں فرمایا بلکہ استغفار کے کلمات میں بھی لطف اور مہربانی اور کرم اور پیار اس ارحم الرحمین نے رکھ دیا۔

پہلے رَبِّنَا سے اور اس کے بعد ظَلَمْنَا سے ہمارے اعتراف ظلم کو اور سُغْیِن کر دیا، ہماری ندامت کو اور زیادہ کر دیا کہ تم اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی روئی کھاتے ہوا سی کو ناراض کرتے ہو۔ جس کی روئی سے تمہارے جس میں خون بنتا ہے، خون توال تھا لیکن وہی خون تمہاری آنکھوں میں نور سے تبدیل ہو گیا، کانوں میں وہی خون قوتِ سامعہ سے تبدیل ہو گیا، ناک میں وہی خون قوتِ شامد بن گیا، زبان میں وہی خون قوتِ ذائقہ بن گیا، سفید بالوں کا وہی خون سفیدی دیتا ہے اور کالے بالوں کو سیاہی دیتا ہے اور تمام اعضاء میں جا کر ان اعضاء کی قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میری روٹیوں سے تمہارے جسم کے کارخانہ میں قتوں کا خزانہ پیدا ہو رہا ہے اور میری روٹیاں کھا کر تم میری ہی نافرمانی کرتے ہو الہذا کہو رَبِّنَا ظَلَمْنَا اے ہمارے پالنے والے آپ ہی کی ربوبیت سے ہم جیتے ہیں اور آپ ہی کی ربوبیت سے ہم جینے کی طاقت پاتے ہیں۔ لہذا اپنے پالنے والے سے اپنے ظلم کا اعتراف کرو۔ اس استغفار میں بھی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لہذا اپنے پالنے والے سے اپنے ظلم کا اعتراف کرو۔ اس استغفار میں بھی ڈانٹ نہیں ہے، مزہ ہی مزہ ہے کہ پہلے رَبِّنَا کہنے کا مزہ لوٹو کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں اور تم نے کس کی نافرمانی کی ہے پھر ظَلَمْنَا کا مزہ لوٹو کہ اس اعترافِ ظلم میں بھی مزہ ہے۔ کیا کہوں اہلِ عشق سے پوچھو کو عاشقوں کو اپنی خطاؤں کے اعتراف میں اور محبوب سے معافی مانگنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو یہی قوی اور محبوب سے معافی مانگنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اور زیادہ ہیں۔ ظَلَمْنَا سے پہلے اپنی صفتِ ربوبیت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی ندامت کو اور زیادہ قوی کر دیا کہ اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرنا نہایت غیر شریفانہ حرکت ہے۔ رَبِّنَا کی وجہ سے ہمارا ظَلَمْنَا بھی قوی ہو گیا، ہماری ندامت کو بڑھا کر قربِ ندامت کو بھی بڑھا دیا کیونکہ قربِ ندامت بقدرِ ندامت اور

نزوں رحمت بقدرِ ندامت ہوتا ہے جتنی زیادہ ندامت ہوگی اتنا ہی زیادہ تجلیاتِ مغفرت اور تجلیاتِ رحمت کا نزوں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظلمت کیوں نہیں سکھایا ظلمانہ کیوں سکھایا۔ تو جواب یہ ہے کہ کبھی نگاہ نامحرموں کو دیکھ کر گناہ کرتی ہے، کبھی زبان ان سے با تین کر کے یا حرام غذا چکھ کر گنہگار ہوتی ہے، کبھی کان نامحرموں کی آواز سن کر یا گانے سن کر مزہ لیتے ہیں، کبھی ہاتھ حسینوں کو چھو کر مجرم ہوتے ہیں، کبھی پاؤں ان کی گلی میں جا کر حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں غرضِ جمیع اخضاءِ ناہم ظلم کرتے ہیں تو ظلمانہ کا حکم اس لیے دیا کہ گویا ہمارے جمع اعضاء مل کر معافی مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے ہمیں معاف کر دیجئے۔

اور انفسنا میں ایک معرفت عطا فرمائی کہ گناہ کر کے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہارے ظلم اور تمہارے گناہ کا نقصان تمہیں کوپہنچا۔ اگر ساری دنیا کافر، سرکش اور نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ کی نہیں آسکتی اور ساری دنیا ایمان لا کر سجدہ میں گرجائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا تمہیں معاف کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ معاف کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے جس کو کوئی نقصان پہنچ جائے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس آیت کی تفسیر کرتی ہے:

﴿يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الدُّنُوبُ وَلَا تَنْفَصُهُ الْمَغْفِرَةُ فَاغْفِرْ لِي مَالًا يَضُرُّكَ وَهَبْ لِي مَالًا يَنْقُضُكَ﴾

(شعب الایمان للیہیقی)

اے وہ ذات! جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہمیں بخش دینے سے جس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی لہذا امیرے گناہوں کو جو آپ کو کچھ مصنفوں میں معاف کر دیجئے اور آپ کی مغفرت کا وہ خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیں بخش دیجئے۔

پس انفسنا سے ہماری ندامت کو اور بڑھادیا کہ گناہ سے تم نے اپنا ہی نقصان کیا لہذا اب کہو و ان لئے تغفارنا اگر آپ ہمیں معاف کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، آپ کے در کے سوا کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے۔

وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُو وَ يَرْجُو الْمُجْرُمُ

اگر نیکو کارہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جس کو مجرم اور گنہگار پکارے۔

نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر

تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا

اس کے بعد وَ تَرْحَمُنَا کامز الٹوک مغفرت کے بعد سزا سے توبچ گئے لیکن سزا سے بچنا کافی نہیں، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی محتاج ہیں، ہم پر عنايات بھی کیجئے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جاؤ معاف کر دیا لیکن خبردار اب کبھی میرے سامنے نہ آنا تو تَغْفِرُنَا اس کا ہو گیا لیکن تَرْحَمُنَا نہیں ہوا۔ تَرْحَمُنَا کہلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم میری عنایات کے بھی محتاج ہو۔ اگر میں خالی تمہاری سزاوں کو معاف کر دوں لیکن اپنی رحمتوں سے محروم رکھوں تو بھی تمہارا کام نہیں بنے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت میں چار نعمتیں پوشیدہ ہیں:

(۱) گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق طاعت کم ہو گئی تھی، عبادت کامزہ چھن گیا تھا الہذا اب توفیق طاعت کو دوبارہ جاری فرمادیجئے اور

(۲) فراغی معيشت بھی عطا فرمائیے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے روزی میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی اور

(۳) بے حساب مغفرت فرمائیے اور

(۴) دخول جنت نصیب فرمائیے

اور علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں رحمت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے کہ جب گناہوں کی معافی ہو گئی اور ہمارے گناہ کے آثار و شوہد ختم کر دیئے گئے اور مغفرت بھی ہو گئی اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے مخلوق سے چھپا دیا اور نیکیوں کو ظاہر فرمادیا الہذا اب ہم پر اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائیے:

﴿الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا بِفُنُونِ الْأَلَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِنَا بِأَفَانِينِ الْعِقَابِ﴾

تفسیر روح المعانی، ج: ۱۱، ع: ۳

ہم پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرمائیے باوجود اس کے کہ ہم طرح طرح کے عذابوں کے مستحق تھے جیسے چھوٹے بچے کے جب معافی ہو جاتی ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ ابواب مجھے ثانی بھی دیجئے، سائیکل بھی دلائیے، کلفٹن کی سیر بھی کرائیے۔ اسی طرح اللہ میاں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری مغفرت فرمادی اور میں تم سے خوش ہو گیا تو اب مجھ سے مانگو کہ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش فرمادیجئے۔

وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُنَا وَ تَرْحَمُنَا کے ایک جملہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے غیر اللہ سے کاٹ دیا کہ سارے عالم سے نا امید ہو جاؤ۔ اگر ساری دنیا تمہیں معاف کر دے تو تمہارا ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ جب ہم معاف کریں گے تو تمہاری معافی ہو گی۔ میرے سوا اور کوئی تم کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ، جاپان،

جرمن سب مل کر سلامتی کو نسل میں اعلان کر دیں کہ فلا نے مجرم کو معاف کر دیا گیا تو کیا تمہاری معافی ہو جائے گی:

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

(سورة آل عمران، آية: ١٣٥)

اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو معافی دے دے۔

لہذا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحمتوں کی نوازش ہم پر نہیں فرمائیں گے تو لام تا کید بانوں ثقیل سے کھو لنگوئن من الخسیرین ہم بہت زبردست خمارے میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی انہتا نہیں لہذا ہمیں خسارہ والوں میں نہ کبھی معلوم ہوا کہ ایک قوم ایسی ہے جو خسارہ میں ہے اور اس کی دلیل ہے:

وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَ

تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ

(سورة العص

کے سارے انسان خسارہ میں ہیں اور اس خسارہ سے متاثری کون ہیں لاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ جو ایمان لائے اور عمل صاحب کیا اور گناہ عمل صاحب کے خلاف ہے اور خسارہ والوں سے استثنی انہیں لوگوں کا ہے جو مومن بھی ہوں اور عمل صاحب بھی کرتے ہوں اور دعوة الی اللہ بھی دیتے ہوں، وَ تَوَاصُوا بِالْحَقِّ امر بالمعروف اور وَ تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ نبی عن الْمُنْكَرِ ہے لہذا اے اللہ اگر آپ کی صفتِ مغفرت و رحمت، ہم پر مبتدول نہ ہوگی یعنی اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر حرم نہیں فرمائیں گے تو لئے کوئی نہ من الخَسِرِينَ ہم انہیں خسارہ والوں میں من تعجبیضیہ بن کر داخل ہو جائیں گے یعنی ان خسارہ والوں کا جز بن جائیں گے اور یقیناً بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے کہ کوئی ہمارا اٹھکانہ نہ ہو گا۔

اُٹھا کر سر تمہارے آستانا سے

ز میں یہ گراہیٹا میں آسمان سے

اور یہ کلام اللہ کی بлагت ہے کہ مِنَ الْخَسِرِينَ فرمایا۔ اگر صرف خُسِرِینَ نازل ہوتا تو یہ بлагت پیدا نہ ہوتی، من تبعضیہ ہے اور الف لام استغراق کا ہے جس سے وہ تمام اقوامِ خاسرین اس میں شامل ہو گئیں جن پر ان کے ظلم کے سبب عذاب نازل ہوا۔ اس میں قومِ لوٹ اور قومِ عاد و ثمود اور جملہ اقوامِ خاسرین آگئیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ اے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر حرم نہ فرمایا تو ہم ان خاتم و خاسر قوموں کا ایک جز بن جائیں گے الہذا النکونَ مِنَ الْخَسِرِينَ میں کیا مزہ ہے، ماںگ مانگ کر پڑھو

لوٹ لو جیسے کوئی بچہ باپ سے کہے کہ ابواً گر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر حرم نہیں کریں گے تو میرا اور ہے کون۔ میں تو بہت خسارہ میں پڑ جاؤں گا۔ لہذا کوشش کرو اور جان کی بازی لگادو کہ کوئی گناہ نہ ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خطا بر بنائے بشریت ہو گی لہذا رَبَّنَا ظَلَمْنَا کی رٹ لگائے رہیے کیونکہ ہماری ہر سانس مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہماری طاقتِ اطاعت اور طاقتِ تقویٰ محدود ہے۔ تو محمد و طاقتوں غیر محدود کا حق کیسے ادا کر سکتی ہیں اس لیے ہماری ہر سانس رَبَّنَا ظَلَمْنَا کی محتاج ہے۔

(فغان روی، صفحہ: ۱۶۲-۱۶۳)

۲۹ آیت نمبر

﴿السُّتُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِي﴾

(سورۃ الاعراف، آیہ: ۱۷۲)

بوقتِ آفرینش اللہ تعالیٰ نے السُّتُّ بِرَبِّكُمْ فرمادی ہماری ارواح کو اپنی شان ربو بیت کی تجلی دکھادی اور ہمارے خمیر میں اپنی محبت کی تختم ریزی فرمادی یعنی ہمارے مضغہ دل پر اپنی محبت کی چوٹ لگا کر پھر اس دنیا میں بھیجا کہ جاتو رہے ہو لیکن ہمارے بن کے رہنا۔

کہیں کون و مکاں میں جونہ رکھی جا سکی اے دل
غضب دیکھا وہ چنگاری مری مٹی میں شامل کی

یہ اسی چوٹ کا اثر ہے جو آج ہم ان کی محبت میں مست ہیں۔ اللہ کے نام میں جوشیرینی و کیف و مستی ہے دونوں جہان کی لذتیں اس کے سامنے یقیح ہیں۔ جن کو یہ حلاوت ذکر نصیب ہو گئی ان سے پوچھو کہ ان کے نام میں کیسا مزہ ہے۔ اللہ کی محبت میں اگر مزہ نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے سر نہ کلٹتے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے:

﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيى ثُمَّ أُقْتَلُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب تمنی الشہادة، ج، ۱، ص: ۳۹۲)

اے اللہ! میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔

اہل دنیا اللہ کے نام کی لذت کو اور ان کی محبت کے مزہ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کے دیوانے جو بظاہر مفلس و فلاش نظر آتے ہیں اپنے سینوں میں ایسی دولت لیے ہوئے ہیں کہ ان کی لذت قرب، اہل طاہر کی عقل نارسا و فہم و ادراک سے بالاتر ہے بلکہ ہر عاشق کی نسبت مع اللہ کارنگ الگ ہے، ہر عاشق کی آہ

الگ ہے، ہر دلی کو ایک شان تفرد حاصل ہے لہذا ایک ولی بھی دوسرے ولی کی باطنی لذت اور اس کے قرب کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے۔ اجمالاً ایک دوسرے کے صاحب نسبت ہونے کا تعلم ہوتا ہے لیکن اس کے باطن کو کیا لذتِ قرب حاصل ہے وہ ایک دوسرے پر مخفی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کی لذت ہر ایک کو الگ الگ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھپا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْةَ أَعْيُنٍ﴾

(سورة السجدة، آیہ: ۲۷)

نکره تحتِ اعلیٰ ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے یعنی کوئی نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم مخفی طور پر اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے تو دودھ کی شیشی پر کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ اس کے پیارے بچوں کی نظر اس کے پیارے بچے کو نہ لگ جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کو اپنے قرب کی لذت چھپا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پیاروں کی نظر ان کے پیاروں کو نہ لگ جائے، ایک ولی کی نظر دوسرے ولی کو نہ لگ جائے۔ اس لیے ایک ولی کی باطنی کیفیات کی تفصیلات کا علم دوسرے ولی کو بھی نہیں ہوتا۔ عبد معبود کے درمیان یا اتصال و ربطِ مخفی ایک سر بستہ راز ہوتا ہے جو دوسرے بندہ پر پوشیدہ ہوتا ہے جس کو خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا ہے۔

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ مخفی سے

معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

لیکن اہلِ دنیا کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں۔ وہ تو ہمیں دیوانہ ہی کہیں گے کہ دیکھو ان مولویوں کو اور ڈاڑھی والوں کو کہ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ پر فدا ہور ہے ہیں۔

اگر بغیر دیکھے کسی چیز کا تسلیم کرنا خلاف عقل ہے تو دیکھے بغیر جان کے وجود کو بھی تسلیم نہ کرو۔ اسکوں کے ایک دہریہ استاد نے ایک بچہ سے کہا کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اسی کو تسلیم کرتے ہیں، بغیر دیکھے کسی چیز کے وجود کو مانا حماقت ہے لہذا جو لوگ بغیر دیکھے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، احمق ہیں۔ وہ بچہ مجھے آپ کو بے عقل کہنا پڑے گا کیونکہ آپ کی عقل تو مجھے نظر نہیں آتی۔ مastr جی اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

ایک شخص نے حکیمِ الامت سے کہا کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ڈاکو تمہاری جان نکالنے آجائے تو اس سے لڑو گے یا آسانی سے کہہ دو گے کہ یہ جان حاضر ہے لے جا؟ کہا کہ نہیں صاحب! جان بچانے کے لیے جان ڈاڑھوں

گا۔ فرمایا کہ جان کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا جیسے بغیر دیکھے جان سے محبت کرتے ہوتے بغیر دیکھے اللہ سے محبت کیوں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح عطا فرما کر ایمان بالغیب کی ایک دلیل خود ہمارے اندر رکھ دی کہ جس طرح اپنی جان پر ایمان بالغیب لاتے ہوا وہ بغیر دیکھے اپنی جان کو تسلیم کرتے ہوا اور اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جان کی حفاظت میں جان لڑادیتے ہو، اسی طرح بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا کیا مشکل ہے۔ ہمارے اندر یہ دلیل رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا پرچہ آسان کر دیا اور گنجائش انکار باقی نہ رکھی۔ اکبر الآبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

مری ہستی ہے خود شاہد و جو د ذات باری کی
دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رہ ہو نہیں سکتی

(درس مشنوی مولانا روم)

آیتِ بالا کی شرح بعنوانِ دُگر

میرے مرشدِ اول حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ نے ارواح کو اپنی تجلی دکھائی اور سوال فرمایا **السُّتُّ بِرَبِّكُمْ** کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس میں اپنی شانِ ربو بیت کی تجلی دکھادی اور اپنی محبت کی چوت لگادی۔ وہی چوت لگی ہوئی ہے کہ آج اللہ کا نام سن کر کافر کا بھی دل دہل جاتا ہے اور لتنا ہی فاسق ہو مگر اللہ کا نام سن کروہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آہ جیسے ہم نے کبھی اس نام کو سننا ہے۔ اپنی چوت لگا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ان کی محبت ہماری جانوں کا فطری ذوق ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جو اک چوت پرانی وہ اُبھر آئی ہے

جب پُر وہا چلتی ہے تو پرانی چوت درد کرنے لگتی ہے۔ اللہ کی محبت کی یہ پرو ہوا میں اللہ والوں کی مجالس میں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع صغیر کی روایت ہے کہ:

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ ذُهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبُكُمْ نَفَحَةٌ مِّنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ

بَعْدَهَا أَبَدًا

(الجامع الصغير لسیوطی، ج: ۱، ص: ۹۵)

اے میری امت کے لوگو! تمہارے زمانہ کے شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہوا میں آتی رہتی ہیں، تجلیاتِ جذب نازل ہوتی رہتی ہیں، تم ان کو تلاش کرو شاید کہ تم ان میں سے کوئی تجلی، نسیم کرم کا کوئی جھونکا

پاجاؤ جس کا یہ اثر ہے کہ پھر تم بھی بدجنت و بدنصیب نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث میں اللہ کے قرب کی ہواں کا، تجلیات قرب کے نزول کا زمانہ بتایا گیا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں ان کا مکان بھی بتادیا گیا کہ یہ کہاں نازل ہوتی ہیں:

﴿هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيلُهُمْ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر الله عزوجل، ج: ۲، ص: ۹۳۸)

یہ اللہ والے ایسے ہم نشین ہیں کہ جن کے پاس بیٹھے والا بھی بدجنت و بدنصیب نہیں رہ سکتا۔

دونوں حدیثوں کو ملانے سے ایک علم عظیم عطا ہوا۔ زمانہ کے شب و روز میں جو تجلیاتِ جذب نازل ہوتی ہیں جو شقاوت کو سعادت سے بدل دیتی ہیں ان کی منزل اور محل اور ان کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہیں کیونکہ ان کا جلیس و ہم نشین بدجنت نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ ان تجلیاتِ مقربات کی جائے نزول مجالس اہل اللہ ہیں الہذا جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو جذب کی کوئی تجلی اس پر بھی پڑ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے سعید ہو جاتا ہے اور محبت کی پرانی چوٹ جو الست بربگم فرمائی تھی پھر ابھر آتی ہے اور یہ اللہ کی محبت کا درِ مستقل پا جاتا ہے۔

دونوں حدیثوں کے ارتباط سے جو علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی حلاوت سے دل مست ہو رہا ہے۔ جامع صغیر کی روایت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے شب و روز، زمانِ تجلیاتِ جذب ہیں کہ انہیں شب و روز میں جن کو وہ تجلیاتِ مل گئیں اس کے بعد کوئی شقی و بدجنت نہیں رہ سکتا۔

مندرجہ بالا حدیث پاک سے ان تجلیاتِ جذب، تجلیاتِ مقربات اور نجاتِ کرم کا زمانہ تو معلوم ہو گیا لیکن دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تجلیات کہاں ملتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث لا یشقی جلیلُہُمْ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں یہ بات عطا فرمائی کہ اہل اللہ کی مجالس ہی وہ مکان ہیں جہاں ان تجلیات کا نزول ہوتا ہے جن کو پانے کے بعد شقاوت سعادت سے اور بدجنتی، نیک بخنتی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان کا تعین مدل بالحدیث ہو گیا فَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عجیب و غریب علوم عطا فرمار ہے ہیں اور یہ آپ حضرات ہی کی برکات ہیں، اس مہینے کی برکات ہیں اور میرے ان بزرگوں کی برکات ہیں جن کے ساتھ ایک عمر اختر نے بسر کی اور ایسی بسر کی کہ جنگل میں دس سال تک فجر سے لے کر ایک بیجے تک ناشتہ نہیں کیا کیونکہ میرے شیخ بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے تو میں کیسے کرتا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ شیخ تو ناشتہ نہ کریں اور گھر سے میرے لیے ناشتہ آئے۔

میرانا شستہ اشراق و چاشت اور ذکر و تلاوت سے ہوتا تھا۔ دو پھر ایک بجے تک ایک دانہ اڑ کر پیٹ میں نہ جاتا تھا۔ خوب کڑا کے کی بھوک لگتی تھی لیکن کیا بتاؤں کہ شیخ کی صحبت میں کیا لطف آتا تھا کہ آج تک وہ مزہ دل میں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ (درس مشنوی مولانا رام، صفحہ: ۱۶۲-۱۶۵)

آیت نمبر ۳

﴿وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ﴾
(سورۃ الاعراف، آیہ: ۲۰۰)

شیطانی و ساویں کا علاج

قرآن پاک میں ہے وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مَلَکِي قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو بڑے لوگ پالتے ہیں، جب آپ ان کے گھر کی گھنٹی بجاتے ہیں تو ان کا کتنا بھوننا ہے لیکن آپ اس کے بھوننے کا جواب نہیں دیتے بلکہ گھنٹی بجاتے ہیں یا کتے کے مالک کو آواز دیتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے میں آنا چاہتا ہوں، کتے کے مالک کے پاس کتے کے لیے خاص کوڈ و رڑ، خاص الفاظ ہوتے ہیں، وہ اس کوڈ و رڑ میں کتے کو حکم دیتا ہے اور کتنا بھوننا چھوڑ کر دوم ہلانے لگتا ہے، تو ملکی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بڑے لوگوں کے کتے کو اگر جواب دو گے تو وہ اور بھوننے کا، اس کے مالک سے رابطہ قائم کرو تو وہ اس کو خاموش کر دے گا، اسی طرح شیطان اللہ کرتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَالْكُلْبِ الْوَاقِفِ عَلَى الْبَابِ شیطان گیٹ والے کتے کی طرح ہے جو اللہ کے دربار کے باہر کھڑا ہوا ہے، دربارِ الہی کا مردود ہے اس لیے دربار سے باہر ہے، اب جو دربار میں جانا چاہتا ہے اس کے وسوسہ ڈالے گا، اگر آپ نے اس کے وسوسے کا جواب دینا شروع کیا تو بس پھر خیریت نہیں ہے، جواب دیتے دیتے آپ کو پاگل کر دے گا، تم کچھ کہو گے وہ بھی کچھ کہے گا، اس سے نجات نہیں ملے گی لہذا اللہ تعالیٰ کی گھنٹی بجاو، وہ کون سی گھنٹی ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اے اللہ! میں اس مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، ان شاء اللہ اس کلمہ کی برکت سے فوراً اللہ کی مدد آئے گی اور شیطان دم ہلانے لگے گا۔ ایک کلمہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے وسو سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کلمہ یہ ہے:

﴿أَمْنَتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(مسند احمد، مسند ابی هریرہ رضی اللہ عنہ)

ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے نبیوں پر۔ (آداب محبت)

آیت نمبر ۳۱

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهِمْ أَيْتُهُ زَادُتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾
 (سورة الانفال، آیات: ۲-۳-۴)

اعمال سے مقصود رضاع حق ہے

ان آیات میں ایمان کامل کی علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ذکر اللہ سے ان کے قلوب ڈرجائیں اور کلامِ الہی سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اقامتِ نماز اور انفاقِ مال اس کی راہ میں کرتے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی۔

جنگِ بدر میں جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجتہادی اختلاف ہوا کہ اس مال کا حق دار کون ہے۔ جو نوجوان آگے لڑ رہے تھے انہوں نے اپنا حق سمجھا اور جو پیچھے پرانے لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے اپنا حق سمجھا اور جو لوگ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مقرر تھے انہوں نے اپنا حق سمجھا۔ ان آیات میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ فتح صرف حق تعالیٰ کی طرف سے ہے حتیٰ کہ ملائکہ کا ارسال کرنا بھی صرف بشارت اور اطمینان قلب کے لیے تھا:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾
 (سورة الانفال، آیہ: ۱۰)

ترجمہ:- فرشتوں کو تو بشارت اور تمہارے اطمینان کے لیے بھیجا گیا اور دراصل مددِ اللہ کی طرف سے ہے۔ پس ان آیات کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آراء و جذبات سے قطع نظر کر کے حق تعالیٰ کے نیچے پر مال غنیمت کو تقسیم کریں اور جب خدا کا نام درمیان میں آجائے تو ہیبت و خوف سے کانپ اٹھیں اور اُسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں غرض عقیدہ و خلق و عمل اور مال ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ (از: تفسیر علماء شیعہ احمد عثمانی)

آیت نمبر ۳۲

﴿إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيَدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَنِ وَلَيُرِيْطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُبَيِّنَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَيْكُمْ أَلَّا مُلَائِكَةٌ

إِنَّمَا مَعَكُمْ فَبِتُّوا الَّذِينَ أَمْنُوا سَالِقُهُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعبُ ﴿٥﴾
 (سورة الانفال، آية: ۱۱-۱۲)

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ کو طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور اتا رات تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس پانی کے ذریعہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی و سوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمادے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، آپ ایمان والوں کی ہمت بڑھائیں میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔

قلت وسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے

جنگ بدر کا معز کہ سخت معز کہ تھا۔ کفار کی تعداد تین گناہ زیادہ تھی اور وہ مسلح تھے جبکہ مومنین بے سرو سامان اور تعداد میں تھوڑے تھے پھر کفار نے اپنے لیے اچھی جگہ لی اور وہاں پانی تھا۔ یہ بے چارے نشیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے، پانی کے بغیر غسل اور رضو کی تکلیف اور پیاس کی شدت شیطان نے وساوس ڈالے کہ تم مقبول ہوتے تو حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے۔ حق تعالیٰ نے اس وقت پانی بر سایا جس سے کفار کیچھ میں پھسنے لگا اور مومنین کے لیے ریت جنمگئی اور پانی جمع کر لیا اور پھر حق تعالیٰ نے ایک اونگھ طاری فرمائی جب آنکھ کھلی تو سارا تکان اور خوف و ہراس دور ہو گیا اور تازہ دم ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ کبھی تھوڑی چیز کو بندوں کے لیے کافی فرمادیتے ہیں اس لیے کوئی نعمت زیادہ نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ چھ کھنٹے کی نیند سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو ذرا دیر کی اونگھ سے حاصل ہوا۔

آیت نمبر ۳۳

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا سَتَجِيبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَحُوْلُ
 بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهَا إِلَيْهِ تُحَشِّرُوْنَ ﴿٥﴾
 (سورة الانفال، آية: ۲۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول علیہ السلام کا حکم مانو جب وہ تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اس کے دل کو اور اسی کے پاس تم جمع ہو گے۔

حقیقی زندگی اطاعتِ حق اور اطاعتِ رسول کا نام ہے

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اطاعتِ حق اور اطاعتِ رسول کے بدون زندگی صورۃ زندگی ہوتی

ہے، حقیقتہ زندگی، زندگی سے محروم رہتی ہے اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ حکم ماننے میں درینہ کیا کرو کہ شاید تھوڑی درینہ میں دل ایسا نہ رہے۔ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے تابع ہے جدھر چاہے پھر دے بے شک وہ کسی کے دل کو اپنی رحمت سے ابتداء نہیں روکتا نہ اس پر مہر کرتا ہے ہاں جب بندہ انتقالِ احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و عنا دکوشیوہ بنالے تو مہر کر دیتا ہے کَذَا فِيْ مُوْصَحِ الْقُرْآنِ اور بعض نے یہاں قرب کے معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَ قَلْبِهِ یعنی وہ بندہ کے اس تدریجِ قریب ہیں کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تو خدا کی حکم برداری کو سچے دل سے کرو، خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و اسرا ر پر مطلع ہے، خیانت اس کے آگے نہ چلے گی۔ اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے وہاں سارے اسرار کھول کر رکھ دیئے جائیں گے۔

آیت نمبر ۳۲

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(سورۃ الانفال، آیہ: ۳۳)

کافر لوگ طواف کی حالت میں کہتے تھے غفرانک اے خدا ہم کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کافروں کے لیے نازل فرمائی:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(سورۃ الانفال، آیہ: ۳۳)

اے نبی جب تک آپ ان کافروں میں زندہ ہیں اس وقت تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو جو بشارت دی ہے وہ دنیا کے لیے ہے کہ اگر کافر بھی استغفار کرتا رہے تو دنیا میں اس پر عذاب نہیں ہو گا لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا بوجہ ایمان نہ لانے کے۔

محمد عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ إِذَا كَانَ الْأَسْتِغْفارُ يَنْفُعُ الْكُفَّارَ فَكَيْفَ لَا يُفْيِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْأَبْرَارَ یعنی جب استغفار کافروں کو بھی نفع دے رہا ہے اور ان کو دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے تو مسلمان کو کیوں نفع نہ دے گا۔ (مرقاۃ، ج: ۵، ص: ۱۲۳)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشکوکہ

کی شرح مرقاۃ جلد نمبر ۵ کتاب الاستغفار میں نقل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سن لواور قیامت تک کے لیے سن لو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے دوامان نازل فرمائے تھے۔ فَرَفَعَ أَحَدُهُمَا تَوْزِعَاب سے نجات کا ایک ذریعہ تو ہم سے اٹھ گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اٹھا لیے گئے و بقیٰ شَانِيهِمَا اور دوسرا باقی ہے یعنی استغفار۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، گریہ وزاری کرتے رہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ عذاب سے بچ جاؤ گے جس سے بھی کوئی خطا ہو جائے دور کعات توبہ پڑھ کر اللہ سے رو لو استغفار کرو جہاں جہاں آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہیں جب ایک جو کو جنت میں داخل کریں گے تو پورا جسم ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ چہرہ تو جنت میں داخل کر دیں اور باقی جسم دوزخ میں ڈال دیں بس اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور بندوں کے حقوق میں کوتا ہی ہو جائے تو بندوں سے معاف کرائیں یہ نہیں کہ کسی کامال مار لیا اور زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، اس وقت مغض زبانی توبہ سے معافی نہیں ہو گی جب تک کہ اس کامال واپس نہیں کریں گے جب اس کامال اس کو دے دیں گے تب معافی ہو گی۔

آیت نمبر ۳۵

﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورة الانفال، آیة: ۳۲)

ذکر اللہ کے ساتھ تقویٰ اختیار کرو۔ ولا یت کی بنیاد نو افل پر نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کوئی نفل نہیں پڑھتا، صرف فرائض، واجبات و سنتِ موکدہ ادا کرتا ہے لیکن ایک گناہ بھی نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے **إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ** اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ متنی بندے ہیں۔

اور جو شخص رات بھر تجد پڑھتا ہے، دن بھر تلاوت کرتا ہے، ہر سال حج و عمرہ کرتا ہے لیکن کسی عورت کو دیکھنے سے باز نہیں آتا، بد نظری کرتا ہے، گناستنا ہے، غیبت کرتا ہے یہ شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا باوجود حج و عمرہ کے، باوجود تجد کے یہ فاسق ہے۔ جو گناہ کرتا ہے شریعت میں وہ فاسق ہے اور فرق و ولایت مجمع نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص جو فرض، واجب، سنت موکدہ ادا کرتا ہے لیکن ہر وقت با خدا ہے، کسی وقت گناہ نہیں کرتا یہ متنی ہے، ولی اللہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ولی اللہ ہیں وہ نو افل ضرور پڑھتے ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں بے چین رہتے ہیں، بغیر اللہ کے ذکر کے ان کو چین، ہی نہیں ملتا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو ذکر اللہ کا مزہ مل گیا وہ سر سے پیر تک ذکر میں غرق ہیں کسی اعضاء سے وہ گناہ نہیں ہونے دیتے کیونکہ ذکر کا حاصل ترک معصیت ہے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۳۲-۳۳)

اللہ کا نام لینے میں وہ شخص دنیا کی زمین پر جنت سے زیادہ مزہ پائے گا جو قویٰ اختیار کرتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جنت مخلوق ہے حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہیں اور واجب الوجود ہیں۔ کیا خالق کی لذت کو مخلوق پاسکتی ہے۔ جنت خالق نہیں ہے، مخلوق ہے تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور لذت کو مخلوق کیسے پائے گی جب کہ خود فرمارے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ نَّكِرَهُ تَحْتَ الْأَنْفَيْ وَاقع ہو رہا ہے جو فائدہ عموم کا دیتا ہے یعنی اللہ کا کوئی ہمسر نہیں تو پھر اللہ کے نام کی لذت کا کیسے کوئی ہمسر ہو سکتا ہے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۳۳)

ملاعی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہونے کی علامتیں دو ہیں نمبر ایک جس کو اللہ پناولی بناتا ہے اپنے اولیاء کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے:

﴿وَ مِنْ أَمَارَاتِ وَلَا يَتَّهِهَ أَنْ يُؤْزِقَهُ مَوْدَةً فِي قُلُوبِ أَوْلَيَاءٍ﴾

اور دوسرا علامت ہے:

﴿لَوْأَرَادَ سُوءًا أَوْ قَصَدَ مَحْظُورًا عَصَمَهُ عَنِ ارْتِكَابِهِ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، ج: ۵، ص: ۹۲)

کسی خلاف شریعت کام کا اگر وہ ارادہ کرے اور وہ صاحبِ نسبت ولی اللہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور گناہ کے ارتکاب سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یا تو گناہ کو اس سے بھاگا دیتے ہیں یا اس کو گناہ سے بھاگا دیتے ہیں، کوئی بے چینی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مقام وہ ہے کہ آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے قبول فرمایا ہے۔ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپناؤں بناتے ہیں تو اسے بھی پیتہ چل جاتا ہے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۳۶)

پانچ باتوں پر جو سو فیصد عمل کر لے گا۔ ان شاء اللہ یقین سے کہتا ہوں کہ بغیر ولی اللہ بنے ہوئے اس کا انتقال نہیں ہو سکتا:

- ۱۔ اہل اللہ کی مصاحبۃ
- ۲۔ ذکر اللہ پر مداومت
- ۳۔ گناہوں سے محافظت
- ۴۔ اسباب گناہ سے مباعدت
- ۵۔ ایتیاع سنت پر مُواضیبت
(یقمان حرم، صفحہ: ۵)

حصول ولایت کے پانچ اعمال

اب میں متن پیش کرتا ہوں یعنی پانچ اعمال جن سے آپ کو ولایت کا اسٹرکچر (Structure) اور فنچنگ (Finishing) معلوم ہو جائے گی۔

۱) اهل اللہ کی مصاحبۃ روئے زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت ہواں کی صحبت میں رہا کرو اور خواتین اس کی باتیں اور تقریر سنتی رہیں اور اس کی کتابیں پڑھتی رہیں۔ مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں گے اور عورتوں کا نوں سے صحبت یافتہ ہو جائیں گی۔ اس اللہ والے کا نیپس نسبت اور درودل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اُتر جائے گا۔ عورتوں رابعہ بصریہ ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کی دلیل کونوایم مع الصدقین ہے جس کا ترجیح ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ پڑو۔ لیکن کتنا عرصہ اللہ والوں کے ساتھ رہو؟ تفسیر روح المعانی پیش کرتا ہوں جو عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر ہے۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں خالطوهم لتکونوا مثلهم انتازیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ ان ہی جیسے ہو جاؤ۔ اگر ان جیسے نہیں ہوئے تو تمہارا کونوا جو ہے کونو ائمہ ہے کانا ہے۔ تم درود سے اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہو، جانبازی کے ساتھ نہیں ہو، اخلاص کے ساتھ نہیں ہو، محنتیت اور یہجڑے پن کے ساتھ ہو کہ جہاں تمہیں آسانی ملتی ہے شیخ کے ساتھ رہتے ہو، جہاں کہیں مشکل لگتی ہے، جہاں گناہ سے بچنا ہوتا ہے تو شیخ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو اور حرام لذت سے اپنی جان کو آشنا کر کے اس کو ناپاک اور پلید کر کے مقام لید پر پیچ جاتے ہو۔ بھلا یہ رفاقت ہے شیخ کی! یہ رفاقت نہیں ہے۔ ایسا شخص شیخ کے ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہے۔

۲) ذکر اللہ پر مداومت شیخ جوڑ کرتا ہے اس پر مداومت کرو، ہیئتگی کرو، کبھی نامنہ کرو، تحکم جاؤ تو تعداد کم کر دو مشتملاً اگر سو دفعہ ذکر کرتے ہو تو دس مرتبہ کر لو مگر نامنہ کرو اور اپنے نفس کے گریبان میں ممنہ ڈالو اور پوچھو کہ تمہارے کتنے دن رات ایسے گذرے ہیں جس دن تم نے ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہا اور کھانا کھا کر سو گئے حالانکہ کوئی عذر نہ تھا۔ اگر کسی دن زیادہ تحکم گئے اور سو دفعہ پڑھتے تھے تو دس دفعہ پڑھ لو، اور اگر تین سو مرتبہ پڑھتے تھے تو اس دن تیس مرتبہ پڑھ لو تو تمہارا تین سو دا ہا ہو جائے گا کیونکہ ایک پر دس کا وعدہ ہے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ نے مجھ کو ستر مرتبہ صلوٰۃ تجھیبا بتایا ہے اور میں جو نپور کی شاہی مسجد میں سولہ سبق پڑھاتا ہوں اور سب موقف علیہ سے اوپر کے ہیں یعنی مشکلہ شریف اور جلالیں کے اوپر کے۔ تو حکیم الامت نے لکھا کہ اگر آپ علم دین کی مشغولی سے ستر دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سات دفعہ پڑھ لیں، قرآن پاک میں ایک پر دس کا وعدہ ہے تو سات کو دس سے ضرب کرو، ستر دفعہ ہو جائے گا، شیخ ایسا حکیم الامت ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن آپ کوستی ہو اور

دل نہیں چاہتا تو کم از کم سوکی جگہ دس مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو ایسے ظالم مرید کو کہتا ہوں کہ اس دن کھانا مت کھاؤ، بغیر کھائے سو جاؤ۔ کچھ غیرت کرو شخ کی بات پر، ایک وقت نفس کو فاقہ کراؤ، یہ نفس بغیر سزا کے صحیح نہیں ہوتا، اس کا کورٹ مارشل کرنا پڑتا ہے مگر روح کو چیف ایگزیکٹو بننا پڑتا ہے، روح کا بھی یہ مقام ہونا چاہیے کہ نفس کو سزادینے کی طاقت رکھے، روحانیت اتنی قوی ہوئی چاہیے۔

(۳) **گناہوں سے محافظت** بابِ مفاہعت کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ بابِ مفاہعت میں فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے جیسے مقاتله میں قاتل دونوں طرف سے ہوتا ہے تو محافظت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ گناہ سے اپنے کو دور کیجئے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، بھاگیے بھی اور بھگائیے بھی تب محافظت ہوگی، بھاگو اور بھگاؤ، معشوقوں کو اپنے سے بھگاؤ اور خود معشوقوں سے بھاگو کیونکہ بعض معشوق ایسے ہوتے ہیں کہ جس رفتار سے آپ بھاگیں گے وہ اپنی تھوڑی سے اسپیڈ بڑھا کر آپ کو دبوچ لیں گے پھر آپ ایک نئے صوبے دبو چتان پہنچ جائیں گے، جہاں عاشق معشوق کو دبوچ لیتے ہیں، لہذا اتنا تیز بھاگو کہ فرار میں معشوق کی اسپیڈ آپ کو نہ پاسکے۔ اپنی جان کی بازی لگادو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آجائے گی۔ اللہ اس دبوچیا یعنی دبوچنے والے کو خود بھگا دیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ گناہ سے خود بھاگو اور گناہ کو بھگاؤ۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی معشوق آ جاتا ہے تو آپ اس کو کمرے سے بھگا دیجئے اور صاف کہہ دیجیے کہ آپ میرے ایمان کے لیے مضر ہیں، آپ کہیں دور جا کر بیٹھیے۔ اگر اس کو دعا تعلیم چاہیے تو کسی اور کے ذریعے بھجوادیجیے، آپ پیچ میں کوئی رابطہ بنا لیجئے یا کہیے کہ کسی کو فتح دیجیے میں اس کو تعلیم دے دوں گا، آپ کے خط کا جواب لکھ دوں گا، وہاں جا کر پڑھ لینا۔ اس میں بھاگنا بھی ہے بھگاگو اور بھگاؤ، جاگو اور جگاؤ۔

(۴) **اسبابِ گناہ سے مباعدت** گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے اور ان کو دور رکھیے، مثلاً لڑکیاں پی۔ اے (P.A) مت رکھو رنہ بے پئے ہر وقت پئے رہو گے۔ دنیا کا نقصان برداشت کرلو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ سوچو کہ اگر اپنے جزل اسٹور میں لڑکیاں رکھیں گے تو لڑکیوں کی وجہ سے گاہک زیادہ آئیں گے، دنیا تو ملے گی مگر مولیٰ نہیں ملے گا، دنیا تو ایک دن لات مارے گی اور قبر میں دفن ہو جاؤ گے پھر دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر کون کام آتا ہے۔

تو اسبابِ گناہ سے بھی بچو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ قید نہیں کہ ان میں حسن ہو، حسن ہو یا نہ ہو ان سے دور رہو۔ نامحمد عورتوں سے شرمی پرداہ کرو۔ پچازاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، بچو بھی زاد بھائی یہ جتنے ہزار دیں سب سے بچو اور ایسے ہی پچازاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بچو بھی زاد بھنوں سے بچو اور بھا بھی سے تو بہت ہی بچو۔ بعض وقت میرے پاس ایسے کیس آئے کہ ایک صاحب نے کہا میری بھا بھی دو

بجے رات کو آکے مجھے جگاتی ہے اور میرا بھائی ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے چھوٹے بچے کے لیے دودھ گرم کرنا ہے اور وہاں بلی بیٹھی رہتی ہے، مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھیا تم چل کے بلی کو بھگاؤ تاکہ میں دودھ گرم کر لوں۔ اور اگر بلی نہ بھی ہو تو بھی جب تک میں دودھ گرم کروں وہیں کھڑے رہنا کہیں بلی نہ آجائے۔ اب اس میں کیا کیا راز ہیں۔ بتاؤ! ایک غیر محروم مرد سے اس قدر قریب ہونا کہ وہ تہائی میں باور پھی خانے میں بلی بھگائے یہ سب شیطان کے ہتھنڈے ہیں۔ عورتیں آدمی عقل کی ہیں مگر بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑادیتی ہیں مگر سب ایک سی نہیں ہوتیں، بہت سی اللہ والی ہوتی ہیں مگر چاہے اللہ والی کیا رابعہ بصریہ بھی ہو لیکن تہائی میں اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں، اس کو دیکھنا اور گندے خیالات پکانا سب حرام ہے۔ اسی طرح لڑکوں سے احتیاط کرو خصوصاً جو لڑکے اللہ والے ہوں ان سے اور زیادہ احتیاط چاہیے کیونکہ شیطان یہ کہہ کر یہ اللہ والا ہے اس سے قریب کر دیتا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ جو اسباب گناہ سے قریب ہوا پھر اس کی خیر نہیں۔

تو اسباب گناہ سے مباعدت کے معنی ہیں کہ گناہ کے اسباب سے دور رہو، کسی کو قریب نہ آنے دو۔ اگر گناہ کے اسباب سے قریب رہو گے تو کب تک بچو گے ایک دن مبتلا ہو جاؤ گے۔

(۵) طریق سنت پر مواضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر قائم رہنا، یہ شریعت و طریقت کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا قریب ترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَإِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُنِّي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ﴾

(سورہ ال عمران، آیہ: ۳)

اے نبی! آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا چلن چلو اللہ تم کو پیار کر لے گا، میں اللہ کا ایسا پیارا ہوں کہ جو میری چلن چلتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ میرے دو شعر ہیں۔

گر ابتداء سنتِ نبوی کا ہو چلن

رفقار سے پوچھئے کوئی رفتار کا عالم

نقشِ قدمِ نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

یہ پانچ باتیں یاد کر لیجئے۔ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنادیں گی اور جلد بنادیں گی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا ولی اللہ بنانے کی یہ پانچ باتیں ضمانت ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (ولی اللہ بننے کے پانچ نئے صفحہ: ۲۲۰-۲۲۳)

آیت نمبر ۳۶

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

(سورة الانفال، آیة: ۳۶)

ہر لحظ حق تعالیٰ شانہ کے بے شمار انعامات و احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف دہ پیش آ جاتا ہے تو انسان نا شکر اور بے صبرا ہو جاتا ہے مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیض صحبت سے دین کی خوش فہمی عطا فرمائی ہے ان کا قلب سلیم رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا شفا خانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلولہ بادام کھلاتا ہے اور کبھی چرائیت و گلو نیب جیسی تلخ دوائیں پلاتا ہے اور دونوں حالتوں میں مریض ہی کافع ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں رحیم بھی ہیں پس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں خواہ راحت کے ہوں یا تکلیف کے ہر حال میں ہمارا ہی کافع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم الہی میں بعض بندوں کے لیے جنت کا جو عالم مقام تجویز ہو چکا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ انہیں کسی مصیبۃ میں مبتلا فرمادیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسمِ خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مومن کو کاش بھی چھتنا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب دنیا کے مصائب پر صبر کے عوض قیامت کے دن ثواب عطا ہونے لگیں گے تو ہر مصیبۃ زدہ بندہ تمبا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال قیچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی تو آج کیا ہی اچھا انعام ملتا۔

پس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لائے البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دعا خوب کرتا رہے کہ اے اللہ! ہم کمزور ہیں، بلاوں کے تحمل کی طاقت نہیں، آپ اپنی رحمت سے اس نعمت بلا کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرمادیجئے، مصیبۃ و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ بلاوں کا مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے اور عافیت مانگنا اپنے ضعف و عاجزی کا اظہار ہے جو عند اللہ محبوب ہے۔

اگر ہمیشہ عافیت و راحت ہی رہے تو مرا ج عبدیت استقامت سے ہٹ جائے بغیر تکلیف و مصیبۃ کے زاری و شکستگی پیدا نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے

دلوں کے پاس رہتا ہوں:

﴿إِنَّا عِنْدَ الْمُنْكَسَرَةِ قُلُوبُهُمْ لَا جُلُّ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الجنائز، باب عیادة المريض)

صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صبر تین ہوتا ہے۔ حزن و غم کی حالت میں جس توجہ عاجزی واخطرار کے ساتھ بندہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و گریہ وزاری کرتا ہے یا اخطرار راحت و عیش کی حالت میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی مصیبہ اس کو اللہ تک پہنچادیتی ہے اور قلب میں حق تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔

بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی

دشمنی خلق رحمت ہو گئی

(مجذوب)

ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالتِ حزن میں حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد اور تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے قلب میں ایک شکستگی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ کی خصوصی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایامِ خواہ عیش کے ہوں یا تکلیف کے سب کو فنا ہے۔ سب نہ تو عیش سے اترانے لگے نہ تکلیف سے شکایت و اعتراض کرنے لگے۔ راحت پر شکر اور تکلیف پر صبر و رضا و تعلیم سے کام لینا چاہے، مقصدِ حیات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سب مشکلوں کا حل نکل آئے اور مقصدِ حیات صرف رضائے حق کا حصول ہے اور حق تعالیٰ کے راضی کرنے کا طریقہ ان کے بتائے ہوئے قانون پر اہتمام سے عمل کرنا اور کوتا ہجیوں پر توبہ واستغفار کرتے رہنا ہے اگر اتباعِ سنت نصیب ہے تو عیش ہو یا تکلیف دونوں حال اس بندے کے لیے مبارک و مفید اور ذریعہ قرب و رضا ہیں۔ اگر اتباعِ سنت حاصل نہیں تو عیش کس کام کا۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ العزیز زکار ارشاد ہے کہ گنہگار اور نافرمان پر بھی تکالیف اور بلا کمیں آتی ہیں اور نیکوں پر بھی آتی ہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیسے ہو کہ یہ بلا تو تکلیف شامل اعمال ہے یا ذریعہ قرب الہی ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس مصیبہ و کلفت میں اتباعِ سنت نصیب رہے اور قلب میں حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ محبت و انس و رضا کا تعلق و رابطہ محسوس ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ذریعہ قرب الہی ہے اور جس تکلیف سے دل میں ظلمت و حشمت اور حق تعالیٰ سے دوری محسوس ہو اور توفیقِ انبات و گریہ وزاری نہ عطا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شامت اعمال بد کے سبب ہے۔ اس وقت استغفار کی

کثرت کرنی چاہیے۔ سورہ نوح میں استغفار کی برکت مذکور ہے کہ استغفار سے حق تعالیٰ بارش عطا فرماتے ہیں، باغات عطا فرماتے ہیں اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصہ تک یہ اشکال رہا کہ جو مقام حق تعالیٰ شانہ بعد مجاہدات کے سالک کو عطا فرماتے ہیں وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ بدوان مجاہد ہی وہ مقام عطا فرمادیں پھر ان کی رحمت مجاہد کی تکلیف کو اپنے بندوں کے لیے کیونگر گوارا کرتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خود بخود قلب میں اس اشکال کا حل وارد ہوا وہ یہ کہ بدوان مجاہد اگر تمام مقامات سالک کو عطا فرمادیئے جاتے تو نعمت کی قدر نعمت نہ ہوتی تو نعمت کا باقی اور اس کی ترقی نہ ہوتی جیسا کہ شکر پر نعمت کی زیادتی منصوص ہے اسی طرح اس کے عکس پر سلب کا خطرو تھا۔

احقر عرض کرتا ہے کہ حزن و اضطرار میں گریہ وزاری اور انبات کی جس درجہ توفیق ہوتی ہے راحت و عافیت میں عادۃ یہ توفیق کوشش گریہ اور نقلِ بکا سے بھی اس درجہ نہیں ہوتی۔ لیکن مصیبت کو طلب نہ کرنا چاہیے۔ طلبِ عافیت مطلوب ہے لیکن من جانب اللہ اگر کوئی رنج و مصیبت پیش آجائے تو گھبرا نہ چاہیے اور بے صبری نہ کرنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ اپنانا بنے کا انتظام فرمائے ہیں اور درجات بلند فرمائے ہیں، رنج والم بھی بندے کے لیے نعمت ہے کہ اس اضطرار میں دل سے دعا لکھتی ہے سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہوتی ہے اور لذتِ مناجات عطا ہوتی ہے جو خود ایک عظیم نعمت ہے۔ (معارفِ مشتوی، حصہ اول، صفحہ: ۹۳-۹۹)

آیت نمبر ۳۷

﴿يَا يَهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(سورہ الانفال، آیة: ۲۳)

صحابہ میں سب سے پہلے جن کو امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے اسلام لانے سے آسمانوں پر خوشیاں منائی گئیں اور یہ شرف ملا کہ جریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا:

﴿يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْشِرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ﴾

(سنن ابن ماجہ، ص: ۱۱)

آج عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر فرشتے خوشیاں منار ہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا درجہ تھا ان حضرات کا کہ جن کے اسلام لانے سے، کلمہ پڑھنے سے آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں اور یہ خبر دینے والے حضرت جریل علیہ السلام اس وقت ایک آیت لے کر نازل ہوئے اور آیت کیا تھی؟ یا یہاں النبی حسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ کیلئے اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع دار اور غلام

یہ مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی حالانکہ چالیس آدمی ایمان لا چکے تھے۔ ان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اس کی شان نزول حضرت عمر ہیں یعنی ان کا اسلام لانا اس آیت کے نزول کا سبب ہوا کہ اے بنی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور طاقتور صحابی آپ کو دیا جا رہا ہے ایسے تابع دار مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا بِيَهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ پَرْ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کو کیوں عطف کیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی کفایت کے باوجود ایمان والوں کی کفایت یعنی کافی ہونے کا تذکرہ کیوں کیا گیا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اللہ کے کافی ہوتے ہوئے پھر مومنین کی کفایت کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دکھانی تھی کہ ان کے آتے ہی کعبہ میں اذان ہوئی اور جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ ان کے ایمان لاتے ہی صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا یہاں تک کہ کعبہ تک تکبیر کی آواز پہنچ گئی اور حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم خفیہ نماز کیوں ادا کریں الہذا دو صفتیں بنائیں۔ ایک صفت میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، ایک صفت میں خود ہوئے اور نیچے میں شمع نبوت کو رکھا اور یہ دو صفوں کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں آئے اور نماز ادا کی اور اسلام کو سر بلند کر دیا۔ کَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ إِسْلَامِ عُمَرَ فِيْ غَايَةِ الْخِفَاءِ وَ بَعْدَهُ عَلَىْ غَايَةِ الْجَلَاءِ اسلام پہلے جتنا پوشیدہ تھا ان کے ایمان لانے کے بعد اتنا ہی واضح ہو گیا۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کفایت کے ساتھ مومنین کی کفایت کو اس لیے فرمایا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی کفایت ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی بندہ کے لیے کافی ہے لیکن ایک کفایت ظاہری بھی ہوتی ہے، فوج و شکر کی طاقت بھی ہوتی ہے تاکہ ظاہری طور پر بھی دشمنوں پر رباع جم جائے۔ طواف کے دوران میں کیوں ہے کہ دوڑ کر چلو؟ کافروں پر رباع جم جائے۔ معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ بھی نعمت ہیں۔ اپنے دوستوں کی تعداد پر شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ مہتمم ہیں، کسی دینی ادارہ کے مدیر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دینی خدمت میں مدد کرنے والے دے دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ کفایت ظاہرہ میں سے ہیں۔ کفایت حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندہ کے لیے کافی ہے مگر ظاہری اسباب بھی ایک نعمت ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کو س قدر ترقی ہوئی۔ (حقوق النساء، صفحہ: ۹)

آیت نمبر ۳۸

﴿إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾

(سورة التوبہ، آیہ: ۲۵)

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِبِينَ﴾

(سورة النحل، آیہ: ۲۳)

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(سورة الجاثیة، آیہ: ۲۷)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے یعنی جو لوگ اپنے کو کسی درجہ میں بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑائی آئی اور اللہ کی محبت ٹوٹ گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ متکبر سے محبت نہیں فرماتے تو وہ غیر محبوب ہوا۔ اس قضیہ کا عکس کر لیجئے تو یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے نارانگی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس قضیہ کا عکس کیا جائے تو یہ مطلب نکلے گا کہ نارانگی ہے۔ پس جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں جب تک کہ تو بہ نہ کریں۔ **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِبِينَ** یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا جو لوگ متکبر ہیں اور متکبر ہیں گے یعنی جب تک تو بہ نہ کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہیں گے۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ملفوظات کمالات اشرفیہ میں ہے اس آیت کی بہترین تفسیر ہے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ نالائق و گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے اور سر سے پیر تک میں قصور و ارہوں تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب اپنی نظر میں وہ بُرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بُرا ہوتا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں بھلے ہو جائیں تو فائدہ ہے یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے، انسان اپنی عقل سے فصلہ کر لے۔

آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں بڑائی کا حق بھی تو تم کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں **وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ بُرَأَيُ اللَّهِ هِيَ كُوْزِيْبَا هِيَ صَرْفُ اللَّهِ هِيَ كَيْ** کے لیے خاص ہے، لام تخصیص کا ہے اور تقدیم ما حقہ التا خیر یقید الحصر، اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب بیان خود بتاتا ہے کہ کبریاًی اور بڑائی صرف اللہ کا حق ہے جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ لہذا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہو گا کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے بلکہ

ترجمہ یہ ہو گا کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی مخلوق کے لیے بڑائی نہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کو بڑائی ہے آسمان و زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔

اب یہاں ان دو اسماء کے نازل کرنے میں کیا خاص بات ہے؟ ننانوے ناموں میں سے یہاں عزیز و حکیم کیوں نازل فرمایا؟ بات یہ ہے کہ بڑائی کی وجہ صرف دو ہی ہوتی ہیں، زبردست طاقت اور زبردست طاقت کا حسن استعمال یعنی حکمت اور قاعدہ سے طاقت کا استعمال۔ لہذا ان ناموں کو نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری بڑائی کی وجہ یہ ہے کہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں، جس چیز کا ارادہ کروں بس کُنْ کہتا ہوں اور وہ چیز وجود میں آجائی ہے کُنْ فَيَكُونُ اور میری زبردست طاقت کے ساتھ ساتھ میری زبردست حکمت، دانائی، سمجھ اور فہم کا فرمادہ ہوتی ہے اور جیسا کہ وہاں طاقت کا استعمال ہونا چاہیے اس طریقہ سے میری طاقت حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھئے اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے لیکن ہو یو قوف تو پھر کسی کی خیریت نہیں ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کبھی ابا کو ایک گھونسہ لگا دیا، کبھی چھوٹے بھائی کو لگا دیا، کبھی اماں کو پیٹ دیا۔ اس لیے بڑائی کا وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت کو زبردست حکمت کے ساتھ استعمال کرے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ ہم زبردست طاقت والے اور زبردست حکمت والے ہیں۔

اور تیسرا آیت جو حضرت حکیم الامت نے خطبات الاحکام میں عجب و کبر کے بیان میں تلاوت فرمائی یہ ہے:

﴿إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾

(سورة التوبہ، آیہ: ۲۵)

(اور یاد کرو) جب (جنگ حنین میں اپنی) کثرت پر تم کو ناز ہوا تو وہ (کثرت) تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری (ج ۳، ص ۱۵۲) میں تحریر فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں کافروں کی تعداد چار ہزار ہی اور مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ لہذا بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ نظر ہو گئی کہ ہم لوگ آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں بس آج تو بازی مار لی، آج تو ہم فتح کر رہی لیں گے اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے یعنی اسہاب پر ذرا سی نظر ہو گئی۔ اپنی کثرت تعداد پر کچھ ناز سا پیدا ہو گیا کہ ہم آج

تعداد میں کفار سے بہت زیادہ ہیں، آج تو فتح ہو ہی جائے گی۔ چنانچہ شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اپنی کثرت بھلی معلوم ہوئی اور ہماری نصرت سے نظر ہٹ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے توبہ و استغفار کی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، فوراً مدد آگئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح میں نصیب فرمائی۔

مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ ان کی مجلس کو جن لوگوں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت کی مجلس کی بالکل نقل تھی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُواْ أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً﴾

(سورة النمل، آیہ: ۳۲)

جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو بر باد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں یعنی بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیتے ہیں تاکہ کبھی بغاوت نہ کر سکیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے قلب میں اپنی عزت کا اور اپنی عظمتوں کا جھنڈا اہراتے ہیں، جس کے دل کی بستی کو اپنے لیے قول فرماتے ہیں اس دل کے کبر کے چوہدری کو، عجب کے چوہدری کو، ریاء کے سردار کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کے نفس کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا کبر اور نسبتِ مع اللہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص ہرگز صاحبِ نسبت نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔

آیت نمبر ۳۹

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا﴾

(سورة التوبہ، آیہ: ۵۱)

لنا کالام یہاں نفع کے لیے ہے۔ مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں مومن ہی کا نفع ہے۔ اس کے بعد حکیم الامت نے منفی صاحب سے فرمایا کہ چونکہ آپ منطقی آدمی ہیں اس لیے منطق سے سمجھاتا ہوں کہ مومن کو جو تکلیفِ اللہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن کا ہی فائدہ ہے۔ مومن کو جو تکلیف یا بلا اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اس میں صرف چار صورتیں ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں کہ پانچویں کوئی صورت نہیں ہے۔

(۱) مومن کو تکلیف دے کر اللہ سو فیصد فائدہ اٹھا لے یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے لہذا یہ صورت محال ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سو فیصد نفع نہ لے، پچاس فیصد لے یعنی فنٹی فنٹی کر لے کہ پچاس فیصد بندے کو دے دے، پچاس فیصد خود لے لے۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ اس میں بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم

آتا ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں نہ کم نہ زیادہ۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔

(۳) تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندہ کا فائدہ ہوتہ اللہ کا۔ جس کو چاہا کھائی دے دی، جس کو چاہا بخار دے دیا، کسی کو صدمہ غم دے دیا، کسی کا ایکسیڈنٹ کرایا جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں تو بے فائدہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا، فضول اور لغو کام کرنا یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

(۴) اب صرف چوتھی شکل باقی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں سوفیصلد مومن ہی کا فائدہ ہے۔ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا میں لام نفع کے لیے ہے ورنہ علی آتا جو ضرر کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کہتا ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو تشكیر کی کیفیت غالب رہے تو تکبر پاس نہیں آئے گا۔ تکبر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر تشكیر غالب ہو کیونکہ تشكیر سبب قرب ہے، شکر کرنے سے قرب الہی بڑھتا ہے اور تکبر سے بعد اور دوری ہوتی ہے اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔ (انعامات الہیہ، صفحہ: ۱۵-۱۳)

آیت نمبر ۳۰

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾
سورۃ التوبۃ، آیہ: (۱۱۱)

مشتری میں اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ بھی جاذب ہوتے ہیں کیونکہ اشتیری کے لوازم میں جلب المشتری امبیع ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ! آپ تو تمام کھینچنے والوں سے قوی اور غالب ہیں پس ہم کو گناہوں میں بٹلا کرنے کے لیے جو تقاضے اور جو اسباب مثلاً حسنِ مجازی وغیرہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو آپ اگر اپنے کرم سے ہم کو اپنی طرف جذب فرمائیں گے تو کونکہ آپ غالب ہیں سب پر اس لیے ہم یقیناً آپ ہی کے ہو جائیں گے اور غیروں کا جذب بے اثر ہو جائے گا۔
نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا
آنہیں کا آنہیں کا ہوا جا رہا ہوں

ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک اشکال یہ ہے کہ تجاذب کے لیے ہم جس ہونا شرط ہے بقاعدہ مشہورہ۔
کند ہم جس با ہم جس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز

تو حق تعالیٰ تو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں وہ پاک ہیں اور ہم ناپاک وہ باقی ہیں اور ہم فانی تو جواب یہ ہے کہ جذب کے لیے ہم جنس ہونا جو مشروط ہے وہ جذب طبعی کے لیے ہے لیکن جذب عقلی اور جذب ارادی کے لیے ہم جنس ہونا شرط نہیں۔ جس طرح انسان اپنے جانور کو چرواہی کے وقت دوسروں کے کھیتوں سے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ خیانت نہ ہو جائے پس یہ جذب عقلی اور ارادی ہے نہ کہ طبعی کیونکہ انسان اور جانور کے طبائع ہم جنس نہیں ہیں البتہ اس مثال میں انسان کبھی اپنے جذب میں ناکام ہو سکتا ہے مثلاً جانور مضبوط ہو جیسا کہ قربانی کے جانور بعض وقت ہاتھ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں اگرچہ گرفت کتنی بھی مضبوط رکھی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جذب کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی گرفت اور قوتِ جذب غالب ہے اور ہماری قوتِ گریز مغلوب ہے اگرچہ نفس و شیطان اور اسباب معاصری اور تمام اہل زمانہ اپنی اجتماعی قوت سے اس نفسِ امارہ بالسواء کی اعانت بھی کریں تب بھی وہ ذات پاک ہمارے جذب پر غالب ہی ہو گی۔

(معارف مشوی، حصہ سوم، صفحہ ۲۵۳-۲۵۴)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

(سورة التوبہ، آیہ: ۱۱۱)

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدله میں خرید لیے ہیں۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفسہم فرمایا قلوبہم اور آراؤ احہم نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ بازار میں عیب دار سودے کو خریدتا ہے تاکہ اس کا مالک جو سمجھتا ہے کہ میرے اس عیب دار مال کو کون خریدے گا خوش ہو جائے تو قلب اور روح کے مقابلہ میں نفس کیونکہ عیب دار سودا تھا اس لیے اس کریم مالک نے اس کو خریدنے کی بشارت دے دی تاکہ بندے خوش ہو جائیں کہ ہمارا عیب دار سودا خرید لیا گیا۔ (کشول معرفت)

آیت نمبر ۲۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْمًا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

(سورة التوبہ، آیہ: ۱۱۹)

تصوف کی حقیقت

آج کل لوگوں نے چند طفیلوں پر، چند تسبیحات پر اور چند خوابوں اور مراقبات پر اور نفلی عبادات پر تصوف کی بنیاد رکھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اعلان سن لیجئے:

﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ هُدَىٰ لَا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورة الانفال، آیہ: ۳۲)

ہمارے ولی صرف متین بندے ہیں۔ تصوف کی حقیقت صرف تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر اللہ والوں کے پاس رہنا ہے تو تقویٰ سیکھئے اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجئے۔ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی معیت اہل اللہ سے مقصود کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ کیونکہ یاٰیہَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ میں تقویٰ کا حکم ہے اور وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ حصول تقویٰ کا طریقہ ہے۔

معیت صادقین کے دوام واستمرار پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا ہے اور کُونُوا امر ہے اور امر بتا ہے مضارع سے اور مضارع میں تجد استمراری کی صفت ہوتی ہے جس کا مطلب ہوا کہ استمرار اور دوام اہل اللہ کے ساتھ رہو، کوئی زمانہ اہل اللہ سے مستغنى نہ رہو۔ لہذا اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً دوسرا شیخ سے تعلق قائم کرنا چاہیے جیسے ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو طبعی غم ہونا ہی چاہیے لیکن اب اس کی قبر پر جا کر کوئی نجکشن لگو سکتا ہے؟ فوراً دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو اپنی اصلاح کے لیے دوسرا شیخ تلاش کیجئے۔ جس طرح جسمانی علاج زندہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، روحانی اصلاح زندہ شیخ ہی سے ہوتی ہے۔

دیکھئے میرے مرشد شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبدالرحمٰن صاحب سے تعلق قائم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب سے تعلق کیا، ان کے انتقال کے بعد شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری کو پیر بنا یا ان کے بعد شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بعد مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کتنے مشايخ بدلتے۔ یہ لوگ ہیں جو دین کو خوب سمجھتے ہیں اور یہ ان کا کمال اخلاص ہے کہ ہمیشہ اپنے کو اہل اللہ کا محتاج سمجھا حالانکہ خود شیخ وقت ہیں۔ (فیوض ربانی، صفحہ: ۶۵-۶۶)

مفسرین اور ہمارے اکابر کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ترجمہ کُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُّقْتَنُونَ﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۲۷)

معلوم ہوا کہ صادقون اور مستقون کلیاں متساویان ہیں، ہر صادق متین اور ہر متین صادق ہے، دونوں میں نسبت تساوی ہے۔ پس اے اللہ! اولیاء صدق یقین کا گروہ لا تعداد بے اندازہ اور ان گنت آپ نے پیدا فرمایا ہے ان کے نور صدق و تقویٰ میں ہم کو بھی غرق کر دیجئے اور ہم کو بھی اہل صدق و صفا بنا دیجئے یعنی جو صدق و صفا

میں آپ کے ساتھ باوفا ہیں ان اولیاء کی صفائی میں ہم کو بھی شامل فرمادیجئے۔

اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں صادق ال وعد اور صادق العہد ہو بیہاں تک کہ جان دے دے مگر اللہ کو ناراض نہ کرے اور جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے گریز کرتا ہے، گناہ کی لذت کو چھوڑ نے کاغم نہیں اٹھاتا، اپنے کو مجاہدہ کے غم سے بچانے کے لیے گناہ کرتا ہے کہ جہاں تقاضا ہوا نفس کی بات مان لی تو یہ شخص صادق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ باوفا ہیں ہے بلکہ عملاً منافق ہے یعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے اگرچہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور ٹھُٹھما تا ہوا ہے گویا کہ صرف زبان پر ایمان ہے اگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہ کرتا۔ جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہوں کو اور ہننا بچھونانہیں بنا سکتا، اس کو چھین نہیں آئے گا جب تک توبہ و گریہ وزاری سے اللہ کو راضی نہ کر لے۔ (فغان روی، جن: ۲۷۷)

لوگ کہا کرتے ہیں کہ آج کل شیخ اور مرشد اچھے نہیں ملتے، اس لیے ہم کہاں اور کس کے پاس جائیں؟ مگر ان کی یہ بات صحیح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا الزام ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایلٰهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈر و اور (عمل میں) پچھوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے صادقین کو پیدا فرماتے رہیں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ جس کا وجود اس کے کارخانہ قدرت میں نہ ہو ”تکلیف مالایطاق“ ہے جس سے اس کی ذات بری ہے جس کی شہادت یا آیت کریمہ دے رہی ہے:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

(سورة القراءة، آیہ: ۲۸۶)

اللہ تعالیٰ کسی تنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہر دور اور ہر عہد میں باصدق و باصفا مشانخ کا ہونا لازمی ہے تاکہ لوگوں کو ان کی صحبت و معیت کا شرف حاصل ہوتا رہے جس سے اللہ کی یاد آئے، دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے۔ کوئی ان مشانخ اور بزرگوں کو نہ جانے اور نہ پہچانے تو یہ اس کی کورنگا ہی ہے اور طبیعت کی سہل انگاری کا کرشمہ ہے، اس میں قانون قدرت کا کوئی تصور نہیں۔

دیکھئے! آج کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس علاج کے لیے ضرور جاتا ہے، ایسے مریض کے لیے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنائیا کہ آج کل کے ڈاکٹر اور حکیم اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے اپنی حالت میں رہنے دو، میں علاج نہیں کرتا، ہاں حکیم اجمل خاں اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو ان سے

میں علاج کراؤ گا۔ توجہ لوگ اپنے امراض جسمانی میں اسی زمانے کے حکماء جسمانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور شفا پاتے ہیں تو کیا اپنے امراض روحانی میں اس دور کے حکماء روحانی سے ربط و تعلق پیدا کر کے ان امراض سے نجات نہیں پائیں گے؟ یقیناً پائیں گے اگر لوگوں کے اندر اس کی فکر ہو اور مرض کا احساس ہوا ویری خیال ہو کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔

(روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۲۸۵-۲۸۷)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کی پیشکش

اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ اے ایمان والو! میرے دوست بن جاؤ۔ میں تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تقویٰ فرض کرتا ہوں اور ولی اللہ بننا، میرا دوست بننا یہ تمہارا اختیاری مضمون نہیں ہے، لازمی مضمون ہے۔ بتاؤ تقویٰ فرض کرنا کیا اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے اور تقویٰ ہی اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۳۲)

اللہ کے اولیاء صرف متقدی بندے ہیں۔ پس آیت اتَّقُوا اللَّهَ میں تقویٰ لازم کر کے گویا اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلامی کے دائرہ سے اٹھا کر اپنی دوستی کے دائرہ میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی والا یت کا تاج ہمارے سر پر رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے تقویٰ فرض کر کے گویا ہر مومن کو اپنا دوست بننا فرض کر دیا کیونکہ اللہ کی دوستی کا ماذہ ترکیبیہ یعنی (Material) صرف دوہی جز سے بنتا ہے۔ ایک ایمان دوسری تقویٰ، جس کا ایک جز یعنی ایمان تو تمہارے پاس موجود ہی ہے دوسرا جز تقویٰ اور حاصل کرلو تو وہی ہو جاؤ گے لیکن اس جز سے تم پچھے ہٹنے ہو، بھاگتے ہو جبکہ تمہاری طبعی شرافت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ نافرمانی دوستی اور وفاداری کے خلاف ہے۔ مزید احسان اور کرم بالائے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بندوں نے درخواست نہیں کی تھی کہ اے خدا ہم سب کو اپنا ولی بنائے کیونکہ منی اور حیض کے ناپاک میٹریل (Material) سے پیدا ہو کر بندے اس کا لتصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اللہ کے دوست ہو جائیں مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری مایوسیوں اور ناممیدیوں کے بادولیں سے امید کا چاند طلوع فرمایا اور یاًيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ نَازِل فرمادی تھیں اپنا دوست بنانے کی پیش کش فرمادی کہ جس چیز کو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کی ہم پہل کرتے ہیں اور اتنے بڑے اور عظیم الشان مالک ہو کر ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پہل ہم نے کی ہے تم نے یہ پہل نہیں کی کیونکہ تم پہلوان نہیں ہو،

کمزور ہو، اپنی قوتِ ارادیہ کی شکست و ریخت سے تم ہمیشہ غزدہ اور پریشان رہتے ہو، ارادے کرتے ہو لیکن شیطان اور نفس کے غلبے سے وہ پھرلوٹ جاتے ہیں تو ایسے کمزور و ضعیف بندے اللہ کا ولی بننے کا تصور کیسے کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبوبیت کا ایک اور راستہ

اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیارا راستہ بتا دیا کہ ہم تمہارے اس ضعف اور کمزوری کے باوجود تمہیں اپنا دوست بنا رہے ہیں تاکہ تمہارے ارادے تو بہ کے ٹوٹنے نہ پائیں اور اگرلوٹ جائیں اور ہماری دوستی میں تم کمزور پڑ جاؤ تو پھر تو بہ کرلو، پھر اشکبار ہو جاؤ اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ہم تو بہ کرنے والوں کو اپنے دائرہ محبوبیت سے خروج نہیں ہونے دیتے اور تو بہ کی برکت سے صاحب خطاصاحب عطا ہو جاتا ہے اور صاحب ذنب لا ذنب ہو جاتا ہے۔

﴿الْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب الرہد، باب فی ذکر التوبۃ)

تو بہ کی برکت سے بندہ اپیا ہو جاتا ہے گویا اس سے گناہ ہو ائی نہیں اور وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ معافی تو دیتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ بھی معاف کر دیا لیکن سامنے مت آیا کرو، تم کو دیکھ کر تمہاری اذیتیں یاد آ جاتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کسی گنہگار سے نہیں فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارے نماز پڑھنے سے اور میرے سامنے تمہارے اشکبار ہونے سے اور آہ و فغاف کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہاری سابقہ کافرانہ اور فاسقانہ حرکتوں اور بدمعاشیوں سے مجھے اذیت ہوتی ہے بلکہ فرمایا کہ تم اگر تو بہ کرلو تو ہم تم کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنا پیارا بنا لیں گے۔ **الْتَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ** تو بہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔

وصول الی اللہ کی شرط

اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوست بنانے کا جو حکم دیا ہے اس کو اختیاری نہیں رکھا بلکہ فرض کر دیا تاکہ تم خالی میرے مومن غلام ہی نہ رہو، مومن دوست بن جاؤ تمہاری غلامی کے سر پر تم تابع ولایت رکھنا چاہتے ہیں مگر بغیر اپنے کو پاک کیے ہوئے تم اللہ پاک کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ پاک ہے، ناپاک کو نہیں ملتا، جس کا ترکیہ ہو گیا اسی دن وہ ولی اللہ اور صاحب نسبت ہو گیا۔ ترکیہ اور نسبت میں ایک ذرہ کا فرق نہیں۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چوں شدی زیبا بدان زیبا رسی

جب تم بد نظری، عشق مجازی، حسن پرستی، تکبر، غصہ، حسد، کینہ وغیرہ تمام بآہی اور جاہی رذائل سے پاک ہو کر زیبائو جاؤ گے تو وہ حقیقی زیبائی یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا پیار کر لے گا کیونکہ زیبائی کسی نازیبائی کو پیار نہیں کرتا، زیبائی بیباہی کو پیار کرتا ہے جس دن مزکی ہو گئے، تمہارے اخلاقِ رذیلہ اخلاقِ حمیدہ سے بدل گئے اسی دن نسبت عطا ہو جائے گی۔ پس گناہ سے اپنی روح اور قلب کو پاک کرو تو اللہ پاک اپنی تجلیاتِ خاصہ سے تمہارے دل میں آجائے گا۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب کی طہارت اور قلب کی حفاظت کے لیے جہاں تقویٰ کا یعنی اپنی دوستی کا حکم دیا ہیں اس کا راستہ بھی بتا دیا اور یہ کمالِ رحمت ہے کہ حکم دے کر اس پر عمل کا طریقہ بھی بتا دیا تاکہ آسانی سے تم اس حکم کے نتیجہ کو پالو اور متقیٰ یعنی میرے دوست ہو جاؤ اور اس میں یہ راز بھی پوشیدہ ہے کہ تم لوگ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے جب تک میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرو گے کیونکہ تمہارے پاس جو نفسِ امارہ ہے اس کو اولیاء اللہ کا نفس بنانے کے لیے ایک ٹیکنالوجی (Technology) اختیار کرنا پڑے گی۔

چودہ سو برس قدیم آسمانی ٹیکنالوجی

اب اختر کی زبان سے سامنس سنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ سامنس نہیں جانتے، ابھی بتاؤں گا کہ مولوی جو سامنس جانتا ہے اس کی خبر سامنس دانوں کو بھی نہیں ہے۔ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے پیوند کاری سامنس نے اب ایجاد کی ہے لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں چودہ سو برس پہلے گُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ کی ٹیکنالوجی نازل کی کہ اگر تم اپنے دیسی دل کی اللہ والوں کے دل سے پیوند کاری کرو، اپنے دیسی دل کو اللہ والوں کے دل سے باندھ لوتو تمہارا دیسی دل کی اللہ والوں کے دل سے چودہ سو برس پہلے گُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ کی ٹیکنالوجی نازل کی کہ دیسی اور غافل دل کو کسی اللہ والے صاحب نسبت دل سے ملا دو۔

قریب حلتے ہوئے دل کے اپنادل کر دے

یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

اور گُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ کی ٹیکنالوجی حیوانات و نباتات کی ٹیکنالوجی نہیں ہے اشرف الخلوقات کی ٹیکنالوجی ہے۔ ان سامنس دانوں کی ٹیکنالوجی تو دیسی آم کو لنگڑا آم بناتی ہے، نبات ادنی کو نبات اعلیٰ بناتی ہے لیکن چودہ سو برس پہلے گُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ کی جو ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ انسان ادنی کو انسان اعلیٰ بناتی ہے، یہ غافل اور نافرمان انسانوں کو اللہ والہا بنا کر صحیح

معنوں میں اشرف المخلوقات بنتی ہے۔ ان سائنس دانوں کی ٹیکنالوجی حیوانات اور بنا تات کے لیے ہے لیکن انبیاء کیونکہ اشرف الناس ہیں ان کی ٹیکنالوجی اشرف المخلوقات کے لیے ہے۔

کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی پیوند کاری کا طریقہ

لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص خالی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ! مجھے متقی بنا دے اور متقی بنے کی تدبیر نہ اختیار کرے تو خالی دعاوں سے متقی نہیں ہونے گے۔ اگر دیسی آم دس ہزار سال تک دعا کرتا رہے کہ اے خدا! مجھے لئنڑ آم بنا دے لیکن جب تک لئنڑے آم کے ساتھ پیوند کاری کی ٹیکنالوجی اس کو نہیں ملے گی دیسی ہی رہے گا۔ الہذا اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس پہلے کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ اُمّت کو عطا فرمائی کہ تمہارے گنگا ر قلب اور گناہوں کا خوگر قلب کیسے متقی بنے گا؟ کسی متقی سے متصل ہو جاؤ اور اس کے ساتھ رہ پڑو اور کتنا رہو؟ تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر ہے خالِطُوهُمْ لَتَكُونُوا مِثْلُهُمْ اتّنَارُهُوكُمْ بھی اس اللہ والے جیسے بن جاؤ یعنی جیسا وہ اللہ والے ہے تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، اس کا تقویٰ، اس کی خشیت اس کی محبت تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ اگر تم دیسی نہیں بن پا رہے تو پھر کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ٹیکنالوجی پر تمہارا عمل کمزور ہے، تمہاری پیوند کاری صحیح نہیں اور تمہاری خیانت اس میں پوشیدہ ہے تم نے اپنے دل سے صاف دل سے اور پکے ارادے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پناہ دیں بنا یا اور اس اللہ والے سے تمہارا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہے کہ اپنی رائے کو تم نے فنا نہیں کیا، اس کی تجویزات اور مشوروں کی اتباع کامل نہیں کی، یہی دلیل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تمہاری پیوند کاری صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ اس ارادے سے رہنا ہے کہ اللہ ہماری مراد ہو جائے اور وہ مراد مل بھی جائے۔ ایک ہے مراد ہونا، دل میں ارادہ ہونا کہ میری یہ مراد ہے اور ایک مراد مل جانا ہے، مراد کا پا جانا ہے دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تو ہر مومن کا مراد ہے مگر دل میں مراد پا جاؤ، اللہ تعالیٰ مل جائے، مولیٰ کا قرب خاص دل محسوس کرنے لگے یہ بغیر اس ٹیکنالوجی کے اور اس پیوند کاری کے یعنی صاف قلب سے اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ رہے بغیر ممکن نہیں۔ اگر اللہ والے سے صحیح تعلق نصیب ہو جائے تو ایک دن ضرور بالاضر و اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے۔ کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ، ہمارے سچے بندوں کے ساتھ رہو اور صادقین سے مراد مقتین ہیں اور مقتین سے مراد اللہ کے اولیاء اور پیارے ہیں:

﴿إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۳۲)

ہذا پیاروں کے ساتھ رہو گے تو پیارے بن جاؤ گے اور صادقین سے مراد متفقین ہیں اس کی دلیل ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُمْتَقُونَ﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۲۷)

معلوم ہوا کہ جو صادق ہے وہ متفق ہے اور جو متفق ہے وہ صادق ہے اور جو متفق ہے وہ اللہ کا دوست ہے لہذا اللہ کے دوستوں کے ساتھ پیوند کاری کی ٹیکنا لو جی حاصل کرو۔ دلیل آم کے لنگڑ آم بننے کی بھی ایک حد اور (Limit) ہوتی ہے کہ اتنے دن تک لنگڑے آم کے ساتھ رہے۔ کہ دلیل آم کی بواور خاصیت ختم ہو جائے اور لنگڑے آم کی خوبیوں، لذت اور خاصیت آجائے اسی طرح متفقین صادقین یعنی اللہ کے دوستوں کے ساتھ نہایت قوی تعلق سے، اخلاص نیت سے اور اللہ کو دل میں مراد بنا کر اتنے زمانے تک رہو کہ ان اللہ والوں کی عادت و خصلت، ان کا تقوی، ان کی خشیت، ان کی محبت اور ان کی وفاداری، ان کی آہ و زاری، ان کی اشکباری اور ان کی یاری تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے۔

اولیاء اللہ کی صفت ولی سازی

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج میں گرمی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور چاند کو ٹھنڈک اللہ نے بخشی ہے اسی طرح اللہ والوں کے اندر اللہ نے ولی سازی کی خاصیت عطا فرمائی ہے یعنی ان کی برکت سے دوسرے لوگ بھی اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ یہ خاصیت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، جب خود ان کا ولی بننا اللہ کی عطا ہے تو ولی سازی کیسے ان کی ذاتی خاصیت ہو سکتی ہے۔ جس طرح مشہور ہے کہ

آہن کہ ب پارس آشنا شد
فی الغور بصورت طلاء شد

جو لوہا پارس پتھر کے ساتھ مل جائے، متصل ہو جائے، Touch ہو جائے، چھو جائے تو وہ لوہا فوراً سونا بن جاتا ہے تو پارس پتھر میں لوہے کو سونا بنانے کی جو خاصیت ہے وہ پارس پتھر کی ذاتی نہیں ہے اس کو دی گئی ہے اسی طرح اللہ والوں کے اندر ولی سازی یعنی ولی اللہ بنانے کی خاصیت ان کی ذاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔

کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ٹیکنا لو جی کا طریق حصول

نباتِ ادنیٰ کو باتِ اعلیٰ بنانے کی ٹیکنا لو جی یعنی دلیل آم کو لنگڑ آم بنانے کی سائنس دانوں کی ایجاد تو اس صدی کی ہے لیکن انسان ادنیٰ کو انسان اعلیٰ، فاسق اور فاجر کو ولی اللہ اور غافل اور نافرمان کو حقیقی

معنوں میں اشرف الخلوقات بنانے کی ٹیکنا لو جی کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ چودہ سو برس پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی اور یہ سائنس دان چونکہ زمینی ہیں اس لیے ان کی ٹیکنا لو جی حیوانات و نباتات تک محدود ہے اور انبیاء علیہم السلام اشرف الناس ہوتے ہیں اس لیے ان کی ٹیکنا لو جی اشرف الخلوقات یعنی انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ٹیکنا لو جی کا فیض کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا فیض طالبین اور مریدین میں، ان کے ہمنشیبیوں اور ساتھر ہنے والوں میں چار طریقہ سے منتقل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ والوں کے اندر ولایت سازی کی جو خاصیت ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی اور تقویٰ کی حیات حاصل ہے وہ چار طریقوں سے منتقل ہوتی ہے:

نفس و شیطان کو مغلوب کرنے کے داؤ پیچ

اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی دین کی ایسی بات سنادیں گے اور ایسا داؤ پیچ سکھا دیں گے کہ نفس کو پکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ دنیا کے اکھاڑے میں ہوتا ہے کہ داؤ پیچ جانے والا دبلا پتلا چالیس کلوکا پہلو ان تین من کے پہلو ان کو گردیتا ہے۔ تو اللہ والے اپنے ملفوظات سے ہمیں نفس و شیطان کو پکلنے کے داؤ پیچ سکھاتے ہیں جس سے نفس و شیطان غالب نہیں آتے۔

۱) اہل اللہ سے مستفید ہونے کی شرط اولیں

لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کرے اور ان کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے تب یہ مقام نصیب ہو گا کہ جیسے وہ نفس و شیطان کو پکلتے ہیں آپ بھی پکنے لگیں گے اور اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے لنگڑے آم میں جو خاصیت، لذت اور ذائقہ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دیسی آم کا صرف اتنا کام ہے کہ لنگڑے آم کے سامنے اپنا خاص ہونا بھول جائے کہ میں بھی کوئی خاص چیز ہوں، اپنے وی آئی پی (VIP) ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اپنے کومٹا کر لنگڑے آم سے مل جائے۔ اسی طرح اللہ والوں کے سامنے اپنی بڑائی، اپنا علم و قابلیت سب ختم کر دو، اپنی ضرب یضرب بھی بھول جاؤ ورنہ ساری زندگی ضارب و مضروب رہو گے۔ کہیں مارو گے کہیں مارے جاؤ گے اور کہیں مفعول مالم یسم فاعلہ ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون مار کر چلا گیا۔ کبھی ایسی پٹائی بھی ہوتی ہے کہ پینٹے والا کوئی نشہ پلا کر بے ہوش کر دیتا ہے اور خوب پٹائی کرتا ہے۔ صح کو جب ہوش آتا ہے تو چوٹ کا درد تو محسوس کرتا ہے مگر پینٹے والے کا پتہ نہیں چلتا اس کا نام عربی زبان میں مفعول مالم یسم فاعلہ ہے یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کا پتہ نہ چلے جیسے ضرب زید زید مارا گیا اور مارنے والے کا پتہ نہیں۔ ایسے ہی شیطان کی مار ہے کہ شیطان نظر نہیں آتا لیکن

بہکتا تا ہے اور گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے لہذا جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے مفعول مالم یسم فاعلہ ہیں کہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے اور انہیں خبر بھی نہیں کہ ان کی پٹائی کرنے والا شیطان ہے کیونکہ وہ سامنے نہیں آتا دل میں گناہ کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔

وسوسہ شیطانی اور وسوسہ نفسانی کا فرق

اس طرح نفس بھی بہکتا تا ہے اور وسوسہ ڈلتا ہے لیکن شیطان اور نفس کے وسوسہ میں کیا فرق ہے یہ مجدد زمانہ حکیم الامت کی زبان سے سنئے کہ اگر ایک دفعہ گناہ کا وسوسہ آیا اور پھر ختم تو سمجھ لو کہ یہ شیطان تھا بہکا کر چلا گیا لیکن جب گناہ کا تقاضا بار بار ہوتا تو سمجھ لو کہ یہ اندر کا دشمن نفس ہے جو پہلو میں بیٹھا ہوا بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ یہ گناہ کرلو، یہ گناہ کرلو اور گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَعْدَى عَذَابَكُمْ فِي جَنَّتِكُمْ﴾

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے۔

شیطان کا نہایت پیارا خلیفہ

شیطان تو بہت مصروف یعنی ”بزی“، شخصیت ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگ جائے اس لیے ایک دفعہ بہکا کر خود تو چلا جاتا ہے لیکن اپنا خلیفہ یعنی نفسِ امارہ چھوڑ جاتا ہے جو اس کا بہت ہی پیارا اور فرمائیں بڑا خلیفہ ہے جو گناہ کا بار بار تقاضا کرتا رہتا ہے۔
اللہ والوں کا فیض منتقل ہونے کا ایک راستہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ارشادات میں ہدایت ہوتی ہے، نفس و شیطان و معاشرہ کے ثرے سے بچنے کے دادیچیں معلوم ہوتے ہیں۔

۲) اہل اللہ کا نورِ باطن منتقل ہونے کے دورانستے

ان کی صحبت سے ان کے قلب کا نور ہمارے قلب میں دو طرح سے داخل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ قلب سے قلب میں فاصلے نہیں ہیں۔ اجسام میں تو فاصلے ہوتے ہیں لیکن دلوں میں فاصلے نہیں ہیں جیسے ایک بلب یہاں جل رہا ہے اور دوسرا وہاں جل رہا ہے، تیسرا اور فاصلے پر جل رہا ہے تو بلب کے اجسام میں تو فاصلے ہیں لیکن روشنی میں فاصلے نہیں ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بلب کی روشنی یہاں تک ہے اور فلاں کی وہاں تک ہے، نور کی کوئی حدِ فاصل نہیں ہوتی، نور مخلوط ہوتا ہے۔ پس جب ہم اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس مجلس میں اس اللہ والے کا نور اور طالبین کا نور سب کی روشنیاں آپس میں مل جائیں گی اور

نور میں اضافہ ہو جائے گا اور قوی النور شیخ کے نور سے مل کر ضعیف النور طالبین کا نور بھی قوی ہو جائے گا اور نور منتقل ہونے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ والے جب اپنے ارشادات سے اللہ کا راستہ بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو مولا نارومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

شیخ نورانی ز رہ آگہہ کند نور را بالفظہا ہمہ کند

اللہ والے، صاحب نور اللہ کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور اپنے نور باطن کو اپنے لفظوں کے کپسول میں رکھ کر طالبین کے کانوں کے قیف سے ان کے دلوں میں پہنچادیتے ہیں۔ یہ نور متعدد نور قلب کے متعدد ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اپنے قلب کو ان کی مجلس میں لے جاؤ، ان کے پاس بیٹھو اور ان کی باتیں سنو اور عورتوں کے لیے اہل اللہ کی صحبت ان کا وعظ سننا ہے۔ وہ کان کے ذریعہ سے صاحب نسبت اور ولی اللہ ہو جائیں گی۔ کانوں سے سنتی رہیں یا ان کے کیسٹ سنتی رہیں اور کیسٹ دستیاب نہ ہوں تو اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں لیکن وعظ سننے کا فائدہ زیادہ ہے کتاب سے کیونکہ وعظ میں ان کا در دل براہ راست شامل ہوتا ہے لہذا جہاں وعظ ہو رہا ہو ٹکنیچ جاوے شرطیکہ پرده کا انتظام ہو۔ جس پیر کے یہاں دیکھو کہ عورتیں اور مرد مخلوط بیٹھے ہیں تو سمجھ لو یہ پیر نہیں ہے پیر ہے، وہاں سے اپنے پیر جلدی سے اٹھا لو اور ادھر کارخ بھی نہ کرو۔ کیونکہ یہ اللہ والہ نہیں ہے شیطان ہے، شاہ صاحب نہیں ہے سیاہ صاحب ہے اور اس کی خانقاہ نہیں ہے خوانخواہ ہے۔

۳) اہل اللہ سے شدید تعلق و محبت اور اس کی مثال

وہ راتوں میں اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کے لیے اور اپنے صحبت یافتہ لوگوں کے لیے دعا میں کرتے ہیں کہ اے خدا! جو بھی خانقاہ میں آئے محروم نہ جائے۔ ان کی آہ کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ دیکھنے ایک کچھ کسی کے ابا سے لہڈو مانگ رہا ہے۔ ابا اس کو لہڈو نہیں دیتا کہ یہ میرا بیٹا تھوڑی ہے لیکن اتنے میں اس کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو یہ میرا کلاس فیلو ہے میں اس کے ساتھ کھلیتے ہوں اور اسی کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ میرا جگری دوست ہے، جب جگری دوست کہتا ہے تو ابا کا جگر بہل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا جگری دوست ہے اور فوراً اس کو بھی لہڈو دے دیتا ہے، تو اللہ والوں سے جگری دوستی کرو، معمولی دوستی سے کام نہیں بننے گا، اتنی دوستی کرو کہ وہ آپ کو دوست کہہ سکیں اور اللہ سے بھی کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ میرا دوست ہے تو اللہ جب ان کو اپنے قرب کا لہڈو دے گا تو جس کو وہ اپنا دوست کہہ دیں گے اس کو بھی یہ لہڈوں جائے گا۔ بتاؤ اس سے زیادہ واضح مثال اور کیا ہوگی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ **إِنَّ جَلِيلَهُمْ يَنْدَرُجُ مَعَهُمْ فِي جَمِيعِ**

مَا يَفْضُلُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْنَاءَ اُولَيَاءَ كَدُوْسَتُوْنَ كَوَاپِنَ اُولَيَاءَ كَرِجَسْتُرَ مِنْ دُرْجَ كَرِتَنَ هِيَنَ اُورَانَ پُرْوَهَ تَنَامَ اَفْضَالَ وَمَهْرَ بَانِيَاَلَ فَرَمَاتَنَ هِيَنَ جَوَابِنَ اُولَيَاءَ پُرْفَرَمَاتَنَ هِيَنَ اُورَاسَ كَيَ وَجَهَ كَيَاَهَ ؟ إِنْكُرَ اَمَا لَهُمْ بُوْجَهَ اَبْنَاءَ دُوْسَتُوْنَ كَأَكْرَامَ كَجَيِسَاَكَهَ مَشَاهِدَهَ هِيَنَ كَهَ آپَ كَأَكُونَيَ پِيَارَادَوْسَتَ آتَاهَهَ توَآپَ اَسَ كَه سَاتِهِيُونَ كَيَ بَهْيَ وَهِيَ خَاطِرَمَارَاتَ كَرَتَنَ هِيَنَ جَوَابِنَ اَسَخَاصَ دُوْسَتَ كَيَ كَرَتَنَ هِيَنَ - لِهِنَالَّهُوَالَّوْنَ كَه سَاتِهِرَهَ پُرْوَهَ اُورَاتَنَسَاتِهِرَهَ رُهُوكَهَ دِنِيَاَ بَهْيَ سَجَحَهَ كَهَ يَهَ فَلَالَسَّ كَه سَاتِهِيَ هِيَنَ - چَنَاجِهَ حَضَرَتَ عَبْدَالَلَّهَابَنَ مُسَعُودَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ جَارَهَ هِيَ تَهَهَ كَه اَيْكَ تَابِعِيَ نَےَ پُوْجَهَايَهَ کُونَ هِيَنَ ؟ لَوْگُوَنَ نَےَ كَهَا، هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ يَهَ رَسُولَ اللَّهِصَلِيَ اللَّهِعَلِيَهِ وَسَلَمَ كَه سَاتِهِيَ هِيَنَ - صَاحِبِيَ كَه اَسَ وَاقِعَهَ سَيَ اَخْتَرِيَهَ دِلِيلَ پِيشَ كَرَتَاهَهَ كَه اَبْنَيَ شَيخَ كَه سَاتِهِرَاتِنَارَهَ رُهُوكَهَ دِنِيَاَکَيِ زِبَانَ پُرْقِيَامَتَ تَكَه يَهَ جَارِيَهَ ہُوَجَائَهَ كَهَ يَهَ فَلَالَسَّ كَه سَاتِهِرَهَ تَهَهَ جَوَجَتِنَازِيَادَهَ سَاتِهِرَهَ رُهُوكَهَهَ اَتَنَاهِيَ گَهْرَادَوْسَتَ ہُوتَاهَهَ اَورَ اَگَرَ دُوْتَیَ كَمَزُورَهَ ہُوَهَ مُشَلَّ نَهَ ہُونَهَ کَهَ ہُوَتَوَهَ کَيَسَهَهَ گَاهَ کَهَ يَهَ مِيرَا دُوْسَتَهَهَ لِيَكِينَ مِيَنَ يَهَ دِعَاَ بَهْيَ كَرَتَاهَوَنَ کَه يَالَّهُجَوَخَانَقاَهَ مِيَنَ آئَهَ مُحَرَّمَهَ نَهَجَائَهَ مَدِرسَهَ وَسَجَدَخَانَقاَهَ کَه اَيْكَ اَيْكَ ذَرَرَهَ مِيَنَ جَذَبَ کَيَكِشَ بَهْرَدَهَ کَه يَهَاَ جَسَ کَاْقَدَمَ آجَائَهَ وَهَ بَهْيَ درِدَلَ، درِنِبِيتَ اَورَ درِمِجَبَتَ پَجاَهَ، نُورِتَقَوِيَ پَجاَهَ اَورَوْلِيَ اللَّهِبَنَ جَائَهَ -

(۲) درِمِجَبَتَ مِيَنَ اَهَلَالَهِ کَه خُودَكَفِيلَ ہُونَهَ کَه مَثَالَ

اللهُ تَعَالَى نَےَ جَسَ طَرَحَ پَارَسَ پَقْهَرَمَیَ سُونَسَازِیَ لَيْحَنَ لَوَهَهَ کَوسَونَبَانَهَ کَیَ خَاصِيَتَ رَکْھِیَهَ، آگَ مِيَنَ گَرمِيَ اَورَ جَلَانَهَ کَیَ خَاصِيَتَ رَکْھِیَهَ اَورَ بَرَفَ مِيَنَ ٹَھَنَڈَاَكَرَنَهَ کَیَ خَاصِيَتَ رَکْھِیَهَ اَورَانَ کَیَ خَاصِيَتَ بَلَادِلِ تَسْلِيمَ کَیَ جَاتِيَهَ - اَسَيَ طَرَحَ اللَّهُوَالَّوْنَ مِيَنَ بَهْيَ اللَّهُ تَعَالَى نَےَ اَيْكَ خَاصِيَتَ رَکْھِیَهَ اَهَلَيَهَ سَازِيَکَيَ کَهَانَ کَيَ صحَبَتَ مِيَنَ رَهِنَےَ وَالَّهُ ہُوَجَاتَهَ هِيَنَ - اَگَرَ آپَ آگَ جَلَانِيَنَ اَورَ کَوَنَیَ پُوْجَھَهَ کَه آگَ مِيَنَ گَرمِيَ کَيُونَهَ، اَسَيَ طَرَحَ کَوَنَیَ کَهَهَ کَهَ چَانَدَسَهَ گَرمِيَ نَهِيَنَ مُلْتَكِينَ سُورَجَ مِيَنَ کَيُونَ گَرمِيَ ہُنَهَ توَ آپَ یَهِيَ جَوابَ دِيَنَ گَهَ کَه اللهُ تَعَالَى نَےَ انَ مِيَنَ يَهَ خَاصِيَتَ رَکْھِیَهَ اَورَ سُورَجَ کَاِينَدَھَنَ جَسَ سَيَ سُورَجَ چَمَكَتَهَهَ اَسَ کَاْخَرَچَ کَتَنَهَهَ ؟ سَائِنسَ دَانُوَنَ کَيَ تَحْقِيقَهَهَ کَه سَارَےَ عَالَمَ مِيَنَ جَتِنَ اِينَدَھَنَ خَرَجَ ہُوتَاهَهَ سُورَجَ مِيَنَ آگَ کَاِينَدَھَنَ اَيْكَ گَھَنَهَهَ مِيَنَ اَسَ سَيَ زِيَادَهَ خَرَجَ ہُوتَاهَهَ لِيَكِينَ يَهَ اِينَدَھَنَ سُورَجَ کَهَماَسَ سَيَ پَاتَاهَهَ ؟ اللهُ تَعَالَى نَےَ اِينَدَھَنَ مِيَنَ سُورَجَ کَه خُودَكَفِيلَ بَنِيَاَيَهَ - اَسَ کَه انَدرَ ہَزَارَوَنَ لاَکُونَهَهَ ہَائِيَڈَرُوجَنَ بَمَ ہَرَ وقتَ چَھَتَنَهَ رَهِتَنَهَ هِيَنَ جَسَ سَيَ خُودَ، خُودَ آگَ پَيدَاهُوتَيَ رَهِتَنَهَ - اَگَرَ سُورَجَ اَبْنَاءَ اِينَدَھَنَ مِيَنَ خُودَكَفِيلَ نَهَ ہُوتَاهَهَ توَ اَتَنَاهِيَنَ کَهَماَسَ سَيَ پَاتَاهَهَ ؟ جَبَ کَه سَارِيَ دِنِيَاَ کَاِينَدَھَنَ اَسَ کَه اَيْكَ گَھَنَهَهَ کَه اِينَدَھَنَ کَه بَراَبَرَهَهَ - اَيْسَيَهَهَیَ اللَّهُوَالَّهُ جَوَهِدَيَاتَ کَه سُورَجَ هِيَنَ انَ کَه قَلْبَ، درِدَلَ کَه اِينَدَھَنَ مِيَنَ خُودَكَفِيلَ بَنَائَهَ جَاتَهَ هِيَنَ، انَ کَه يَهَ اِينَدَھَنَ کَهَماَسَ سَيَ آتَاهَهَ ؟ اللهُ تَعَالَى انَ کَه قَلْبَ پَرَ عَلَمَ غَيْبِيَهَ وَارَدَكَرَتَاهَهَ، انَ کَه دَلوَنَ کَه

اندر اپنے درد محبت کا ایندھن دیتا ہے، ان کے اندر ہمہ وقت درد دل کے ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جن سے وہ خود بھی گرم رہتے ہیں اور ان کی برکت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ایمانی گرمیاں مل جاتی ہیں اور ایک دن ان کے ہم نشینوں کے قلب بھی ہدایت کے سورج بن کر اپنے درد دل کی آگ میں خود فیل ہو جاتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ (محبّتِ اہل اللہ اور جدید عینکا لوحی)

آیت نمبر ۳۲

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَحْرَارَ الْمُحْسِنِينَ﴾

(سورة التوبہ: آیہ: ۱۲۰)

اللہ اپنے عاشقوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کہاں مردہ لاشوں پر جاتے ہو۔ دونوں میں کوئی نسبت نہیں اس لیے وہ لوگ انتہائی بے وقوف اور حمقی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا پر مر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پر مرا سیکھو اور یہ بھی اللہ والوں ہی کے صدقہ میں آئے گا۔ حوصلہ شاہ بازی کس سے آئے گا؟ بازی شاہی سے اور بازی شاہی کیسے بنو گے؟ صحبت کی برکت سے۔ دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوا جب تک کسی ولی اللہ کی صحبت نہیں ملی۔ دیسی آم کو لنگڑے آم کے متعلق ایک لاکھ کتاب میں پڑھادو، ایم ایس کرا دو لیکن ایک لاکھ کتابوں کے باوجود دیسی ہی رہے گا لیکن اسے کوئی کتاب نہ پڑھا، لونگڑے آم کی قلم لگا دو آہستہ آہستہ وہ خود لنگڑا آم بن جائے گا۔

اور ایک بہت بڑی بات اور بتا دوں کہ اگر کوئی مرید اپنی بے وقوفی سے اپنے شیخ کے بلند مقام کو نہ پہچانتا ہو اور شیخ بھی خود اپنی ولایت کے مقام کی بلندی سے ناواقف ہو لیکن اس کی صحبت میں ولایت سازی کی خاصیت ضرور ہوگی کہ اس کی برکت سے مرید کامیاب ہو جائے اور ولایت نصیب ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاصیت رکھی ہے اس کا اثر ظاہر ہو گا جیسے کوئی نہ جانتا ہو کہ آگ کیا چیز ہے اور آگ کو بھی اپنے آگ ہونے کا علم نہ ہو لیکن اس میں خاصیت ضرور ہوگی۔

جلاء کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن انہیں بجا اپنی سادگی طبع کے خوب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس درجہ کے ولی اللہ ہیں لیکن ان کے فیض سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ (درس مشوش مولانا روم)

آیت نمبر ۳۳

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْبِيْثٌ﴾

(سورة هود، آیہ: ۷۵)

تعلقِ خلّت (خاص دوستی) کی علامت

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْبِيْثٌ آیتِ دال بر علامت تعلقِ خلّت ہے۔ جب روح سالک کو

یہ مقام خلّت عطا ہوتا ہے تو وہ کثرت آہ سے مشرف ہو جاتی ہے۔ انابت کی صفت سے قبل آواہ کو بیان فرما کر بتا دیا کہ انابت کاملہ کی صفت مخفی اور باطنی ہے پس دوسرے لوگ کیسے پہچانیں گے ہمارے خلیلوں کو۔ اس لیے پہلے ہی آواہ کی صفت بیان فرمادی کہ آتشِ غم کے خل کے لیے وہ بکثرت آہ کیا کرتے ہیں۔

آہ کو نسبت ہے کچھ عشاں سے

آہ نکلی اور پہچانے گئے

یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آپ کی خلّت بھی منصوص ہے وَاتَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔

اللَّهُ تَعَالَى کی شانِ محبوبیت کی دلیل

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَجِدُوْنَ لِيْعَنِي يَلُوْگ (کفار) اس روز اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیئے جائیں گے۔ یعنوانِ سزا حق تعالیٰ کی شانِ محبوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ برکت دنیا کے حکام چونکہ حکامِ محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے اس لیے جب سے روئے زمین قائم ہے آج تک کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ سزا نہیں سنائی ہے کہ تم کو اس جرم کے سبب ہم اپنی صورت کے دیدار سے محبوب اور محروم کرتے ہیں اور اگر کوئی حاکم یہ اعلان کرے بھی تو مجرمین کہیں گے کہ تیری صورت پر جھاڑو پھرے تو ہماری جان بخش دے اور حق تعالیٰ شانہ کفار سے فرمائیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی رویت سے مشرف کریں اور کس انداز سے فرمائیں گے کَلَّا هُرَّ كُوْنَهُ نَهِيْنَ اور صفتِ ربو بیت بیان فرمائی جو عملت محبوبیت ہے یعنی پالنے والا محبوب ہوتا ہے اور محبوب کے دیدار سے محرومی کتنی بڑی محرومی ہے جو کفار کے لیے باعثِ حرمت ہوگی۔ ذلِکَ مِمَّا خَصَّنِيَ اللَّهُ تَعَالَى شَانُهُ بِلُطْفِهِ۔

آیت نمبر ۳۲

﴿قَالَ رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾

(سورہ یوسف، آیہ: ۳۳)

اللَّهُ کے راستے کا غمِ اللہ کا پیار ہے

مرنے والی لاشوں کو مت دیکھو، نہ دیکھنے کا غمِ اٹھاؤ، غم سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس غم کو پیار کرو کیونکہ خدا کے راستے کا غم ہے۔ اس غم کو اللہ پیار کرتا ہے جس غم کو اللہ پیار کرے وہ غم پیار انہیں ہے؟ یہ غم نہیں یہ اللہ کے راستے کا پیار ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو حلاوتِ ایمانی دیتا ہے لہذا اس غم پر شکر ادا کرو۔ جب چیکے چپکے نظر بچالو تو کہو کہ اے اللہ! آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے راستے کا غم عطا فرمایا۔ آپ کی

راہ کا ایک کاملاً سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہے اور آپ کے راستے کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے بہتر ہے، اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو ساری دنیا کے پھول اگر اس کا نٹ کو سلام احترامی اور گارڈ آف آز پیش کریں تو اس کا نٹ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے راستے میں نظر بچانے میں، گناہ سے بچنے میں ایک ذرہ غم دل میں آجائے تو یہ اتنا مبارک غم ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا غم ہے۔ اسی لیے جان یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا **رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ** اے میرے رب مجھے قید خانہ محبوب ہی نہیں احباب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ آہ! جن کی راہ کے قید خانے احباب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے۔

دوستو! میرا یہ مضمون، یہ سبجیکٹ (Subject) ہائی کلاس کا ہے یا نہیں؟ پی ایچ ڈی سے بھی آگے کا ہے یا نہیں؟ بس سمجھ لو آج کل اختر کو میرے مالک نے کس اعلیٰ مضمون کا ٹیچر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اختر سے آج کل اتنے اونچے مقام کا مضمون بیان کر رہا ہے کہ اس پر جو عمل کر لے وہ ان شاء اللہ اولیاء صدیقین کی مدتھا تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ولايت کی سرحد ختم ہے سب سے اعلیٰ درجہ میں داخل ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (الاطاف، ربانی، صفحہ ۳۶۷)

اللہ کے قرب کی منزل اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں اس سے قیمتی کوئی منزل نہیں ہے۔ پس اللہ کے راستے کا غم کتنا قیمتی ہو گا، ان کے راستے کے کانٹے کتنے قیمتی ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیخارنے گناہ کی دعوت دی اور اس نے دھمکی دی کہ اگر میری فرماںش پوری نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قید خانہ میں ڈالوادیں گے۔ ہم بادشاہ کی بیوی ہیں۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ سے رجوع کیا، اپنے رب کو پکارا **رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ الْخَ** اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ سے رجوع ہو جاؤ، جب زمین والے تم کو ستائیں تو آسمان والے سے فریاد کرو، زمین کے مقناطیس جب ہم کو چھینجیں تو آسمان والے جاذب کو پکارو جس کی قوت جاذب سب سے بڑی ہے اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی جان پاک نے جو اعلان کیا تھا وہی اعلان کرو کہ:

﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾

اے میرے پالنے والے تیرے راستہ کا قید خانہ مجھے پیارا ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ بادشاہ مصر کی عورت مجھے بلا رہی ہے اور مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو تم کو قید خانہ میں ڈال دیں گے لیکن اے خدا تجھے ناخوش کرنے سے مجھے قید خانہ احباب ہے، تیری لذت قرب کے سامنے ساری دنیا کے رنج و صعبوں تیچ ہیں، تیرے راستہ کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے مجھے عزیز تر ہے۔ تیری راہ کا قید خانہ اور

قید خانے کا غم مجھے محبوب ہی نہیں بلکہ احباب ہے اس خبیث بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور یہاں جمع کا صیغہ یہ عون کیوں نازل ہوا جبکہ بلانے والی واحد تھی یعنی صرف زیلخا بلا رہی تھی۔ تو حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اس لیے نازل کیا کیونکہ مصر کی عورتوں نے سفارش کی تھی کہ اے یوسف اس کی خواہش پوری کر دو لہذا گناہ میں تعاقون کرنا، مدد کرنا اور سفارش کرنا اتنا ہی جرم ہے جتنا اصل مجرم کا۔ اسی لیے رشتہ کا دلالانے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا لینے والا۔

اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شانِ محبوبیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے احباب ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ یہ جملہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تو میری اردو کی لذت پر ندوہ کے علماء مست ہو گئے اور فرمایا کہ کیا استدلال ہے اور کیا شیرینی زبان ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہی نہیں احباب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، جن کے راستے کی تاخیاں پیاری ہیں تو ان کی شیرینیاں کیسی ہوں گی، جن کی راہ کے غم اور تکالیف احباب ہیں تو ان کے نام کی لذت کا کیا عالم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں تو ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے جو جنت میں بھی نہیں ملے گی خاص کر نظر بچانے کے غم پر حلاوتِ ایمانی کا جو وعدہ ہے یہ حلاوتِ ایمانی اس دنیا ہی میں ملتی ہے، یہ جنت میں بھی نہیں ملے گی کیونکہ جنت میں نظر بچانے کا حکم ختم ہو جائے گا، وہاں شریعت نہیں رہے گی، وہاں سب فرشتوں کی طرح پاک ہو جائیں گے تو یہ مزہ دنیا ہی میں اٹھا لو۔ نظر بچا کر یہ حلوہ ایمانی لوٹ لو۔

اگر ہم ارادہ کر لیں اور ہمت سے کام لیں کہ گناہ نہیں کرنا اور گناہ نہ کرنے کا غم اٹھانا ہے اور غم کے اس قید خانے کو دل و جان سے محبوب رکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں قلب میں درآمد نہیں کرنا ہیں، غیر اللہ کی شکل و صورت سے بچنے میں جان کی بازی لگانا ہے تو ان شاء اللہ بطفیل سرو ر عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ تعالیٰ وہ مستی دینے پر قادر ہے کہ غم محسوس ہی نہ ہوگا اور ایسی مستی عطا ہوگی جس کا نشہ کبھی نہیں اترے گا۔ (درست مشنوی مولانا روم، ص: ۲۲۰)

آیت نمبر ۲۵

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾

(سورہ یوسف، آیہ: ۵۳)

اما رہ بالسوء جملہ اسمیہ سے نازل ہونے کا راز

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ بے شک نفس اما رہ بالسوء ہے یعنی کثیر الامر

باسوے ہے، برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے اور ان دخل کر کے جملہ اسمیہ کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بدھا ہوا سے ہمیشہ، آخری سانس تک ہوشیار ہو، یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء ہے، ہمیشہ کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا رہے گا، اس لیے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم کو نگاہوں کے وسوے آتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کجھت ہم کو پریشان کرے گا۔ جملہ اسمیہ سے دوام پر دلالت کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء رہے گا، برائیوں کی طرف تقاضا کرے گا۔

نفس کے خلاف جہاد کا طریقہ

لیکن تقاضوں سے نہ گھبرانا، تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم ان تقاضوں پر عمل نہ کرو، لہذا اس کے حرام تقاضوں پر غم نہ کرنا۔ اگر روزہ ہے اور آپ کا سو مرتبہ پانی پینے کو دل چاہا، شدید تقاضا ہوا لیکن آپ نے پیا نہیں تو بتائیے آپ کاروزہ ہے یا نہیں؟ لہذا جس طرح پیاس کا تقاضا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح برے تقاضوں سے تقویٰ نہیں ٹوٹا جب تک ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ جس کروزہ میں سو مرتبہ پانی پینے کا تقاضا ہوا اور اس نے نہیں پیا تو اس کے روزے کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہزار مرتبہ دل میں گناہ کا تقاضا ہو مثلاً بد نظری کا یا کسی اور نگاہ کا تو اس سے اجر اور بڑھتا ہے اور تقاضے سے تقویٰ نہیں ٹوٹا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے۔

حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا عمدہ مثال دی کہ تقویٰ سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضور ہنا آسان ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقویٰ کے لیے کر باندھ لیجئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائق ہوئی، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیئے، پورا مقابلہ کیجئے، جہاد کا حق ادا کیجئے، یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جارہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے، اس سے موآخذہ ہو گا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی۔ ایک ہے گٹر میں گرنا، ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرنا، ایک ہے پھسلنا، ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔

نفس کا اثر دھا اور اسبابِ معصیت

نفس پر اعتماد مت کرو، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنک اور کتے کی دم کی طرح

ہے۔ ایک شخص نے دس سال تک کتے کی دم کوئلی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی لیکن دس سال کے بعد جب نکلا تو ٹیڈی ہی تھی۔ یہی حال نفس کا ہے لیکن تقویٰ اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں مثیر تیل اور اجزاء دیئے ہیں تعمیر تقویٰ کے لیے۔ جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کریں یعنی ان پر عمل نہ کریں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ نہیں ہے کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے اور یہ بھروسہ و منہش ہو جائے، خوب سمجھ لیجئے!

(نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے، صفحہ ۱۰۰-۱۰۱)

إِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةٌ بِالسُّوءِ كَا ترجمہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے یعنی کثیر الامر بالسوء ہے اور حملہ اسمیہ سے کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ مرتبے دم تک تم نفس سے بے خبر نہ رہو، حملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی نفس شہوت کے بُرے بُرے تقاضوں سے پریشان رکھے گا، یہ کش کرتا رہے گا آپ مکش رہیے، اس کشمکش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ چند دن کشمکش میں رہو، اس کشمکش سے ایک نور پیدا ہوگا۔

کلام اللہ کا اعجازِ بلا غت

اس کے بعد سوال ہے کہ بالسوء پر الف لام کیوں داخل کیا؟ علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جنس کا ہے اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے یعنی گناہوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس الف لام میں داخل ہیں یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی گناہوں کی جتنی قسمیں تھیں اور قیامت تک جتنی قسمیں گناہوں کی پیدا ہوں گی وہ سب الف لام میں داخل ہیں، یعنی نفس تم کو ہر برائی کا حکم کرتا رہے، موجودہ جتنے گناہ ہیں اور آئندہ جو ہوں گے ان سب کا تمہیں تقاضا کرتا رہے گا، یہ الف لام جنس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلا غت دیکھو، کیاشان ہے اس کی! جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ریڈ یو، آڈیو کہاں تھے، ویڈیو اور فلمیں نہیں تھیں، سینما نہیں تھے، اتنے نئے نئے گناہ نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کیاشان ہے کہ الف لام جنس کا داخل کیا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام ہے جس میں ایسی بلا غت ہے کہ قیامت تک گناہوں کی جتنی بھی نئی نئی صورتیں ایجاد ہوں گی اور جتنے بھی انواع و اقسام پیدا ہوں گے یہ الف لام سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّيْ مَكْرُوهٌ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہی نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آیت بھی نازل کی تاکہ معلوم ہو کہ ہر وقت یہ رحمت نہیں رہ سکتی اس کے لیے گڑ کر ما لگنا پڑے گا۔ اس آیت میں ما کیا ہے؟ یہ ظرفیہ زمانیہ، مصدر یہ ہے تولًا مَا رَحْمَ رَبِّيْ اترجمہ ہو ای فی وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّيْ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کی رحمت کے سامنے میں رہو گے۔ فی سے ظرفیہ بن گیا اور وقت سے زمانیہ

بن گیا اور رَحْمَ ماضی رحمت سے مصدر بن گیا یعنی جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا اس وقت تک تم بچ رہو گے، اس عنوان سے کیا نصیحت ہوئی کہ کسی شخص کو یہ نازنہیں ہونا چاہیے، اس لیے من نازل نہیں فرمایا جس کا ترجمہ ہوتا کہ ”مُگَرِّ وَهُوَ لَوْگ“ یعنی جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، من نازل نہیں کیا، ما نازل کیا، جس کا ترجمہ ہوا کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہوا سی وقت لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وقت بدلتا رہتا ہے، کسی وقت رحمت ہو گی کسی وقت نہیں ہو گی اور کسی وقت تمہارے دل کے حالات بدل سکتے ہیں۔ (نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے صفحہ ۲۰۔۱۸)

نفس کی تعریف

اللہ کی رحمت لینے کے لیے نفس کے شر سے حفاظت ضروری ہے لہذا سوال یہ ہے کہ نفس کی تعریف کیا ہے؟ نفس کیا چیز ہے؟ اب نفس کی تعریف بیان کرتا ہوں:

۱۔ **النَّفْسُ كُلُّهَا ظُلْمَةٌ وَ سَرَاجُهَا التُّوفِيقُ** نفس بالکل اندر ہے اور اس کا چراغ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یہ تعریف علامہ آلوسی نے کی۔

۲۔ نفس کی دوسری تعریف ملاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں **الجَسَدُ كَثِيفٌ وَ الرُّوحُ لَطِيفٌ وَ النَّفْسُ بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطٌ** نفس نہ کثیف ہے نہ لطیف ہے، اگر نیک عمل کرتے رہو تو نفس لطیف ہو جاتا ہے اور اگر بر اعمال کرو تو نفس کثیف ہو جاتا ہے یعنی ایک سادہ تختی اللہ نے دی ہے چاہو تو اس پر خیر لکھ دو، چاہو تو برائی لکھ دو، نفس تم کو مجرد، سادہ دیا گیا ہے، جیسے بچ کو سادہ تختی دی جاتی ہے چاہے تو اس پر قرآن شریف لکھو، چاہے تو اس پر گندی با تین لکھ دو۔ نفس کی دو تعریفیں بیان ہو گئیں، ایک علامہ آلوسی کی اور ایک ملاعلیٰ قاری کی۔

۳۔ اب ایک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی سن لو، فرماتے ہیں کہ نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا یعنی طبیعت کی وہ مرغوبات، وہ پسندیدہ چیزیں جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، جیسے گناہ کے تقاضے کہ ان کی طرف طبیعت تو مکمل ہوتی ہے لیکن خدا کا حکم ہے کہ ان سے بچو، ان سے فرار اختیار کرو یعنی طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کا نام نفس ہے۔

۴۔ چوتھی تعریف اس فقیر کی ہے، وہ کیا ہے؟ مجازی قضاۓ شہوات، شہوات کے جہاں سے فیصلہ جاری ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ کوارٹر، مجری کے معنی ہیں جاری ہونے کی جگہ، تو شہوت کے فیصلے جہاں سے جاری ہوتے ہیں اس کا نام نفس ہے، مجازی قضاۓ شہوات۔

نفس کے شر سے بچنے کے نصیحے

۱۔ توانہ اللہ تعالیٰ نے الٰ مَارِحَمَ رَبِّی کی رحمت دینے کے لیے یہ دعا سکھائی:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۸)

اس لیے ایک دعا تو آپ یہ مانگ لیجئے اس طرح آپ نفس کے شر سے ان شاء اللہ محفوظ رہیں گے۔ نفس کے شر سے بچنے کا یہ نصیحہ بیان ہو رہا ہے ذرا غور سے سنئے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا سے الٰ مَارِحَمَ کی رحمت مانگ لو کہ استقامت علی الدین جب ہو گی کہ تم نفس کے شر سے بچ رہوا الٰ مَارِحَمَ رَبِّی کے ذریعے نفس کے شر سے بچنے کا اعلان نازل ہو رہا ہے۔

۲۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اُم سلمہ میری ماں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم یا مُقَبِّبُ الْقُلُوبِ ثَسْ قَلْبِیْ عَلَیِ دِینِکَ کثرت سے پڑھتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا دوسری دعا یہ پڑھتے رہو کہ اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھے۔

۳۔ تیسرا دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی کہ یوں کہو:

﴿يَا حُنَيْثَ يَا قَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيْ كُلَّهُ

وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنِ﴾

(السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلة، باب ما یقول اذا امشی، ج: ۶، ص: ۱۲۷)

اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے، اے سارے عالم کو تھامنے والے میرے چھوٹے سے دل کو دین پر قائم رکھئے اصلح لی شائیں کُلہ میری ہر حالت کو آپ درست فرمادیجئے، جتنی بگڑی ہے سب بنا دیجئے۔ یہ مطلب ہے اصلح لی شائیں کُلہ کا کہ میری جتنی بگڑی ہے خواہ دنیا کی بگڑی ہو یا آخرت کی سب بنا دیجئے، کس قدر جامع دعا ہے۔ شائیں مفعول ہے اصلح کا اس لیے تاکید کُلہ منصوب آ رہی ہے و لا تکِلْنِي إِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنِ ایک سانس کو بھی مجھے نفس دشمن کے سپردہ فرمائیے، ایک سینکڑ کے اندر بھی یہ وار کر جاتا ہے، ایسا ظالم دشمن دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ورنہ ہر دشمن دنیا میں کچھ تو اسکیم بنائے گا، کچھ تو وقت لے گا لیکن نفس کے بارے میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔

۴۔ تین باتیں ہو گئیں اور نمبر ۴ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری رحمت نفس سے حفاظت

والی کب ملے گی؟ جب تم میری نصیحت پر عمل کرو گے جیسے ابا کہتا ہے کہ میرا یہ انعام اور وظیفہ جب ملے گا جب یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا مَارَحَمَ رَبِّيُّ کی رحمت کب ملے گی؟ جب تم معصیت کے اسباب سے دور رہو گے تلک حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا میری حدود یعنی گناہوں کی جو سرحدیں ہیں جن کو میں نے حرام کیا ہے اگر ان سے قریب نہ رہو گے تو میری رحمت پا جاؤ گے۔

علومِ الوہیت اور علومِ رسالت میں مطابقت

دیکھو علومِ نبوت کو علومِ قرآن سے کتنی مناسبت ہے:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾

(سورۃ الفرقہ، آیۃ: ۱۸۷)

اللہ کی حدود سے قریب نہ رہنا، نافرمانی کے اڑوں سے قریب مت رہنا۔

اب علم نبوت دیکھو:

﴿اللَّهُمَّ بَايْدُ بَيْنُ وَ بَيْنَ خَطَائِيَّاتِي كَمَا بَاعْدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ما يقرأ بعد التكبير، ج: ۱، ص ۱۰۳)

اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔

دیکھا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت سے کلامِ نبوت کو ملاؤت بپتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے علومِ نبوت دلیلِ نبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یُمْدِدُ کُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَيْنَ میں مال کو مقدم کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو دعاوی اس میں بھی مال کو مقدم کیا اللہُمَّ بَارِكْ فِي مَالِهِ اور یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ گناہوں کے قریب بھی نہ رہو، تو اللہ کے نبی نے بھی فوراً دعائی گئی کہ اے اللہ! آپ اپنی رحمت سے ہم کو گناہوں سے اتنا دور کر دیجئے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الحفظ)

اے اللہ! ہمیں وہ رحمت عطا فرمادے جس سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے۔ سبحان اللہ! کیا دعا سکھائی دو ستو! اگر یہ لذونہ کھاؤ تو قیامت کے دن سوچ لینا۔

ہم بلا تے تو ہیں ان کو مگر اے رپ کریم

سب پہ بن جائے کچھ ایسی کہ دن آئے نہ بنے

یہ ہم سب پر جھٹ ہے، اس مقرر پر بھی جھٹ ہے کہ کیا کہتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو۔ استغفار اللہ میں قول بالعمل جس قول پر عمل نصیب نہ ہواں قول سے بھی بزرگوں نے استغفار کیا ہے۔ توبہ استغفار پر رسالے لکھنے والے توبہ پر مضامین جمع کرنے والے اور وعظ کے لیے منبروں پر جلوہ فرمانے والے خود توبہ نہیں کر رہے ہیں۔

واعظان کہ جلوہ بر محراب و منبری کنند

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کم ترمی کنند

اپنے مطالعہ پر نازمت کرو و تصنیف و تالیف پر نازمت کرو، عمل کر کے مخلوق کو مت دکھاؤ ورنہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن اور جھٹ ہو جائے گی۔ اللہ میاں پوچھیں گے کہ خانقاہ میں رہتے تھے؟ اچھا بڑے علوم حاصل کیے تھے، ایسے معارف کے ساتھ آپ یہ کیا کرتے تھے، یہ علوم کا تم نے شکر یہ ادا کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بات سکھائی اللہُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اے اللہ! ہم پر رحمت نازل فرما۔ کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ دینے کے ذریعہ سے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو ترکِ معصیت کی توفیق نہیں ہے جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ دیکھئے وہی الا ما رَحْمَ چلا آرہا ہے وہی خاص رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں اس آیت سے یہ ضمون ڈالا اور کتنی حدیثوں سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے اللہُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اللہ، ہم پر رحم نازل کر دیجئے۔ کون سارِ حرم؟ ترکِ معاصی والا جس سے ہم معصیت چھوڑ دیں یعنی وہی الا ما رَحْمَ ربِّی والی رحمت اور نفس کے شر سے میں بچ جاؤں اور تیری کیا چیز ہے ایک دعا اور بھی سکھائی اللہُمَّ لَا تُشْقِنِی بِمَعْصِيَتِکَ اے اللہ مجھے بدجنت نہ بنائیے گناہوں کے ذریعے سے لا تُشْقِنِی یعنی میری قسمت کو بدجنتی سے بچائیے بِمَعْصِيَتِکَ یعنی اپنی نافرمانی سے ہمیں شقاوت و بدجنتی میں بہتانہ بکھیے، شقی ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شقاوت اسی سے پیدا ہوتی ہے، گناہ کرتے کرتے حیا ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ پناہ میں رکھے، حالات بگزرتے بگزرتے کتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ ایمان کے سلب کا خطرہ۔ الفاظ نبوت تو دیکھو اللہُمَّ لَا تُشْقِنِی بِمَعْصِيَتِکَ اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں شقی و بدجنت نہ بنائیے، آمین۔ (نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے صفحہ: ۲۵-۲۷)

آیت نمبر ۳۶

﴿وَأَيْضَضْتُ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾

(سورۃ یوسف، آیہ: ۸۲)

صاحب حُزن اللہ کی راہ جلد طے کر لیتا ہے

ارشاد فرمایا کہ صاحب حُزن اللہ تعالیٰ کی راہ کو جتنا جلد طے کر لیتا ہے اتنا جلد غیر صاحب

حزن ط نہیں کر سکتا اسی لیے ان بیانات علیہ السلام کو بھی حزن میں بدلنا فرمایا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَابِيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں بسبب ان کے غم سے گھٹھے کے۔ یہاں وَابِيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا کہ ان کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور نسبت یعقوب علیہ السلام کی طرف فرمائی کہ وہ غم کو دل ہی دل میں دبارہ ہے تھے اور غم سے گھٹ رہے تھے۔ اپنی طرف غم کو عطا فرمانے کی نسبت نہیں فرمائی ورنہ بندے ڈرجاتے اور ساتھ ساتھ ادب بھی سکھا دیا۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں اور اس میں ادب کی تعلیم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور شفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی فَهُوَ يَشْفِيْنِ تو اللہ مجھے شفادیتا ہے۔ وَابِيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یہ جملہ حالیہ معرض تغییل میں ہے جس میں ذوالحال یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں علت فَهُوَ كَظِيمٌ میں بیان فرمائی یعنی ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں بوجہ اس کے کہ وہ دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیانات کا بطور مجزہ واپس آنا بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْفَهَّلُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا جب خوشخبری دینے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بیانات لوٹ آئی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کی بیانات کا واپس لوٹ آنا بطور مجزہ تھا۔ جو اس کو کرامت سمجھتے ہیں وہ نادان ہیں کیونکہ جن خوارقی عادت چیزوں کا ظہور ان بیانات علیہم السلام سے ہوتا ہے وہ مجزہ ہے کرامت نہیں۔ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ٹک دیکھنے لگے۔

درد از یار است و درمان نیز ھم

دل فدائے او شد و جاں نیز ھم

درد بھی یار کی طرف سے ہے اور درمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے بوجہ حزن اگر بلڈ پریشر ہائی یالو (Low) ہو جائے تو پریشان ہرگز نہ ہو۔ بلڈ بھی ان کا ہے اور پریشر بھی ان کی طرف سے ہے اس لیے پریشانی کیسی؟ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ غم غیر اختیاری طور پر آجائے ورنہ غم کی تمنانہ کرے۔ خود سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگنے کی تعلیم اپنی امت کو تلقین فرمائی فرمایا کہ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ اے اللہ! میں ہم اور حزن سے پناہ چاہتا ہوں، ہم اس غم کو کہتے ہیں الَّذِي يُذِيبُ الْإِنْسَانَ جو انسان کو گلا دے۔ غم کو طلب کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلوانی دیکھانا ہے حالانکہ ارشادِ ربانی ہے وَخُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا، خُلُقٌ مُجْهُولٌ کا صیغہ ہے کہ انسان کو ضعیف

بنایا گیا۔ اس میں پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی اور تعلیم فرمائی کہ شخص کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ ہاں اگر غیر اختیاری طور پر خود بخوبی آجائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ گویا یہ ایسا انعام ہے جس کا مانگنا جائز نہیں۔ یہ ایسا مہمان ہے کہ جس کا بلا ناجائز نہیں۔

آیت نمبر ۷۸

﴿الَاَبِدِ كُرِّ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾

(سورہ الرعد آیۃ: ۲۸)

انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا خلقہ و نظرتہ عاشق پیدا فرمایا ہے یعنی ہر انسان مرتبہ فطرة انسانیت میں عاشق حق ہے۔ حق تعالیٰ نے اس دعویٰ پر ایک دلیل مثبت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں **الَاَبِدِ كُرِّ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ** اے ہمارے بندو! خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارے سینوں میں جو قلوب رکھے گئے ہیں ان کو سکون اور چین صرف ہماری یاد ہی سے مل سکتا ہے۔ ہم تمہارے اور تمہارے قلوب کے خالق ہیں۔ ہم نے تمہارے سینوں میں ایک ایسا مضغہ لمحیہ یعنی گوشت کا لکڑا رکھ دیا ہے جس کی نذر اصرف میری یاد ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر اہل سلطنت اور اہل دولت خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے باوجود خوش و خرم کیوں نظر آتے ہیں تو درحقیقت ان کی یہ خوشی ہماری ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتی ہے، ان کے دلوں کو گریٹوا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ گز مطمئن اور چین سے نہیں ہیں۔ نیز یہ کہ فسق و فحور کی گندگی سے ان کے دل بیمار ہوتے ہیں قلب سلیم کی نذر اصرف ذکر حق ہے، یہاں قلب کا تو احساس بھی غلط ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم آپ اگر پاخانہ کا ٹوکرہ دیکھ لیں یا سونگھ لیں تو فوراً متلتے بلکہ بے خوشی تک لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن بھنگی رات دن پاخانہ کے پاس رہتا ہے اس کے باوجود اس کی بدبو سے اس کے احساس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ اس بھنگی کا احساس سلیم پاخانہ کی گندگی سے رفتہ رفتہ زائل ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو تجربہ کے طور پر اس امر کو آزمائیں کہ دنیا نے مردار کی لذات میں رات دن غرق رہنے والے کسی انسان کو چند دن کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رکھیں اور یہ شخص حق تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے پس رفتہ رفتہ اس کا وہ سابق فطری اور طبعی مذاق اس کے قلب میں بیدار ہونا شروع ہو جائے گا اور ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اسی شخص کو اب ذکر چھوڑ کر مشاغل دنیوی میں لگانا بہت مشکل اور دو بھر ہو جائے گا ب اس کے شب و روز غفلت میں نہیں گزر سکتے۔ شب و روز کیا معنی ایک لمحہ اور ایک سانس غفلت میں گذارنا اس کوموت سے بدتر نظر آئے گا۔ ہر وقت ایک کیفیت حضوری اس کے قلب کو میسر ہو گی گویا دل ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کو فر قرب کے

سامنے بھلا پھر دنیا نے فانی کی لذتوں کی طرف اس کا قلب کب رجوع کر سکتا ہے؟ اس وقت اس کو تمام مجموعہ لذات کا نئات مردار نظر آئے گا اور اللہ کی یاد کی برکت سے ایسی سلطنت قلب کو ملے گی کہ اس کے سامنے سلطنتِ ہفت اقليم چیخ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلاطین کو جب ذکر کا مزہ مل گیا تو آدھی رات کو چپکے سے گدڑی اور ڈھنگل کو نکل گئے۔ (معارف مشوی، حصہ دوم، صفحہ ۵۰۷-۵۰۸)

عظم الشان ذکر

استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا معافی مانگنا بہت بڑا ذکر ہے جو اپنے مالک کو راضی کر لے وہ اصلی ذاکر ہے اس لیے میں نے یہ آیات تلاوت کی کہ **الاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ** گرتوبہ کر کے مالک کو خوش کر لومعافی مانگ لو تو تمہارے قلب کو چین آئے گا کیونکہ ذکر سے دل کے چین کا واسطہ اور رابطہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینہ میں دل ہم نے بنایا ہے۔ لہذا اس دل کو چین صرف ہماری یاد ہی سے ملے گا اور نافرمانی اور گناہ سے تم بے چین اور پریشان رہو گے۔ بے چین کا سبب گناہ ہے لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ استغفار کر کے تم ہم کو راضی کرلو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے اس سے بڑا ذکر کیا ہو گا کہ تم اپنے مالک کو راضی کر لو لہذا اس آیت کی تلاوت کی یہ وجہی کہ استغفار بہت بڑا ذکر ہے الا **بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ** جلدی استغفار اور جلدی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر تم اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے اس کی برکت سے تم چین و سکون پا جاؤ گے ورنہ کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔

دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹیکتی تھی بہار

دل بیباں ہو گیا عالم بیباں ہو گیا

جب دل بتاہ ہوتا ہے تو سارا عالم اندر ہیر الگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو ان شاء اللہ اس کی برکت سے دل باغ و بہار ہو جائے گا، چین آجائے گا اور جب دل میں چین ہوتا ہے تو سارے عالم میں چین نظر آتا ہے، جب دل غمزدہ ہوتا ہے تو سارے عالم میں غم نظر آتا ہے۔ یہ آنکھیں تابع دل ہیں، بصارت تابع بصیرت ہے یعنی قلب کا جو حال ہو گا آنکھ کا وہی حال ہو گا۔ اگر دل خوش ہے تو ہر طرف خوشی نظر آئے گی اور اگر دل میں غم ہے تو ہر طرف غم نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ اور ذکر کی برکت سے دل میں چین آئے گا تو سارے عالم میں آپ کو چین ملے گا۔ بال بچوں میں بھی سکون سے وہ آدمی رہتا ہے اور جس کا دل گناہوں سے پریشان رہتا ہے وہ اپنی بیوی سے بھی لڑتا ہے بچوں کی بھی پیائی کرتا ہے، ہر شخص سے الجھتا ہے کیونکہ اس کا دل معتدل اور نارمل (Normal) نہیں ہے مثل پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل آدمی ہر ایک کوستاتا ہے پاگل کا کیا بھروسہ۔ یاد رکھو جو عقل کا خالق ہے جب اس کو راضی کرو گے تو عقل ٹھیک

رہے گی ورنہ جو جتنا گناہ کرتا ہے عقل خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور عقل کی خرابی سے آدمی پاگل ہوتا ہے اور پاگل نہ خود چین سے رہتا ہے نہ چین سے رہنے دیتا ہے۔ آج کا جو مضمون ہے بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آج کیا سارے عالم میں اختیار جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔

آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا

ورنہ ہم اس کرم کے تو قابل نہیں

بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی اور رحمت کی یاری اور بارش ہے۔

(امیدِ مغفرت و رحمت، صفحہ: ۱۵-۱۸)

آیت نمبر ۲۸

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِلِيَّا إِنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورہ ابراہیم، آیہ: ۵)

جن درختوں کا مالی ہوتا ہے وہ درخت نہایت موزوں، خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں کیونکہ بے ہنگم شاخوں کو مالی اور باغبان کا ثاثار ہتا ہے، اسی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق و اعمال نہایت معتدل اور بیارے ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاقِ حمیدہ سے متاثر ہوتا ہے لیکن حقیقی مزکی اور مصلح اللہ تعالیٰ ہیں مگر عادۃ اللہ یہی ہے کہ تزکیہ کا دروازہ اور ظاہری و سیلہ رجال اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِلِيَّا إِنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى النُّورِ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں:

﴿إِسْنَادُ الْأَخْرَاجِ إِلَى النَّبِيِّ مَعَ كَوْنِ الْمُخْرِجِ الْحَقِيقِيِّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ

لِلشَّيْخِ مَذْخَلًا عَظِيمًا فِي تَكْمِيلِ الْمُرْيَدِ﴾

(بیان القرآن، مسائل السلوک، سورہ ابراہیم، پ: ۱۳)

ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا باوجود یہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس میں نہایت قوی دلیل ہے کہ شیخ کومرید کی تکمیلی اصلاح میں زبردست دخل ہے۔ بس اہل اللہ دروازہ تزکیہ ہیں وسیلہ تزکیہ ہیں، اصل مزکی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿الَّهُ وَلِيُّ الدِّينِ أَمْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورہ البقرہ، آیہ: ۲۵)

اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف نکلتا ہے اور جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا:

﴿وَلُوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلٰيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّيْتُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلِكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْكُمْ مَنْ يَشَاءُ﴾
 (سورة التور، آیة: ۲۱)

اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صحابہ! اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ توجہ صحابہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی صحبت حاصل تھی، اُس آفتاب نبوت کی صحبت کہ ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا اُن کا تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و مشیت پر موقوف ہے تو پھر کس کامنہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاج نہ ہو۔ پس اے اللہ ہم آپ سے اس تیشیرتے تزکیہ کی بھیک مانگتے ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے۔ لہذا آپ اپنا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر تزکیہ موقوف ہے۔ (فغان روی، صفحہ: ۳۰-۲۸)

۲۹ آیت نمبر

﴿لَيْلَنْ شَكْرُتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْلَنْ كَفَرُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

(سورة ابراهیم، آیة: ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اور زیادہ دیں گے، جس قوت پر شکر زیادہ کرو گے جس نعمت پر شکر زیادہ کرو گے اس میں زیادتی ہو گی اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو ان عذابی لشیدیڈ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ محبملہ اور نعمتوں کے ایک نعمت ہے جس کا ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا اور وہ ہے ترک معصیت اور اس وقت اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس نعمت کا تعلق محض رحمت اللہی سے ہے، جس پر رحمت ہوتی ہے وہی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اللہم اذ حمنی بترک المعنی اے اللہ! ہم پر وہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل رحمت یہ ہے اور یہ جو مکانوں پر لکھ دیتے ہیں ہذا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ تو کچھ فضل حاصل نہیں اگر معصیت میں مبتلا ہیں، نہایت ہی عذاب اور ذلت میں ہیں مگر وہ بندے جو گناہوں سے محفوظ یکیے گئے اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا بہت بڑی نعمت ہے لیکن عام لوگ گناہ چھوڑنے کو نعمت نہیں سمجھتے حالانکہ یہ نعمت عظیمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کی ضمانت ہے کیونکہ بغیر مقنی ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور بغیر گناہ چھوڑ کے کوئی مقنی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ترک معصیت سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی نعمت نہیں کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی سے وہ ذات ملتی ہے جو بے مثل ہے۔ یہاں ولایت عاملہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولایت عاملہ تو ہر گنہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے، یہاں ولایت خاصہ

مراد ہے یعنی وہ تعلقِ خاص جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے اور یہ تعقیلِ موقوف ہے گناہوں کے چھوڑنے پر۔ پس ترکِ معصیت اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، یہ نعمت نہ کافر کو ملتی ہے، نہ منافق کو ملتی ہے، نہ گنہگار کو ملتی ہے، یہ غذائے اولیاء ہے جس کو یہ نعمتِ ملگی وہ فاسق رہ ہی نہیں سکتا ولی ہو جاتا ہے۔ بندہ جس وقت ترکِ معصیت کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت سے اس کی ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ ولی اللہ لکھ لیا جاتا ہے جس دن اس نے ارادہ کر لیا کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ آنکھوں سے نامحروم کو دیکھوں گا، نہ کانوں سے ان کی بات سنوں گا، سارے اعضاء سے فرماں بردار ہوں گا اسی وقت سے وہ ولی ہو گیا کیونکہ اس وقت جب وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا ارادہ توبہ توڑنے کا نہیں ہے اس لیے ارادہ توبہ قبول ہے بشرطیکہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو اور اگر پھر بھی وسوسہ آئے کہ میری توبہ بٹ جائے گی، ہزار بار میں اپنے دست و بازو کو آزماجکا ہوں تو یہ وسوسہ شکست توبہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ یہ عبیدیت کاملہ ہے کہ بندہ توبہ تو کر رہا ہے مگر اپنے ارادہ پر اسے بھروسہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے پھر گناہ نہ ہو جائے اس لیے اے اللہ آپ کی مدد چاہتا ہوں کیونکہ صرف گناہوں سے بچنے والے ہی آپ کے دوست ہیں۔

معلوم ہوا کہ ترکِ معصیت سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ وہ سببِ ولایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت سب سے ارفع و اعلیٰ نعمت ہے۔ پس جب گناہ سے بچنے کی توفیق ہو تو بتائیے شکر ضروری ہے یا نہیں؟ جب ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے تو ترکِ معصیت پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اس نعمت پر تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نعمت کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا:

﴿إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورة الانفال، آیہ: ۳۲)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں یعنی میرے ولی صرف وہ ہیں جو مجھے ناراض نہیں کرتے۔ وہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں جو میری نافرمانی پر دلیری اور جرأت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے یا ذکر کرنے والے یا اذابین پڑھنے والے یا صلوٰۃ اشراق و چاشت پڑھنے والے میرے دوست ہیں بلکہ ﴿إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ فرمایا کہ میرے دوست صرف اہلِ تقویٰ ہیں۔ لہذا جس کو کسی گناہ کے مشغله سے چھٹی مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ شکر کی برکت سے حسبِ وعدہ الٰہی اور زیادہ مدد آئے، اور زیادہ فضل و رحمت نازل ہو، اور زیادہ توفیق ہو اور شکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آج ہم میں نوے فیصد تقویٰ ہے تو شکر کی برکت سے سو فیصد ہو جائے گا کیونکہ شکر پر نعمت میں

اضافہ کا وعدہ ہے لَآزِيْدَ نَعْمَکُ فرمایا کہ ہم کماً اور کیفانعمت میں اضافہ کریں گے، جس کیتی سے متینی ہو اس کیفیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور کیفیت میں اضافہ یہ ہے کہ صرف تقویٰ اختیار کرو گے اور گناہوں سے فرار اختیار کرو گے اور اگر کبھی احیاناً خطا ہو گئی تو نہایت ندامت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پس شکر سے تقویٰ میں ترقی ہو گئی اور ترقی پر شکر کرے گا، تو تقویٰ میں اور اضافہ ہو گا اور اضافہ پر شکر کرے گا تو نعمت میں مزید ترقی ہو گی اور اس طرح ترقی کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ پس شکر ترقی فی التقویٰ کا اور ترقی فی النعمت فی الولایت کا ذریعہ ہے۔

سب سے بڑی نعمت ترکِ معصیت یعنی تقویٰ ہے۔ اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نعمت کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا، غیر متینی کو اللہ کی دوستی مل ہی نہیں سکتی، جب تقویٰ کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے اور متینی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو۔ متینی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضور ہے۔ اگر وضوٹ جائے تو پھر وضو کرو۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر متینی بن جاؤ۔ اول تو کوشش کرنے سے ان شاء اللہ گناہ بالکل چھوٹ جاتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آجاتا ہے اس کو گناہوں سے شرم آتی ہے۔ میر اشعر ہے۔

جب تجلیٰ اُن کی ہوتی ہے دل برباد میں

آرزوئے ماسوئی سے خود ہی شرماتا ہے دل

لیکن اگر باوجود کوشش کے پھر گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّ غَرِّ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ والاستغفار)

جب تک موت کا غرغرة نہ شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔

بہر حال توبہ سے گناہوں کی معافی تو ہو جاتی ہے لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کبھی نہ ہو اور طبیعت شریف بن جاتی ہے جب دل میں وہ حقیقی شریف یعنی اللہ آجاتا ہے، پھر غیر شریفانہ حرکت سے خود شرم آتی ہے۔ جب تک دل میں اللہ نہیں آتا یعنی جب تک اللہ تعالیٰ سے نسبتِ خاصہ حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک گناہ کے تقاضوں سے آدمی مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جب در دل مستقل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نسبتِ مستقل قائم ہو جاتی ہے، تعلق مع اللہ علی سطح الولایت نصیب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی گناہوں سے کامپتار ہتا ہے اور اس غم میں گھلتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے نافرمانی سے سخت احتیاط کرو ورنہ یہ نفس کی زندگی کی علامت ہے مولا ناروی فرماتے ہیں۔

تاھوی تازہ سست ایمان تازہ نیست
کیس ھوی جز قفل آں دروازہ نیست

جب تک خواہش نفسانی گرم ہے اس وقت تک ایمان تازہ نہیں ہے کیونکہ خواہش نفس اس بارگاہ شاہی کے دروازہ قرب کے لیے تالہ کا کام کرتی ہے۔ گناہ اللہ کے دروازہ قرب پر تالہ کا قائم مقام ہے اور اللہ کا تالہ کون کھول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تالہ پر بھلا تھہاری کنجی لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کا تالہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کھلتا ہے اللہُمَّ افْتَحْ أَفْقَالَ قَلْوْبِنَا بِذِكْرِكَ اَرِ اللَّهَ! آپ کا تالہ آپ کے ذکر ہی سے کھلتا ہے جس کا تالہ ہے اسی کے نام کی برکت سے کھلے گا دنیا کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کا تالہ نہیں کھول سکتی، یہ تالہ ایسا ہے جس پر کوئی کنجی نہیں لگتی سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے اور جب تالہ کھلتا ہے تب خزانہ نظر آتا ہے اور گناہ ذکر کی ضد ہے پس گناہ کے ساتھ دل کے تالے کیسے کھل سکتے ہیں الہذا گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تب یہ تالے کھلیں گے اور قرب کے خزانے ہی خزانے نظر آئیں گے۔

لہذا سب گناہوں کو جلد از جلد چھوڑ دو اور گناہ چھوڑ کر شکر بھی کرو لیکن پھر بھی اپنے کو پاک نہ سمجھو۔ اپنا تزکیہ کرانا، گناہوں سے پاک ہونا تو فرض ہے لیکن اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں خوب جانتے ہیں:

﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتُكُمْ فَلَا تُنْزِكُوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

(سورة النجم، آیہ: ۳۲)

جب تم اپنی ماوں کے پیٹ میں بچے تھے خون اور حیض میں لظر ہوئے پھر ہمارے سامنے کیا پاک بنتے ہو اپنے کو تم پاک اور مقدس نہ سمجھا کرو، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون کتنا متقی ہے۔
لیعنی کون متقی ہے اور کون نہیں، معلوم ہوا کہ پاک کردن ضروری، پاک گفتہ حرام یعنی اپنے کو پاک کرنا واجب ہے لیکن خود کو پاک کہنا اور پاک سمجھنا حرام ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حسن بھی ایک نعمت ہے۔ تو حسن کا شکر یہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کی تفسیر میں دیکھئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے اس لیے تفسیر روح المعانی میں حسن کے شکر کا طریقہ لکھا ہے۔ کیا یہ شکر ہے کہ کا جل قلوپڑہ لگا کر اپنی چٹک مٹک دھلاو؟ حسن کا شکر یہ ہے کہ اپنے حسن کو کسی نافرمانی میں بنتانہ ہونے دے، اللہ پاک جس کو حسین پیدا کرے اس کا شکر یہ ہے کہ حسن کے خالق کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بنتانہ ہو:

﴿أَنْ لَا يُشَوِّهَ حُسْنَةٍ فِي مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى شَانُهُ﴾

اپنی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال نہ کرے اور خوبصورتی ایک کلی مشکل ہے۔ کلی مشکل اس کلی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے درجات ہوں جیسے کوئی زیادہ حسین ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے۔ پس جس درجہ میں بھی حسن ہواں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا حسن کا شکر ہے حدیث پاک کی دعا ہے:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّ حَسَنَتْ خَلْقُ فَحَسِّنْ خُلُقِي﴾

مرقاۃ المفاتیح، کتاب الاداب، باب الرفق والحياة وحسن الخلق

اے اللہ! آپ نے مجھے حسین خلق فرمایا پس آپ کا احسان عظیم ہو گا کہ آپ میرے اخلاق کو بھی حسین کر دیجئے تاکہ اس نعمت حسن کو آپ کی معصیت میں استعمال کر کے اپنے اخلاق کو میں خراب نہ کروں۔ پھر اگر کوئی فاسق و فاجر اس نعمت حسن کو غلط استعمال کرتا ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی خدا سے دور ہے لیکن اگر کوئی اللہ والوں کا صحبت یافتہ بتلاعے معصیت ہو جائے تو آہ کس قدر افسوس و تعجب کا مقام ہے۔

آہ! مقرب حق ہو کر دوری کے عذاب میں بتلا ہے اس لیے ہرگناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو اور کوشش کرو کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ ہونے دو۔ گناہ سے نبچنے کی طاقت موجود ہے۔ اگر طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتے کہ يَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اتَّقُوا اللَّهَ کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمیں طاقتِ تقویٰ دی ہے مگر ہم اسے استعمال نہیں کرے۔ آنکھوں کو اجنبیہ عورتوں سے اور امروں سے بچانا، کانوں کو ساز اور گانوں سے بچانا، ہونٹوں کو غلط کاموں سے بچانا، ہر اعضاء کے احکام ہیں اور سب کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن نفس کی محبت ہم کو زیادہ ہے بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے، جب بھیں کو اپنے بچہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو ماں کو دودھ پورا نہیں دیتی، چار پانچ کلو مالک کو دیتی ہے تو ایک کلو بچہ کے لیے بچا لیتی ہے اسی طرح نفس دشمن کو خوش کرنے کے لیے ہم طاقتِ تقویٰ کو بچا لیتے ہیں، طاقت کو پورا استعمال نہیں کرتے تاکہ نفس دشمن کو مزہ آجائے حالانکہ نفس دشمن، بین الاقوامی دشمن سے بھی زیادہ قوی دشمن ہے اور بین الاقوامی بھی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، رسول خدا کا اسفیر ہوتا ہے، اس کا اعلان اللہ کا اعلان ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نفس تمہارا دشمن ہے اور کتنا دشمن ہے۔

﴿إِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ فِي جَنِّبِكَ﴾

تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا نام نفس ہے جس کو خوش کرے کے لیے بعض بے وقوف اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، اس لیے ہر گناہ سے استغفار و توبہ کرو اور

ہر گناہ سے نچنے کی پوری کوشش کرو، جو ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے گناہ سے نچنے کی دی ہے اس ہمت اور طاقت کو پورا استعمال کرو۔ گناہ سے نچنے کے لیے تین ہمتوں کی ضرورت ہے۔

۱۔ ایک ہمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی دی ہے اس کو استعمال کرو۔

۲۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اے خدا! جو ہمت تو نے تقویٰ کی دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔

۳۔ تیسرا خاصان خدا سے دعا کرو کہ آپ خدا کے خاص بندے ہیں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کر میں فلاں فلاں گناہ چھوڑ دوں۔ (حقیقت شکر، صفحہ: ۱۹)

آیت نمبر ۵

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾

(سورة الحجر، آیہ: ۹)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا مِنْ صِيفَه جَمِيعَ نَازِلٍ هُوَ نَكَارًا

میں نے اس وقت ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانو! ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِّكْرَ اگر کوئی کہہ کہ اللہ میاں تو ایک ہیں انا نازل ہونا چاہیے تھا لیکن احد کے لیے جمع کا صیغہ نَحْنُ کیوں نازل فرمایا۔ علامہ آل ولی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ سلطان کی گفتگو کا یہی انداز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قانون جاری کیا ہے، وہ میں نہیں کہتے، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتے وجہ کیا ہے؟ تَفْخِيمًا لِشَانِهِ یعنی اپنی شان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نَحْنُ نازل فرمایا انا نازل نہیں فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِّكْرَ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ عظمتِ شانِ حق ہے، حق تعالیٰ کی عظمت کا عنوان ہے، بادشاہ ہمیشہ ایسے ہی بولتے ہیں۔ آج کل کے لچھر قسم کے بادشاہ نہیں۔ پرانے زمانہ کے جو صحیح بادشاہ ہوتے تھے ان کا اندازِ تکلم یہی ہوتا تھا اور قرآن پاک تو حکم الحاکمین کا کلام ہے لہذا کلام اللہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے پھر اس کی کیا شان ہوگی۔

وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ قرآن پاک کی دائمی حفاظت کی دلیل ہے

تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت اپنی طرف فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ اور جملہ اسمیہ سے فرمایا۔ جملہ اسمیہ سے جوبات بتائی جاتی ہے اس میں ثبوت اور دوام ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ

حدوث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کو جملہ اسمیہ سے بیان کر کے قیامت تک کے انسانوں کو آگاہ فرمادیا کہ سارے عالم کریمیرے اس کلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کی حفاظت جملہ اسمیہ سے نازل کر رہا ہوں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ لِهِنَا هُمْ دُوَّاماً اس کی حفاظت کریں گے اور جسے اللہ کھے اسے کون پکھے اور جسے اللہ نہ کھے اسے ساری دنیا پکھے۔ یہ دوسرے جملہ میرا بڑھایا ہوا ہے۔

(عزمت حفاظت خلاط کرام، صفحہ: ۱۷-۱۸)

قرآن پاک کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں

علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْخَ الْمُهِبِّ لَوْ تَغَيَّرَ نُقْطَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَيَرُدُّ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ اگر مصر کا کوئی شیخ مہیب قرآن کی کوئی آیت غلط تلاوت کر دے تو ہمارا نو دس سال کا کوئی بچا اس کو ٹوک دے گا کہ أَخْطَاطٌ يَا شَيْخٌ اس کی غلطی پکڑ لے گا۔

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ چونکہ توریت، زبور و انجیل کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی اس لیے سب میں تحریف ہو گئی۔ ان کتابوں کی حفاظت اس وقت کے علماء کے حوالہ تھی۔ علماء کے بعد والی نسلوں نے ان کو بچنا شروع کر دیا ہے اج توریت، زبور و انجیل محفوظ نہیں ہے، جو موجود ہے تحریف شدہ ہے لیکن قرآن پاک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ جملہ اسمیہ سے دواماً اور شبوتاً نازل ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ چنانچہ بالفرض اگر امریکہ، روس، برطانیہ اور سارے عالم کی طاغوتی طاقتیں مل کر دنیا بھر کے قرآن پاک کے نئے جمع کر کے جلا دیں تو ہمارے لاکھوں حفاظ اس کو پھر لکھوادیں گے۔ قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہے اور ہر زمانہ میں رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں۔

حفاظتِ قرآن پاک کی خدائی ذمہ داری کے منتخب افراد

اور جہاں حفظِ قرآن کے مدارس کھولے جاتے ہیں وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی اس سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں وہ مسلمان منتخب مسلمان ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو سرکاری اعلان قرآن پاک کی حفاظت کا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرشتوں سے نہیں کرائیں گے، جنوں سے نہیں کرائیں گے بلکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کا تفسیری جملہ علامہ آلوی نے بیان فرمایا ای فی قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا ہم اپنے دوستوں کے قلوب میں اس کو محفوظ کریں گے۔

قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ ہے

تو جہاں جہاں حفظ قرآن کے مدارس ہیں یہ سب بارگاہ حق کے سرکاری لوگ ہیں کیونکہ حفاظت قرآن پاک کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد اور کارکن ہیں اور وَإِنَّا لَهُ لَحْفَظُؤْنَ میں قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے اور ان الفاظ کے معانی و مفہوم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے کیونکہ اگر کسی مکان کے باہر تالہ لگا ہو لیکن مکان کے اندر کا سونا چاندی اور جواہرات سب چوری ہو جائیں تو کیا حفاظتی حق ادا ہوا۔ لہذا قرآن پاک کے الفاظ میں بھی قیامت تک کوئی تحریف و تبدل و تغیر نہیں ہو سکتا اور قرآن پاک کے معانی و مفہوم میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت مع التجوید وغیرہ کی حفاظت کے لیے دارالعلوم کا قیام بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک کے معانی و علوم کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے الفاظ و تجوید کا سیکھنا۔ قرآن پاک کے الفاظ و معانی دونوں اہم ہیں اور دونوں کی حفاظت کا خدائی اعلان ہے۔

آیتِ قرآنی سے مکاتب و مدارس کے قیام کا ثبوت

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرمایتُلُوْا عَلَيْهِمُ اِيْشَكَ جو تیرے کلام کی تلاوت کرے، تیری آیات لوگوں کو سنائے و يَعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ اور کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ اس آیت کی علامہ آلوسی نے یقیسیر کی ای یُفَهِّمُهُمُ الْفَاظَةُ جو الفاظ قرآن پاک کے معانی بتائے و يَبْيَّنُ لَهُمْ كَيْفِيَّةَ أَدَاءِ و اور ان الفاظ کی کیفیت ادا بھی سکھائے۔ اس آیت سے قراءت کا بھی ثبوت ملتا ہے اور تعلیم کتاب کا بھی۔ لہذا حفظ قرآن کے مدارس کا قائم کرنا اور تعلیم کتاب اللہ کے لیے دارالعلوم کا قیام بھی مقاصد بعثت نبوت میں سے ہے۔

لہذا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، جن اساتذہ نے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جن لوگوں نے یہ مدارس قائم کیے اور ان کا اہتمام و انتظام چلایا جن لوگوں نے ان مدارس کے قیام میں مالی یا جانی کسی نوع کی اعانت کی وہ سب خوش نصیب ہیں، ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ سب کے سب وَإِنَّا لَهُ لَحْفَظُؤْنَ کی خدائی ذمہ داری کے افراد اور کارکن ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت اور کفالت کا جو وعدہ ہے یہ سب کے سب ظاہری ارکان کفالت اور مبرانی کفالت ہو گئے اور اس میں شامل اور منتخب ہو کر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ قرآن کی خدائی حفاظت کے اعلان میں وہ سب قبول کیے گئے۔ (عظمتِ حفاظۃ کرام، صفحہ: ۱۸۔ ۲۱)

آیت شریفہ کی شرح بعنوان دِکر

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں نَحْنُ کیوں نازل فرمایا ہے جبکہ اللہ واحد ہے اور عربی قاعدے سے واحد متكلم کے لیے آنا آتا ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نَحْنُ نازل فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا جواب علامہ آلوی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں دیا کہ بادشاہوں کا کلام اسی طرح ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی بادشاہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا بلکہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا نَحْنُ یہاں تَفْخِيمًا لِشَانِهِ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ وہ تھا ہے لیکن ساری کائنات کا خالق ہے۔ وہ اگر نَحْنُ نازل فرمائیں تو یہ حق دراصل ان ہی کا ہے، تمام شانیں ان ہی کو زیبا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کہ قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ علامہ آلوی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی صحیفہ آسمانی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا بلکہ ان کی حفاظت اس زمانہ کے علماء کے سپرد ہی۔ چنانچہ چند نسلوں کے بعد صحیفہ آسمانی فروخت ہونے لگے۔ قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری بنی ہیں لہذا قیامت تک کے لیے اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی اور وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا جو دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے یعنی قیامت تک قرآن شریف کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ امریکہ، روس، جمنی، جاپان اور اہل مغرب کی تمام طاقتیں اگر اپنی طاقت مادیہ سے قرآن شریف کو سمندر میں ڈال دیں تو ہمارے نو دس سال کے بچے جو آج حافظ ہوئے ہیں پھر دوبارہ قرآن شریف مکمل لکھوادیں گے۔

أُمّتٌ كَبُرٌ لَوْگُ كُونٌ ہیں؟

پھر علامہ آلوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا جو ذمہ لیا ہے تو کیا یہ آسمانوں پر ہو گا؟ نہیں! اسی زمین پر ہو گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ کی تفسیر میں ذرا اس تفسیری جملہ کو دیکھئے فرماتے ہیں ای فی قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ نَا لَيْسَنَ اپنے اولیاء اور دوستوں کے دلوں میں ہم قرآن پاک کو محفوظ کریں گے۔

تو جو بچے آج حافظ ہو گئے وہ گویا ولی اللہ ہو گئے بہ ثبوت تفسیر روح المعانی مگر اللہ سبحانہ، تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ حفاظ کرام کی عظمتوں کے لیے، ان کی عظیم الشان ولایت کے لیے اپنے بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ایک عظیم الشان عمل بتایا ہے۔ بتائیے کہ دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں اگر یہ برے اخلاق سے پاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں، ان کی سب خطائیں

معاف ہو جائیں اور گناہوں سے بچنے کی ان کوتوفیق رہے تو یہ مضمون حافظ قرآن کی عظمت کا علمبردار ہے یا نہیں؟ اور عزت ہو گی یا نہیں؟ الہذا سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو جامع صغیر میں منقول ہے کہ:

﴿اَشْرَافُ اُمَّتٍ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَاصْحَابُ اللَّيلِ﴾

(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الصلوٰۃ، باب التحریض علی قیام اللیل، ص: ۱۱۰)

میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہوں اور رات کی نماز یعنی تہجد بھی پڑھتے ہوں۔

اصحاب اللیل بنے کا آسان نسخہ

اب آپ کہیں گے کہ صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اصحاب اللیل کیسے بنیں گے؟ تین بجے رات کو اٹھ کر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب اللیل بنے کا آسان نسخہ بتادیا کہ چار فرض عشاء اور دو سنت پڑھ کر توتر سے پہلے دور رکعات نفل پر نیت تہجد پڑھ لو تو قیامت کے دن سب تہجد گزار اٹھائے جاؤ گے۔ بتائیے کتنا آسان نسخہ ہے۔ تو شیق و توفیق و تسهیل اہل علم کے لیے عربی عبارت پیش کرتا ہوں۔ علامہ شامی حدیث نقل کرتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشاَءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيلِ﴾

(حاشیۃ رذ المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنواول، ج: ۲، ص: ۲۳)

فرض عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے وہ سب قیام اللیل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد شامی اپنا فقہی فیصلہ لکھتے ہیں:

﴿فَإِنْ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ تَحْصُلُ بِالِّتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشاَءِ قَبْلَ النُّومِ﴾

عشاء کے بعد سونے سے پہلے چند نفل پڑھ لو سنت تہجد ادا ہو جائے گی حالانکہ آپ تین بجے رات کو نہیں اٹھئے مگر اب زمانہ کمزوری اور ضعف کا ہے۔ اس زمانہ میں اعمال میں تسہیل اور سہولت دینا نہایت حکیمانہ اور ضروری بات ہے۔

تو جتنے حفاظاً ڈاکرام ہیں چاہے استاد ہوں یا طالب علم اور میں مشاتخ کو بھی کہتا ہوں جن کے سپرد اصلاح نفس کا کام ہے کروہ بھی عشاء کے چار فرض اور دو سنت کے بعد دور رکعات نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں۔ (تقریب تم بخاری شریف، ص: ۵)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ الْغَيْرِ مِنْ أَهْلِ ذَكْرِهِ مَرَاةً عَلَمَهُمْ

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کے صیغہ سے نازل فرمایا انا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ یہاں پر میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری ایک عجیب علم عظیم بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اہل ذکر فرمایا ہے اور قرآن شریف کو ذکر فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ علماء کو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور فرماتے تھے کہ جو عالم اللہ کو یاد نہ کرے وہ عالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا نام اہل ذکر رکھا ہے:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

(سورة النحل آیہ: ۳۳)

اگر تم لا تَعْلَمُونَ ہو تو یعْلَمُونَ لوگوں سے پوچھو جن کو اہل ذکر سے تعبیر فرمایا۔ علامہ آلوئی فرماتے ہیں کہ المُرَادِ بِأَهْلِ الذِّكْرِ عَلَمَاءُ أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں جو تمام امام سالفہ کے حالات سے باخبر ہیں۔

علماء کو اہل ذکر فرمانا ذکر کی تلقین ہے

میرے شیخ فرماتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اہل ذکر فرمادیں کہ یہ ہم کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، جن کے علم کی تعبیر ذکر سے ہوئی ہو وہ عالم بھی اگر مالک کو کم یاد کرے تو وہ عالم ہے یا ظالم ہے اور ہمزہ سے آلم ہونا تو بہت آسان ہے، الم پہنچانا، ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں حالانکہ ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔

اے اللہ! جب آپ کے بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شان ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ شان ہے کہ جب بھائیوں نے کہا اے یوسف اب آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ کتم پر آج کوئی الزام نہیں ہم نے سب معاف کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا اب آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا اور فرمایا تھلا تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اے اللہ! جب آپ کے انبیاء میں رحمت کی یہ شان ہے تو اے اللہ! آپ تو خالق انبیاء ہیں آپ کی شان رحمت کیا ہو گی؟ اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ سے ایک اہم مسئلہ سلوک کا استنباط

اس پر حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی نے ایک مسئلہ تصوف بیان فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے تاکہ اپنے وقت کو خالق کی عبادت میں مشغول رکھیں لہذا ان کی نظر عرشِ اعظم پر ہوتی ہے الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى مَجَارِي الْقَضَاءِ وَلَا يُفْنِي أَيَّامَهُ بِمُخَاصِمَةِ النَّاسِ اولیاء اللہ وہ ہیں جو فیصلہ جاری ہونے کی جگہ پر یعنی عرشِ اعظم پر نظر رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ایام کو مخلوق کے جھگڑوں میں ضایع نہیں کرتے۔ مخلوق کے جھگڑوں میں جو پھنسا اس کا دل کے قابل کہاں رہتا ہے۔ یہ بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک کی عربی عبارت نقل کر رہا ہوں الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى مَجَارِي الْقَضَاءِ وَلَا يُفْنِي أَيَّامَهُ بِمُخَاصِمَةِ النَّاسِ بلْ يَقُولُ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنے اوقات ضایع نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ جاؤ سب معاف کر دیا اور اپنا دل بچا کر اللہ کو پیش کرتا ہے۔

آیت نمبر ۵

﴿فَالَّذِي هُوَ لَأَءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾

(سورۃ الحجر، آیہ: ۶۸)

حر میں شریفین میں حفاظتِ نظر کے متعلق علمِ عظیم

نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے لیکن عالمِ حر میں شریفین میں اس کی حرمت اشد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں آنے والے اور آنے والیاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور ہر میزبان اپنے مہمانوں کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو جو فرشتوں کو حسین اڑ کے سمجھ کر ان کی طرف بُرا ارادہ کر رہی تھی اور اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں لہذا انہوں نے فرمایا:

﴿فَالَّذِي هُوَ لَأَءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾

(سورۃ الحجر، آیہ: ۶۸)

اے نالَّاقو! یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوانہ کرو۔ معلوم ہوا کہ مہمان کو ذلیل کرنا میزبان کو رسوائی کرنا ہے۔ لہذا یہاں بد نظری کرنا، ان کے لیے دل میں برے خیال لانا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو رسوائی کرنا ہے کیونکہ:

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

(سورۃ الغافر، آیہ: ۱۹)

اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے رازوں سے باخبر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ نالائق میرے مہمانوں کو بڑی نظر سے دیکھ رہا ہے اور ان کے متعلق بُرے بُرے خیالات پکار رہا ہے لہذا جو یہاں بدنظری کرے گا اللہ تعالیٰ کے حقوقِ عظمت میں مجرم ہو جائے گا۔ اور مدینہ شریف میں بد نگاہی کی تو عظمتِ الہیت میں کوتاہی کا بھی مجرم ہوا اور عظمتِ رسالت کے حقوق میں بھی مجرم ہوا کیونکہ حرم مکہ میں وہ اللہ کے مہمان ہیں اور مدینہ منورہ میں وہ اللہ کے بھی مہمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں۔ یہاں چند دن تقویٰ سے گذارنے سے کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ملکوں میں بھی ہمیشہ کے لیے حفاظتِ نظر کی توفیق دے دیں کہ یہ شخص اتنا عادی تھا لیکن ہمارے حرم کا احترام کیا اور یہاں اپنے نفس پر مشقت کو برداشت کیا چلواس کی برکت سے عجم میں بھی اس کو تقویٰ دے دو لہذا کیا عجب کہ تقویٰ فی الحرم، تقویٰ فی عجم کا ذریعہ ہو جائے۔

اس آیت سے یہ استدلال کہ مہمان کی ذلت کو میزبان اپنی ذلت سمجھتا ہے زندگی میں پہلی بار

اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بدلہ امین میں عطا فرمایا۔

وَهُمْ حُمْرٌ كَمَنْ تُوقَىٰ تَرَهُ لَيْكَنْ

نَعْ جَامُ وَ مِنَا عَطَا هُورَهُ ہے ہیں

اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ کی محبت کی شراب تو وہی چودہ سو سال پرانی ہے لیکن اس زمانہ کے مزاج کے لحاظ سے تعبیرات و عنوانات کے اللہ تعالیٰ نئے جام و مینا عطا کرتا ہے۔ پس اللہ قبول فرمائے تو یہی ایک مضمون میری مغفرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ (نبی پیغمبر ﷺ، صفحہ: ۵۵)

آیت نمبر ۵۲

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ

السَّاجِدِينَ ۝﴾

(سورة الحجر، آیہ: ۹۸-۹۷)

آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے متعلق ایک نیا علم عظیم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے اس قدر غم پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللہ تعالیٰ کا صرف نَعْلَمُ فرمانا ہی کافی تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا نازل کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے بوجہ ان نالائقوں کے نالائق اقوال سے۔ لہذا آپ کے

غم کا علاج یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ آپ سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھیے اور اپنے رب کی تعریف کیجئے جس نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ یہاں فَسَبِّحْ کا جو حکم ہے اس میں کئی راز ہیں جن میں سے ایک راز اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کو جو یہ لوگ ظالم، مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ ہماری پاکی بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس عیب سے کہ پاگلوں کو نبوت عطا فرمادے، وہ ہرگز کسی پاگل اور جادوگر کو نبوت نہیں دے سکتا فَسَبِّحْ کے بعد بِحَمْدِ رَبِّکَ فرمایا کہ ہماری شیعج کے ساتھ ہماری حمد بھی بیان کیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو پیغمبر بنایا، اس عطاء نبوت پر ہماری حمد بیان کیجئے و کُنْ مِنَ السَّا جَدِيْنَ اور نماز شروع کر دیجئے اور پوری نماز کو سجدہ سے تعبیر کیا اس کو بلا غلط میں مجاز مرسل کہتے ہیں یہاں تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاَسِمِ الْجُزْءِ ہے اور سجدہ سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ قرب سجدہ میں عطا ہوتا ہے کیونکہ سجدہ میں بَيْنَ قَدْمَيِ الرَّحْمَنِ بندہ کا سر جمن کے قدموں پر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور یہاں مجاز مرسل کیوں استعمال فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غمزدہ تھا اور سجدہ میں قرب زیادہ عطا ہوتا ہے لہذا سجدہ کا حکم دے کر گویا یہ فرمایا کہ آپ میری چوکھٹ پر سر کھ دیجئے جیسے باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا جب تمہیں کوئی ستائے تو میری گود میں آ جایا کرو۔

(نیوض ربانی، صفحہ: ۳۵-۳۶)

آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ کے لاطائفِ عجیبہ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ کا راز جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا یہ شاید آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے، نہ کہیں میری نظر سے گزرا۔ اس علم میں شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کافر جو آپ کی شان میں بکواس کر رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے جس سے آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے لہذا اس غم کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے کہ آپ کارب پاک ہے اس عیب سے کہ وہ کسی پاگل اور جادوگر اور کاہن کو نبوت دے دے۔ اس کے بعد بِحَمْدِ رَبِّکَ فرمایا کہ شیعج کے ساتھ اپنے رب کی حمد بھی بیان کیجئے کہ جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبوت عطا کی ہے اس پر ہمارا شکر کیجئے کہ آپ اصلی نبی ہیں اور رَبِّکَ فرمایا کہ جو کچھ غم آپ کو پیش رہا ہے وہ ہماری شانِ ربویت کے تحت ہے، اس میں ہماری ادائے تربیت خواہی شامل ہے اور جس طرح باپ اپنی اولاد کو ناقص غزادے کر ہلاک نہیں کر سکتا ہم تو اصلی پالنے والے ہیں ہم کسی پاگل یا جادوگر وغیرہ کو نبوت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ امت کو تباہ کر دے لہذا آپ کو سید الانبیاء بنا کر قیامت تک آنے والی امت کے لیے

کامل روحانی غذا کا انتظام کیا ہے۔ جو کچھ معمروں ہے یہ لطائفِ قرآنیہ سے ہے تفسیر نہیں ہے۔
(عطاء بر بانی، صفحہ: ۵۴-۵۵)

آیت نمبر ۵۳

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾

(سورة النحل، آیہ: ۹۲)

مال اور جوانی کے بقاء کا طریقہ

جو مال اللہ کے دین میں استعمال ہو گا وہی ہمارے کام آئے گا، وہی ہماری دولت اور پونجی ہے اور یہ بھی فنا نہیں ہو گا باقی جو کھایا فنا ہو گیا، جو پہنچا ختم ہو گیا لیکن جو اللہ پر فدا ہوا، جس سے اللہ کا دین پھیلایا یہ سب باقی ہو جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی وہ ہمیشہ باقی رہے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے اندر جوانی محسوس ہو گی، بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہوں گے لیکن دل میں جوانی رہے گی کیونکہ وہ جوانی اللہ پر فدا ہو کر باقی ہو گئی۔ لہذا غیر فانی جوانی اگر چاہتے ہو تو اللہ پر فدا کر دو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا مال کبھی فنا نہ ہو تو اللہ پر فدا کر دو، اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی غیر فانی ہو جائے تو اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ اس کی دلیل ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، اپنا مال، اپنی جوانی اپنی زندگی اللہ پر فدا کر دی سب غیر فانی ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ باقی ہے لہذا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ اب جوانی کو اللہ پر کیسے فدا کریں؟ دل میں جو خواہش پیدا ہوا اور اللہ اس خواہش سے راضی نہ ہو تو اس خواہش کو توڑ دو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ اور اس کی مشق کسی اللہ والے کی صحبت اور اس سے اصلاحی تعلق سے نصیب ہوتی ہے۔ (الاطاف بر بانی)

جوانی کے قائم و دائم رکھنے کا طریقہ

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اگر تم نے اپنے عیش میں استعمال کیا اور ان کو خدا پر فدا نہیں کیا یعنی خدا کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال نہیں کیا تو وہ سب فنا ہو جائیں گی وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو کچھ تم نے اللہ پر فدا کیا، جو میرے پاس بھیج دیا تو کیونکہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں تو تمہارا فنا ہونے والا مال بھی ہمیشہ رہے گا، جو کچھ میرے پاس بھیج دو گے ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا۔ اگر تم نے اپنی جوانی مجھ پر فدا کی ہے تم تمہاری جوانی بھی ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ وہ ایسے باقی ہیں کہ ان کے خزانے میں جو چیز بچنے جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے۔ لہذا جو چاہے کہ اس کی جوانی قائم و دائم رہے وہ جوانی کو اللہ پر فدا کر دے یعنی حرام لذتوں میں، حرام نظرؤں

میں، حرام بوسوں میں ضایع نہ کرے، تمام آرزوؤں کا خون کر دے تو سمجھ لواں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی، اس کی جوانی، اس کے دل کی بہار ہمیشہ قائم رہے گی، وہاں خزاں ہے ہی نہیں اس کے بال سفید ہوں گے لیکن اس کے دل کی مستی وجوانی کے عالم کا کیا عالم ہو گا، سارا عالم اس کے ادراک سے قاصر ہو گا۔ اس عالم کو صرف اس کا دل ہی محسوس کرے گا۔ اہل اللہ کی اسی شان کو میں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

عناصِرِ مضمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں
مگر چہرہ سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی
اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے
کہ ان کے قلب سے مستی و جوانی نہیں جاتی
کہوں میں کس طرح سے شانِ ان اللہ والوں کی
لباسِ فقر میں بھی شانِ سلطانی نہیں جاتی

لہذا درِ دل سے کہتا ہوں کہ اے جوانو! جن پر جوانی چڑھ رہی ہے، جن کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے اپنی جوانیوں کو اللہ پر فدا کر دو۔ اور اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے یہ اٹھارہ سال کی عمر میں شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا اور حضرت سے پہلی ہی ملاقات میں چالیس دن حضرت کے در پرہ پڑا اور پھر سولہ سال دن رات حضرت کی خدمت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جوانی دینے کا مزہ معلوم ہے۔ اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں کہ جو تم کو اللہ کے نام پر جوانی فدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے یہ بھی اللہ کے کرم سے جوانی اللہ کو دے چکا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ بڑھا ہمیں پھنسا رہا ہے۔ یہ بڑھا جوانی اللہ کے نام پر فدا کر کے اور اس کا مزہ لوٹ کر اب بتارہا ہے کہ جو جوان اللہ پر فدا ہوتا ہے اس کی جوانی کائنات میں بے مثل ہے کیونکہ وہ اللہ کی بے مثل ذات پر فدا ہوا ہے اور ٹیڈیوں پر مرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں، ان کو کف افسوس ہی ملتے ہوئے پایا۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ: ۸۳-۸۵)

الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ كی تقریر سے حدیث کی بقاء باللہ کا منطقی اثبات

الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ عالم کی ہر چیز میں تغیر ہو رہا ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حادِثٌ ہر متغیر چیز حادث ہے فالْعَالَمُ حادِثٌ پس عالم حادث ہے۔ لہذا ہم بھی حادث ہیں کیونکہ عالم کا جزو ہیں۔ جب پورا عالم حادث ہے تو ہم کس سے دل لگائیں، کس پر فدا ہوں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں:

میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے

لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے

حادث پر جو حادث فدا ہو گا تو میزانیہ اور مجموع حادث ہی ہو گا۔ لہذا کیوں نہ اس واجب الوجود مولیٰ پر فدا ہو جائیں کہ جہاں پہنچ کر حادث بھی باقی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ کیوں ہوں، وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ كیوں نہ ہو جائیں۔ وہ ایسے باقی ہیں کہ جو حادث ان کے پاس پہنچ گیا وہ بھی باقی ہو گیا۔ لہذا اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر کے اپنی جوانی کو باقی کرو، اپنے مال کو اللہ پر فدا کر کے مال کو باقی کرو۔ اپنی جان و مال، خواہشات و جوانی اللہ پر فدا کرو تاکہ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ ہو جاؤ۔ حادث پر فدا ہو گے تو مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ رہو گے۔ یَنْفَدُ کے دائرہ سے اگر نکلا ہے تو اللہ پر فدا ہونا سیکھو۔ اگر باقی باللہ ہونا چاہتے ہو تو فانی فی اللہ ہونا سیکھو۔ یہ منطقی تقریر ہے۔ منطق کے کتابوں میں جو عالم متغیر پڑھا تھا الحمد للہ آج وصول ہو گیا۔ لوگ حادث و قدیم کی اصطلاحات تک ہی رہتے ہیں لیکن ان سے معرفت کا سبق لینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ فالحمد لله تعالى ولا فخر يا ربی۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۲۱-۲۰)

آیت نمبر ۵۲

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتِيْ صَغِيرِاً﴾

(سورۃ الاسراء، آیة: ۳۲)

شیخ کے لیے دعا کرنے کی دلیل

شیخ بھی روحانی باپ ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بیان القرآن میں سائل السلوک میں رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتِيْ صَغِيرِاً کے ذیل میں لکھا ہے کہ شیخ کا بھی وہی حق ہے جو ماں باپ کا ہے، وہ بھی ربی میں ہے، وہ بھی پال رہا ہے، روح کی تربیت کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی دعماً نگناہی آیت سے ثابت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! ہمارے ماں باپ پر حرم فرمائیے جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت سے پالا۔ لہذا شیخ کے لیے بھی دعماً نگناہ چاہیے۔ اگر شیخ کے حق میں کوتا ہی ہو جائے تو جلدی حلماً کرلو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ چیزے ہزاروں لاکھوں مرید شیخ کو دے سکتے ہیں۔ ہم شیخ کے محتاج ہیں شیخ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس کا خاص اہتمام کرو کہ شیخ کا قلب مکدر نہ ہونے پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے اولیاء کا دل دکھائے۔ اذیت اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اذیت تسلیم فرمایا۔ اس لیے انتقام کی وعید فرمائی کہ:

﴿مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذْنَنَهُ بِالْحَرْبِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الرفق، باب التواضع)

جو میرے اولیاء کو سرتا تا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں تو جب بھی خطا ہو جائے اور شیخ کو کسی قسم کی

تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور شیخ سے بھی ندامت قلب سے معافی مانگو۔ (الاطفربانی)

آیت نمبر ۵۵

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾

(سورة الکھف، آیة: ۱۲)

سلوک میں ایک عمر اہل اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر موازنیت کی برکت سے جب فنا یعنیت کاملہ نصیب ہو جاتی ہے اور قلب کا رُخ ہمہ وقت حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل پر الہامات و علوم و معارف غیبیہ کا ورود ہونے لگتا ہے جیسے ریڈ یوکی سوئی کارخ اگر ما سکوکی طرف ہو جائے تو گانا بجانا اور فتن و فجور کی خبریں آنے لگی ہیں اور اگر کمک شریف کی طرف ہو جائے تو لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ اور اذان و تکبیر کی آوازیں آنے لگتی ہیں اسی طرح جب دل کی سوئی کارخ حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل میں عالم آخرت کی خبریں آنے لگتی ہیں، الہامات اور وارداتِ غیبیہ کا نزول ہونے لگتا ہے۔ لس فرق یہ ہے کہ دنیا کے ریڈ یوکی آوازوں کی الفاظ و حروف کی محتاج ہے لیکن یہ کلام غبیٰ حروف والفالفاظ سے مبراہوتا ہے اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے دوسرا ان حالاتِ خاصہ کو سمجھنے سے بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ مقامِ قرب نصیب فرمائے۔ اسی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لس حروف والفالفاظ نہیں ہوتے لیکن دل میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اسی مقام کو حضرت خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا۔

تم سا کوئی ہدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے
ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ غنی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

یہی وہ ربطِ غنی ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اصحابِ کہف جو نہایت نادار اور غریب خاندان کے لڑکے تھے جب کافر بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں سے اپنا رابطہ قائم کر لیا، اپنے تعلق و رابطہ کا خاص فیضان ان کے قلوب پر ڈالا جس کے بعد وہ بادشاہ سے نذر رے۔ (غافر رومی، ص: ۳۷۳)

آیت نمبر ۵۶

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاءِ وَالْعِشَيْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

(سورہ الکھف، آیۃ: ۲۸)

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واصلبِ نفسکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے۔ کانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ مِّنْ أَيَّاتِهِ لُبْسِ اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ تڑپ اور بے چینی کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے یاد کرتا ہے تو باسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کو خود اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، راہبروں کو اللہ ہر دوں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ (صلی بیہی مریدی کیا ہے؟ صفحہ: ۱۶)

صلی مریدوہ ہے جس کی مراد اللہ ہو

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسیح نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ تین قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک لباس والے ذا الشُّوْبُ الْوَاحِدِ بکھرے ہوئے بالوں والے اشُعَثُ الرَّأْسِ خشک جلد والے جاٹ الجلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کام میں مشغول ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو س مقصود کے لیے یاد کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے مرید ہیں، ہمارے دل کی مراد اللہ ہے۔

اب معلوم ہوا کہ مرید اصلی کون ہے؟ اس کے دل میں اللہ مراد ہو جب تک غیر اللہ پر نظر ڈال رہے ہو نقی مرید ہو، خام مال ہو، کپا کتاب ہو، نہ خود مست ہو گے نہ دوسروں کو مست کر سکو گے، جب خود مست ہو جاؤ گے قلب جلا بھنا کتاب بن جائے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کی خوبی کو سارے عالم میں پھیلادے گا، جدھر سے گذرو گے اللہ کی خوبی محسوس ہوگی۔

لہذا صرف اللہ ہی کو اپنا مراد بناؤ، اس میں تمام گناہوں کو چھوڑنا بھی شامل ہے۔ جب آپ اللہ کے مرید ہوں گے، اللہ آپ کا مراد ہوگا تو پھر غیر اللہ پر کیسے نظر ڈالو گے؟ تو اس آیت میں سالکین اور مریدین کے لیے دو سبق ہیں، ایک سبق یادِ الہی ہے اور دوسرا غیر اللہ سے، گناہوں سے اور اللہ کی ناراضیگیوں سے بچنا ہے۔ ایک طرف اللہ کو خوش کرنا ہے تو دوسری طرف اللہ کی ناخوشی سے بچنا ہے۔

خوشی پر ان کی جینا اور مarna ہی محبت ہے
نہ کچھ پرواۓ بدنا می، نہ کچھ پرواۓ عالم ہے

آپ بتاؤ! محبت کے دو حق ہیں یا نہیں، محبوب خوش ہو جائے یا ایک حق ہے اور محبوب ناخوش نہ ہو یہ دوسرا حق ہے جو ظالم اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کرے اور ناخوش نہ کرنے کا اہتمام نہ کرے تو یہ دعویٰ محبت میں ابھی خام ہے۔ قرآنِ پاک کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصلیٰ سالک، اللہ کا اصلیٰ عاشق وہی ہے جو اللہ کی خوشی کے اعمال کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے یعنی گناہوں سے بچنے میں، بدنظری سے بچنے میں جان کی بازی لگادیتا ہے۔

بس ہمت سے کام کرو تو ان شاء اللہ گناہوں کے خس و خاشاک جلتے جائیں گے اور اللہ کا نام لینے سے رنگِ گلشنِ محبت نکھرتا جائے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملے گا تو اللہ اختر قم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات تھماری نگاہوں سے گرجائے گی، تم جوان بد بودار مقامات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو سب بھول جاؤ گے، تم چاہو گے بھی تو تمہیں گھن آئے گی، تم خدا کو بھول کر گناہ کرنا بھی چاہو گے تو خدا کی یاد غالب رہے گی اور بدنگاہی نہ کر سکو گے۔ لیکن جب خالص قرب کی الذلت ملتی ہے تو کہیں جا کر گناہ چھوٹتے ہیں، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے۔

توجب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے اور حافظ شیرازی کی نظر شیخ کی نظر سے مکاری تو حافظ شیرازی نے ان سے عرض کیا۔

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند

اے میرے شیخ! آپ اس درجہ کے ولی ہیں جو مٹی کو چھولیں تو مٹی سونا بن جائے، جو مٹی کو ایک نظر سے سونا کر دیتے ہیں لیکن سونا بننے کے لیے آگ میں تپنا پڑتا ہے اور مجاهدہ کرنا پڑتا ہے، بڑے غم اٹھانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے، یہ مقام خون آرزو سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے، موٹے موٹے جسم والے خون آرزو کے نام سے کاپنے ہیں اور دبليے پتلے جسم والے پر اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتا ہے یعنی حرام آرزوؤں کو کچلنے کا غم برداشت کر لیتا ہے اور بعض ایسے ایسے تگڑے جو تنگروں کو بھی گرادیں خون آرزو کرنے میں لو مری مبنے ہوئے ہیں رَوْغَانَ الشَّعَالِبِ لومڑیانہ چال چلتے ہیں، اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ لو مری مت بنئے، نفس پر شیرانہ حملے کیجھ، اسی لیے حافظ شیرازی نے اپنے شیخ سے کہا تھا۔

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند

اے میرے شیخ! آپ کی وہ نظر جو مٹی کو سونا کر دیتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نظر مجھ پر بھی ڈال دیں تو

حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

نظر کردم نظر کردم نظر کردم

ہم نے آپ کے اوپر نظر تو کر دی لیکن ایک ہی نظر سے کام نہیں بنتا، ایک زمانہ شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کام بنتا ہے۔ حافظ شیرازی نے اپنے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازہ پر اپنے کو مٹی بنا دیا، اپنے نفس کو مٹا دیا، ایک زمانہ شیخ کے ساتھ رہے تب اللہ نے انہیں اپنی نسبت عطا فرمائی۔ اگر مرید کی طلب صادق ہو، پیاس بچی ہو تو اللہ والوں کا دل خود آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، شیخ آپ کے لیے رور کر سجدہ گاہ اپنے آنسوؤں سے بھردے گا۔

اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرارِ محبت میں

طلب خود کر لیے جائیں گے دربارِ محبت میں

اور وہ اللہ والا پیر آپ کو دنیاداری اور دنیا کی چکربازی نہیں سکھائے گا کیونکہ وہ خود بھی دنیادار نہیں ہوتا اس لیے آخرت کی تیاری کرائے گا۔

اللہ والے کون ہیں؟

ارے اللہ والوں کا بڑا مقام ہے بھائی! اولیاء اللہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، قرآن و حدیث کا ضروری علم ان کے سینوں میں ہوتا ہے، شریعت و سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ کیا سنت ہے کیا نہ سکھئے؟ کیا حافظ کا بچہ حافظ ہو سکتا ہے اگر قرآن حفظ نہ کرے؟ اسی طرح ولی کا بچہ بھی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اعمال و لایت اس کے اندر نہ ہوں۔ ہم اس کو کیسے ولی مان لیں جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، چرس پیتا ہے، ڈاڑھی منڈاتا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، وہ ولی نہیں شیطان ہے، لاکھ کسی بزرگ کی اولاد ہو۔ ولی ہونے کے لیے صرف ولی کی اولاد ہونا کافی نہیں، اولیاء اللہ کے اعمال اور اولیاء کے اخلاق ہونا بھی ضروری ہے اور سنت و شریعت کا پابند بھی ہونا ضروری ہے۔

متلا شیانِ رضاء حق پر انعاماتِ الہیہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کا ایک حال بیان فرمایا اور اس کی خبر دی کہ یُوْبِدُونَ وَجْهَهُ اور مضارع سے بیان فرمایا جس میں حال اور استقبال دو زمانہ ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ حَالٌ وَاسْتَقْبَالٌ یہ میرے مرید اور میں ان کا مراد ہوں یعنی موجودہ حالت میں

بھی کوئی لمحہ ان پر ایسا نہیں گذرتا کہ میں ان کے دل میں مراد نہ رہوں اور کسی لمحہ ان کا دل مجھ سے غافل ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی ان کو خوش خبری دے رہا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی لمحہ حیات ان پر ایسا نہیں گزرے گا جس میں میں ان کا مراد نہ رہوں گا۔ اس میں صحابہ کے ذکرِ دائمی کا ثبوت ہے کہ ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی زندگی کی کوئی سانس ایسی نہیں جس میں کوئی غیر اللہ کوئی لیلی یاد نہیں مراد ہو جائے۔ اسی لیے ان کے استقبال کا آفتاب بھی روشن ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو گا کیونکہ ہر مضارع حال اور استقبال کا حامل ضامن اور کفیل ہوتا ہے اس لیے اَرَادُوا وَجْهَهُ نازل نہیں فرمایا يُرِيدُونَ نازل فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حالاً و استقبالاً میں ان کا مراد رہوں گا۔ حال تو ان کا درست ہے ہی مستقبل بھی ان کا تابنا ک رہے گا کیونکہ آخری سانس تک یہ میری رضا کو تلاش کرنے والے اور اپنے قلب میں مجھے مراد بنانے والے ہیں لہذا ان کو حسن خاتمہ نصیب ہو گا۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس میں صحابہ کی استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر کیوں نازل کی، حکم کیوں نہیں دیا کہ مجھے اپنا مراد بناو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں اپنے عاشقوں کو حکم نہیں دیتا ہوں، یُرِيدُونَ وَجْهَهُ ان کا حال بن جاتا ہے اس کی خبر دے رہا ہوں کہ جو میرے عاشق ہیں، جنہوں نے اپنے دل میں مجھ کو پالیا ان کی شان خود بخود یہ ہو جاتی ہے کہ ان کوئی غیر اللہ، کوئی لیلی نظر ہی نہیں آتی، میں ہی ان کے قلب میں حالاً و استقبالاً مراد رہتا ہوں اور صحابہ کا حال بصورت خبر اس لیے بھی نازل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے عاشقوں کو راستہ مل جائے، ان کی راہ نمائی ہو جائے کہ اپنا کوئی لمحہ حیات، اپنی زندگی کی کوئی سانس ایسی نہ گزارنا جس میں میں تمہارا مراد نہ رہوں یعنی تمہارے دائرة ارادت سے میں ایک لمحہ بھی الگ نہ رہوں اور ہر وقت تم اپنے قلب میں مجھے حالاً و استقبالاً مراد رکھو۔

لہذا سمجھ لیجئے جو شخص ایک لمحہ کے لیے بدنظری کرتا ہے، ایک لمحہ کے لیے کسی حسین لڑکی یا لڑکے کو دیکھتا ہے اسی لمحہ وہ یُرِيدُونَ وَجْهَهُ کے دائرة سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت وہ مرید لیلی ہوتا ہے، مرید مولیٰ نہیں رہتا کیونکہ جو مرید مولیٰ ہوتا ہے وہ مرید لیلی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ مرنے والی لاش کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص مولیٰ کو چھوڑ کر مرنے والی لاشوں کو دیکھتا ہے یہ مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے اور ہر وہ شخص جو مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے اسی کو بے عقل اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ حماقت اور بے عقل کی میں الاقوامی تعریف یہ ہے کہ مستقبل اور انجام بینی سے بے خبری۔ بتائیے جس لڑکے یا لڑکی کے حسن کو دیکھ کر یہ مست ہو رہا ہے اس پر بڑھا پا آئے گا یا نہیں، یا اس کو موت آسکتی ہے یا نہیں یا اس کا حسن جوانی ہی میں زائل ہو سکتا ہے یا نہیں اس پر

وقت سوائے پچھتا نے اور ہاتھ ملنے کے کیا ملے گا۔

پس یُرِيْدُونَ وَجْهَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نے اپنے عاشقوں کا حال اور استقبال بیان فرمادیا۔ لہذا اس زمانہ میں بھی جو یُرِيْدُونَ رہے گا یعنی اللَّهِ تَعَالَى کو دل میں ہر وقت مراد بنائے گا اور غیر اللَّهِ سے دل نہ لگائے گا اس کو بھی استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ نصیب ہو گا کیونکہ صحابہ میں یہ شان کیسے آئی؟ یُرِيْدُونَ وَجْهَهُ سے آئی اور یُرِيْدُونَ وَجْهَهُ کی شان ان میں کیسے پیدا ہوئی؟ صحبت نبوت کے فیضان سے، اسی کی مشق کے لیے شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، سفو و حضر میں اس کے ساتھ ایک زمانہ لگانا پڑتا ہے جیسے بچہ ایک زمانہ ماں کا دودھ پیتا ہے تب تنگڑا ہوتا ہے۔ (اعماماتِ رباني، صفحہ: ۹۶-۹۷)

آیت نمبر ۵

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغَلْمَانِ يَتِيمِينِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخِرْ جَاهَ كَنْزُهُمَا﴾

(سورة الکھف، آیۃ: ۸۲)

اور وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اللَّهِ تَعَالَى نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گرنے جائے۔ پس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار اُس وقت تک قائم رہے جب تک یہ پچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ لے لیں۔ دیکھئے یہ رعایت ہو رہی ہے، اللَّهِ تَعَالَى غیب سے ان یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے، تو مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور نے فرمایا کہ اللَّهِ تَعَالَى نے ان بچوں کی مدد کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا اور باپ کوں ساتھا کانَ الْأَبُ السَّابِعُ (روح المعانی، ج: ۱۶، ص: ۱۳) ساتوں باپ تھا۔ اللَّهِ تَعَالَى ایسے کریم با وفا ہیں کہ جو ان کا بن جائے اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو! سب سے مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے اللَّہ کو راضی کر لے اور ہر وقت اس غم اور فکر میں بنتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبۂ حیات اللَّہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ (علام کبر، صفحہ: ۲۲-۲۵)

آیت نمبر ۵۸

﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَانْبَتَ مِنْ كُلِّ رُوْجٍ بَهْيَجٍ﴾

(سورة الحج، آیۃ: ۵)

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھلوتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما باتات اگاتی ہے۔

یہ خاصیت مذکورہ دنیا کی زمین کے بارے میں ارشاد ہے اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿فَسُقْنَاهُ إِلَيْ بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾

(سورہ فاطر، آیہ: ۹)

یعنی بارش کے بدون زمین کو مردہ فرمایا۔ اسی طرح دل کی زمین کا حال ہے کہ بدون ایمان مردہ ہے:

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيِّتاً فَأَحْيَنَنَاهُ﴾

(سورہ الانعام، آیہ: ۱۲۲)

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے حیات بخشی ان کو ایمان کی نعمت سے۔ دل کی زمین اللہ سے غفلت کے سبب مردہ ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ عزوجل)

اگر غفلت سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے اور فکر م uphol اور جامد ہو چکی ہے جس کے سبب تمہیں زندگی کا مقصد صرف کھانا اور ہمگنا معلوم ہو رہا ہے اور انجام و عواقب کا مثل جانوروں کے کچھ خیال بھی نہیں گزرتا تو تم ذکر شروع کر دو۔ ذکر کی برکت سے دل کی زمین بھی ابھرے گی اور پھولے گی اور اعمال صالحہ اور افکار جلیلہ حمیدہ اُگائے گی۔

الحمد للہ تعالیٰ کہ بزرگوں کی غلامی کی برکت و فیض سے شرح آیت اہتزَّتْ وَ رَبَّ الْخَ سے بہت ہی عمدہ ہو گئی جواہل ذوق کے لیے قابل وجد ہے۔ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ وَ شَكَرَ اللَّهُ شُكْرًا حَسَنًَا بِفَضْلِهِ وَ مَنِّهِ، امین۔ (معارف مشوی، حصہ دو، صفحہ ۵۶۷-۵۶۹)

آیت نمبر ۵۹

﴿وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

(سورہ المؤمنون، آیہ: ۱۸)

مغفرت کے لیے ایک عظیم الشان وظیفہ

آج میں آپ کو ایک عظیم الشان وظیفہ دے رہا ہوں۔ اس کو چلتے پھرتے بقدر تحمل کثرت سے پڑھیئے، صحیح شام ایک ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِینَ اور یہ وظیفہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا ہے۔ سب سے بڑے پیارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیارے لیے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا۔ جو سب سے بڑا پیارا ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی پیاری چیز دی جاتی ہے۔ پیارے کو معمولی چیز نہیں دی جاتی لہذا یہ امت کی مغفرت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربِ اغْفِرْ وَارْحَمْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگئے۔ رب کیوں نازل فرمایا؟ جو پالتا ہے اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تم ایک بلی پال لو تو بلی سے محبت ہو جاتی ہے، کتا پال لو تو کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ میں تمہارا پالنے والا ہوں مجھ تھم سے محبت نہ ہو گی؟ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت میں جوش کے لیے خود سکھا رہے ہیں کہ رب کہوتا کہ تمہارے منہ سے جب سنوں کہ اے میرے پالنے والے! تو میرے دریائے رحمت میں طوفان پیدا ہو جیسے چھوٹا بچہ جب کہتا ہے کہ اے میرے ابا تو باپ کے دل میں محبت کا کیسا جوش اُٹھتا ہے۔ ربِ اغْفِرْ اے میرے رب مجھے معاف فرماد تجھے تو مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ بِسْتُرِ الْقَبِيْحِ وَ اَظْهَارِ الْجَمِيْلِ میری برا یوں کو چھپا د تجھے اور نیکیوں کو ظاہر فرماد تجھے وَارْحَمْ اور رحمت کے کیا معنی ہیں؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کی چار تفسیریں کی ہیں یعنی توفیق طاعت، فرانخی مشیت، یعنی رزق میں برکت، بے حساب مغفرت اور دخول جنت۔

بندہ جب مغفرت مانگتا ہے تو شیطان کو انہائی غم ہوتا ہے، بہت چلاتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ بندے تو بہت چالاک ہیں، میں نے تو ان کو گناہ کا مزہ چکھایا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے لیکن انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنا کام بنا لیا، میری ساری محنت بے کارگی، میری بزنس تو لاس (Loss) میں جا رہا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے سفر میں حضرت میں جہاں بھی رہیے اس وظیفہ کو کثرت سے پڑھتے رہے اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ معافی بھی ہو جائے گی۔ اللہ کو حرم آجائے گا کہ یہ بندہ اپنی خطاؤں پر بار بار روتا ہے تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے دے کہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ (الاطف ربانی، صفحہ: ۲۵-۲۳)

آیت نمبر ۲۰

﴿وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةً مَا زَكَرْتُكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لِكَنَّ اللَّهَ يُرِيكُ مَنْ يَشَاءُ﴾
(سورۃ التور، آیۃ: ۲۱)

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرمایا کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے تو حیدر قم کر دی کہ میرے نبی کو خدمت بناو۔ ہدایت کے معاملہ میں تم لوگ نبوت کے فیض کے ساتھ میری مشیت کے

بھی محتاج ہو۔ ہدایت کے لیے صرف فیضِ نبوت کافی نہیں بلکہ میری مشیت بھی ضروری ہے کیونکہ میرے نبی کو تو ابو جہل نے بھی پایا، ابو لہب نے بھی دیکھا لیکن ان کو کیوں ہدایت نہیں ہوئی۔ اگر نبی کے لیے ہدایت لازم ہوتی تو ابو جہل بھی کافر نہ رہتا، ابو لہب بھی کافر نہ رہتا لیکن کیونکہ میری مشیت نہیں تھی اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست انوارِ نبوت کے باوجود ان اشقیاء کو ہدایت نہ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ تین چیزوں سے ہدایت ملتی ہے۔ (۱) اللہ کا فضل (۲) اللہ کی رحمت (۳) اللہ کی مشیت۔ الہذا ہم سب کو چاہیے کہ دور کعْت حاجت پڑھ کر یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ اپنا وہ خاص فضل اور وہ رحمت اور مشیت عطا کر دے جس پر قرآن پاک میں آپ نے تزکیۃ نفس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس عنوان سے مانگ کے تو دیکھو جو اختر سکھار ہا ہے۔

تزکیہ کا سبب حقيقی فضل و رحمت و مشیت الہیہ ہے

اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو شیخ بھی کسی کے اصلاح و تزکیہ میں مفید نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کی، صحابہ سے فرمار ہے ہیں کہ میرا نبی دنیا میں ہدایت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مظہر اتم ہے لیکن مظہر، ظہور پر تو قادر ہے، اظہار پر قادر نہیں ہے۔ ہدایت کی تجلی کو ہمارا نبی بھی تم پر اظہار نہیں کر سکتا، میری مشیت سے ظہور کر سکتا ہے۔

اگر اللہ کی رحمت و فضل نہ ہو تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا لیکن جب میری مشیت شامل ہوتی ہے تو ان مظاہر ہدایت کے ظہور میں اظہار کا حکم لگادیتا ہوں کہ اب ظاہر کر دو، تو میری مشیت سے بندوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مظہر، ظہور کی جگہ ہے مگر وہ تابع ہے اس مظہر کے، مشیت الہیہ کے۔ الہذا صحبتِ شیخ کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا اختیار یہاں تک تھا کہ اپنے کوشش کی خدمت میں حاضر کر دیا اب آپ اپنا وہ فضل، وہ رحمت، وہ مشیت جو اس آیت میں مذکور ہے ہمارے شاملِ حال کر دیجئے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے کیونکہ تزکیہ کا اصل سبب آپ کا فضل و رحمت و مشیت ہے الہذا ہم اس کی آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ (نوپر ربانی، صفحہ: ۷-۸)

آیت نمبر ۲۱

﴿ قُلْ لِلّٰهِ مُؤْمِنِينَ يَغْضُوُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾

(سورة النور، آیہ: ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد! آپ اپنی امت سے فرمادیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پنجی کر لیں ﴿ قُلْ لِلّٰهِ مُؤْمِنِينَ يَغْضُوُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ کیا اللہ تعالیٰ خود ہم سے نہیں فرمادیجئے۔

سکتے تھے؟ جب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم برآ راست دیا تو نظر کی حفاظت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ برآ راست دے سکتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اس میں عجیب راز ہے۔ بعض وقت ابا حیاء سے اپنے بیٹوں سے ایسی بات کو خود نہیں کہتا بلکہ اپنے دوستوں سے کہلاتا ہے کہ ذرا میرے بچوں کو سمجھا دو کہ بے شرمنی والا کام نہ کریں۔ تو اس میں رب العالمین کی حیاء و غیرت شامل ہے کہ رحمۃ للعالمین سے کہلا�ا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیں کہ میرے بندے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کی جزا بیان فرمائی کہ غرض بصر کی جزا حلاوتِ ایمانی ہے یَجِدُ فِي قَلْبِهِ حَلَاوَةٌ اب اگر کوئی بے وقوف کہے کہ غرض بصر تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر طرف بے پردگی و عریانی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی زیادہ عریانی ہے اتنی ہی حلاوتِ ایمانی کی فراوانی ہے نظر بچاؤ اور حلوہ ایمانی لے لو۔

مشکل ہے تھا کہ احمد انہا مر بھی ترقیت کتنا بڑا ہے رکھ سنا خاتمۃ کی رشارشی۔ یہ (فیض - انہ صغیر - ۱۱)

پرچہ مشکل ہے تو کیا ہوا انعام بھی تو کتابڑا ہے کہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ (نوش ربانی، صفحہ ۱۱-۱۲)

جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے اگر کام نہ لیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری طب میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ ایک سال تک ایک طرف کو کھڑا رکھے اور گرانے نہیں تو ہاتھ اکٹھ جائے گا، اس کے گرانے کی قوت ختم ہو جائے گی اور وہ ہاتھ مفلون ہو جائے گا۔ اس طرح جو لوگ نظر بچانے کی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے تو سزا کے طور پر ان کی قدرت کے مفلون ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ تم نے ہماری دی ہوئی قوت و طاقت کو کیوں نہیں استعمال کیا، ہمارے راستے میں نفس چور کی لذت حرام سے بچنے کی نمک حرابی سے باز آنے کی جو ہم نے تمہیں بہت اور طاقت دی تھی اس کو کیوں استعمال نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ مسلسل بد نظری کرنے کے عذاب میں پھر تمہاری گناہ سے بچنے کی صلاحیت پر فان لگ کر ادوں اور تم ولی اللہ ہوئے بغیر فاسقانہ حالت میں مرجا و۔ الہذا نعمت کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کسی کو ایک موڑ دے دیں اور وہ اس کو بھی استعمال نہ کرے، گیرج میں پڑی رہے تو دینے والا وہ موڑ واپس لے لیتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کی جو قوت ہمیں دی ہے اس نعمتِ قوت کو استعمال کرنا چاہیے جس کا نام تقوی ہے۔ یہ اس نعمت کا شکر یہ ہے۔ اگر اللہ نظر بچانے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ تقوی فرض یہی نہ کرتا کیونکہ کمزور آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے پھر تقوی فرض کیا ہے اور طاقت موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً ایک دکاندار ہے اور ایک لڑکی آرہی ہے اور اس کی اچانک نظر اس پر پڑ گئی، شیطان نے اس کے چہرہ پروفکس مار دیا یعنی چار آنے حسن کو بیس آنے دکھا دیا جس کے بعد اس کا ارادہ ہو گیا کہ اس کو خوب دیکھنا ہے بعد میں تو بے کرلوں گا۔ اتنی دیر میں ایک غندہ آیا اور اس نے پستول دکھایا تو پہ کیا کہے گا کہ پستول وغیرہ نہ دکھاؤ، میں آج یا گل

ہو گیا ہوں، میں اس حسینہ کو ضرور دیکھوں گا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ بولو کیا اس کو گولی مارنے دو گے؟ ارے دُم دبا کر بھاگو گے، اپنی جان کے خوف سے عاشقی بھول گئے۔ یا اسی وقت دوکان میں ایک سانپ نکل آیا اور اسی لڑکی نے کہا ارے مولوی صاحب وہ سانپ! تو اس وقت کیا آپ یہ کہیں گے۔

ترے جلوؤں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی

نگاہ بے زبان رکھ دی زبان بے نگاہ رکھ دی

یادوکان کا دروازہ کھول کر کے وہاں سے تیر کی طرح بھاگو گے۔ یہ بھی یاد نہ رہے گا کہ اس سے آپ کو پیسے وصول کرنا ہیں۔ اپنی جان کے لیے ایک مخلوق سے ڈر گئے۔ یہ سب مثالیں دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے اور ہم کس درجہ کمیہ اور بے غیرت ہیں کہ ایک سانپ سے اور ایک غنڈے کی پستوں سے ڈر گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ساری عاشقی فراموش کر دی اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ جس کے قبضہ میں ہماری موت و حیات ہے، ہماری راحت و آرام ہے، جس کے قبضہ میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہے آہ! اس سے ہم بے خوف ہیں لہذا اللہ کے نام پر فدا ہو جاؤ اس کی ناراضگی سے ڈرو اور اس کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ نکل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟

سارے عالم میں آج کل اخترا کا یہی ایک مضمون ہے کہ تم لیلاوں سے نج جاؤ تو مولیٰ پا جاؤ گے اور مزہ بھی پاؤ گے یہ نہیں کہ خشک مضمون ہے یہ، جو لیلاوں سے بچتا ہے مولیٰ اس کے دل کی خوشی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ یہی حلاوتِ ایمانی ہے کہ تمہارے دل میں رس گھل جائے گا اور تمہارا دل ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا اور لیلاوں کو دیکھنا تو ایک عذاب ہے، دل اسی وقت ترپنے لگتا ہے تو لیلاوں کے عذاب سے بچو اور مولیٰ کی الذلتِ قرب سے مستی حاصل کرو۔ لیلاوں کی ہستی قابلِ مستی نہیں ہے اور نہ ان کی بستی رہنے کے قابل ہے اگرچہ سستی ہو، مفت کی بھی ملت و مت لو۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے سرمه دیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھی اس کے اجزاء بتاؤ تاکہ میں اپنے خاندانی حکیم سے مشورہ کر لوں تو وہ غصہ ہو گیا کہا کہ میں تو آپ کو مفت میں دے رہا ہوں اور آپ کے یہ ناز و خرے! تو حضرت نے فرمایا کہ تیرا سرمه تو مفت کا ہے میری آنکھ مفت کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گناہ مفت کا ملے تو کہہ دو کہ یہ گناہ تو مفت کا ہے لیکن میرا ایمان مفت کا نہیں ہے۔ (دری مشنوی مولانا روم)

آیت نمبر ۶۲

﴿وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

(سورہ النور، آیہ: ۳۱)

عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور مخفی زینت

مردوں پر ظاہر ہو۔ اس آیت سے قبل عورتوں کو موضعِ زینت سرا اور سینہ وغیرہ کو چھپانا واجب بیان فرمائیں کہ آیت میں حق تعالیٰ نے مزید احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقہاء نے اسی سبب سے عورتوں کی آواز کو ستر میں داخل کیا ہے۔ بالخصوص جبکہ فتنہ کا اندیشہ ہوتا بالکل منوع ہے۔ اسی طرح خوشبو لگا کر یا مزین بر قعہ پہن کر نکلنا بھی منوع ہے:

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَ كَاحِدٌ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيَتِنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

(سورہ الاحزان، آیہ: ۳۲)

اے نبی کی یہیو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بہ ضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیالِ فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو یعنی صرف نسبت بلا تقویٰ یعنی یقین ہے (اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ) جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو۔ بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر نفثگو کرو یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھاپن ہو کہ یہ طرز عفت کا محافظ ہے۔ (تفسیر بیان القرآن)

فائدہ: ان آیات سے حسب ذیل سبق ملتا ہے:

۱۔ عورتوں کو بوقتِ شدید ضرورت اگر غیر محروم مرد سے بات کرنی ہو تو پرده کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں تکلف اور اہتمام سے آواز کو ذرا سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو۔

۲۔ جب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو مردوں کو غیر محروم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا۔ اللہ ابوقتِ ضرورت غیر محروم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے۔

۳۔ جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے خیالاتِ فاسدہ پیدا ہوں یا عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو تو قرآن نے اس طبع و کشش، میلان و رغبت کو قلب کی یماری قرار دیا ہے۔ اس سے دورِ حاضر کے ان دوستوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ٹیلیفون ایکچھ پر عورتوں کو محض اس وجہ سے ملازم رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سے کانوں کو لطف ملتا ہے اور مردوں کی آواز سے سمع خراشی ہوتی ہے۔

تنبیہ: خوب یاد رکھنا چاہیے باخصوص سالکین طریق اور عاشقین حق کو کہ حظِ نفس کا نقطہ آغاز حق تعالیٰ سے بعد و فراق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے لہذا اس دشمنِ ایمان و دین یعنی نفس کو خوش کرنے سے ہوشیار ہیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مرد سے (اگرچہ وہ امرد یعنی لڑکا نہ ہو) گفتگو میں اس کی آواز اور اس کے نقشہ اور چہرہ اور آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہوفوراً اس سے ہٹ جاوے۔ (اُسی کلامہ) کیونکہ بعض حسین لڑکے ڈاڑھی مونچھ کے کچھ کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور عشقِ مجاز کے بیاروں کو بیمار کرتے ہیں۔ پس نفس کے بیار کو حسنِ رفتہ کے آثار تک دیکھنے سے احتیاط چاہیے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو جس سے بھی مزہ ملے اس سے فراؤالگ ہو جائے کیونکہ نفس کو ذرا بھی مزہ مانا خطرہ سے خالی نہیں۔ دشمن کو تھوڑا خوش دیکھنا بھی گوارانہ کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی خوشی سے بھی نفس کو طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہ کسی بڑی معصیت میں کھینچ لے جائے گا۔

جس طرح غیر محسوس ہلکی حرارت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی اس کے علاج سے غافل رہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کی طرف نفس کا ہلکا سامیلان ہواں کی صحبت بھی نہایت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ شدید میلان اور شدید رغبت والی صورتوں سے تو سالک بھاگتا ہے مگر یہاں ہلکے میلان کے سب اسے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی اس طرح ہلکے ہلکے زہر کو شیطان اس کی روح میں اُتارتا رہتا ہے یہاں تک کہ نفس قوی ہو کر سالک کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہایت آسانی سے کھینچ لے جاتا ہے۔
گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا

اور

نفس کا اٹھدا ڈلا دیکھ ابھی مرا نہیں
غافلِ ادھر ہوانہیں اُس نے اُدھر ڈسا نہیں
بھروسہ کچھ نہیں اس نفسِ امارة کا اے زاہد
فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا
یاد رکھنا چاہیے کہ حظِ نفس کا نقطہ آغاز بعد عن الحق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے یعنی نفس کا کسی گناہ سے ابتدائی مرحلہ میں اگر ایک اعشار یہ سے بھی کم ہو لطف لینا حق تعالیٰ سے کسی درجہ میں دوری کا سبب ہوتا ہے۔

حضرات مشائخ کرام کا ارشاد

سالک کے لیے عورتوں اور لڑکوں سے احتلاط، میل جوں نہایت زہر قاتل ہے کیونکہ ذکر کی برکت

سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں لطافت بھی بڑھ جاتی ہے پس انہیں حسن کا ادراک اور احساس زیادہ ہوتا ہے اس لیے اکثر شیطان جب گمراہی کے ہر راستے سے مایوس ہو جاتا ہے تو صوفیوں کو حسین اڑکوں اور عورتوں کے چکر میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے سالکین کو اڑکوں اور عورتوں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی دوری کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور اگر اڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف بدنگاہی یا میلان شدید محسوس ہو فوراً امرشد سے رجوع کریں۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ ۱۱-۱۲)

آیت نمبر ۲۳

﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾

(سورۃ الفرقان، آیہ: ۵۹)

جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ہیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہِ معرفت پیدا کر لی قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنجائی کاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے۔ نمبر (۱) پیغمبروں کو (۲) شہیدوں کو (۳) عالمِ باعمل کو۔

دنیا کے اندر ہیرے میں اگر اللہ کو پہچانے کا ہنسیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنسیکھنا کچھ مضر نہیں کیونکہ پھر کوئی ہنساپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ارجمند بن انتہی نہیں ہے بشرطیکہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں جیسے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشمِ سلطان شناس ہی کام آئی باقی ہنس تختہ دار پر لے گئے ہنذا اللہ سے ہم لوگ وہ آنکھیں مانگ لیں جو اس دنیا کے اندر ہیرے میں اللہ کو پہچانے والی ہوں قیامت کے دن یہی باعثِ نجات ہوں گی اور اللہ کو کس طرح پہچانو گے۔ اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ ارجمند کو پہچانے کے لیے ان بندوں کے پاس جاؤ جو باخبر ہیں خبیراً کی تفسیر علامہ آلوی نے کی ہے ﴿الْمُرَادُ بِخَيْرِ الْعَارِفُونَ﴾۔ خبیراً سے مراد عارفین ہیں، یعنی باخبر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پہچانے والے ہیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلافِ کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی۔

تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو
اللہی رہوں اک خبردار تیرا
کوئی تھھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے
اللہی میں تھھ سے طلبگار تیرا

اے اللہ! کعبہ میں تجھ سے کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے کوئی وزارت مانگ رہا ہے مگر اے اللہ! امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ ہم دنیا مانگنے سے منع نہیں کرتے لیکن اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ نہ ملے تو سب بیکار ہے۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ: ۷۳-۷۴)

۶۲ آیت نمبر

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَمْنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِهِمْ﴾

(سورۃ الفرقان، آیۃ: ۲۰)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔

اس پر ایک علمی اشکال یہ ہے کہ تو بتوحالت ایمان میں قبول ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے **إِلَّا مَنْ تَابَ** کیوں فرمایا؟ حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں اس کا جواب دیا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے یعنی مَنْ تَابَ عَنِ الشِّرْكِ جو شرک سے توبہ کر لے و امن پھر ایمان قبول ہو گا۔ حالتِ شرک میں جوبت کے سامنے سجدہ کرے اس کا ایمان کیسے قبول ہو ستا ہے؟ تفسیر مظہری میں بھی **إِلَّا مَنْ تَابَ** کی تفسیر **عَنِ الشِّرْكِ** کی ہے یعنی جو شرک سے توبہ کرے اور پھر ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال یعنی ضروری طاعات کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ توبہ کرنے سے ہماری برائیاں کس طرح نیکیوں سے بدل جائیں گی اس کی علامہ آلوی نے تین تفسیر کی ہے تفسیر نمبر ایک:

تبديل سیمات بالحسنات کی پہلی تفسیر

جتنی اس نے برائیاں کی تھیں ان کو مٹا کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں لکھ دے گا جو وہ مستقبل میں کرنے والا ہے، ماضی کے گناہوں کو مٹا کر وہاں مستقبل کی نیکیاں لکھ دے گا۔ اور خالی اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ خالی چھوڑنے سے فرشتے طعنہ دیتے کہ کچھ دال میں کالا تھا۔ یہاں سے کچھ مٹایا گیا ہے کیونکہ یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرورکھی۔ آہ! اپنے بندوں کی آبرو رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سوابق المعاصی کو مٹا دے گا اور لواحق الحسنات کو وہاں لکھ دے گا یعنی ماضی کے جتنے معاصی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر وہاں اس کی مستقبل کی نیکیاں لکھ دیں گے۔ مثلاً ایک شخص فلم میں گانا گاتا تھا ب توبہ کر لی، نماز پڑھنے لگا، ڈاڑھی رکھ لی اور حج کرنے لگا تو جتنا اس نے گانا مجانا کیا تھا جو اعمال نامہ میں لکھا ہوا تھا اس کو مٹا کر اس کی جگہ **اللَّهُمَّ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ**

مٹا دیتے ہیں اور وہاں وہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو وہ آئینہ کرنے والا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے۔

تبديل سیاست بالحسناًت کی دوسری تفسیر

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنات سے تبدیل فرمادیتے ہیں لیعنی جو ہر وقت گناہوں کے لیے پاگل رہتا تھا، ہر وقت فلمی گانے، وی سی آر، سینما، ہر وقت ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹینڈی کر کے نفس کو ریڈی رکھتا تھا ب توبہ کر کے سب گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے تقاضائے معصیت کی شدت کو تقاضائے حسنات کی شدت سے تبدیل کر دیتی ہے لیکن ایک شرط ہے کہ چھپ کروہ معصیت کی عادت کو زندہ نہ رکھے جیسے کوئی بھنگی پاڑہ میں رہتا تھا اور روزانہ گو کے لکنست سونگھا کرتا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور عطر کی دکان میں نوکری کر لی اور اس نے عطر والے سے کہا کہ صاحب ہم کو کوئی ایسا عطر دے دیجئے کہ پھر ہم پاخانہ نہ سونگھیں اور بھنگی پاڑہ سے ہم کو مناسبت نہ رہے۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے عود کا عطر لو، وہ ہزار روپے کا تولہ ملتا ہے، عرب کے شہزادے لگاتے ہیں تم روزانہ مفت میں لگالیا کرو کہ ہمارے ملازم ہو۔ لہذا وہ ٹھیک ہو گیا اب بدبو دار چیز سونگھنے سے اس کو متلی آنے لگی کیونکہ اس نے بھنگی پاڑہ جانا بالکل چھوڑ دیا تو سال چھ مہینے میں اس کی ناک کا مزاج جو فاسد تھا وہ مزاج سالم سے تبدیل ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ بدبو کے تصور سے میں اب بھنگی پاڑہ نہیں جاسکتا، گو کا لکنست دیکھنے ہی سے قہوجائے گی اور اس کے ایک ساتھی نے بھنگی پاڑہ سے توبہ کی تھی لیکن وہ چور قسم کا تھا، ہفتہ میں مہینہ میں چھپ کر بھنگی پاڑہ جا کر گو کا لکنست سونگھا آتا تھا اور اپنے مرتبی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جانے ہی نہ دے۔ اب بتائے کہ کیا اس کو صحبت ہو گی اور کیا اس کو بدبو سے نفرت ہو گی؟ کیونکہ یہ ظالم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ مولا نارومی اس کو بڑے درد سے فرماتے ہیں اور میں بھی درد سے کہتا ہوں اینے دوستوں سے

دستِ ما چویاۓ مارا می خورد

بے امان تو کسے جان کے برد

جب میرا ہی ہاتھ میرے پیر کو کاٹ رہا ہے تو اے خدا تیری سلامتی و امن کے بغیر ہم اپنی جان کو کیسے بچاسکتے ہیں۔

دوستو! ہم اپنی جان پر رحم کریں ورنہ ساری زندگی کش مکش اور عذاب میں رہے گی دنیا کا بھی عذاب ہوگا اور جب موت آئی گئی تو قبر میں جب عذاب ہوگا تب یہ چل جائے گا۔ اس لئے میں اللہ کا

واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ چھپ چھپ کر غلط ماحول میں جانے کی حرام حرکت سے، گناہوں کے ارتکاب سے بازاً جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار نہ کریں جو گناہوں سے پچی تو بکرے گا پھر اس کے تقاضے معصیت کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے تقاضے سے بدل دیں گے کچھ دن کا معاملہ ہے۔ سال دوسال ایسا گزارلو کہ بالکل گناہ نہ کرو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ گناہوں کو دل ہی نہیں چاہے گا دل ہی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ والا بنادیں۔ (مقصد حیات، صفحہ: ۲۰-۲۳)

تبدیلِ سنبھالتا الحسنات کی تیسری تفسیر

اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے برائی کو مٹا کر حسنات سے تبدیل فرماتا ہے۔ سرویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے یوْتُرُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتو! اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے وَيُنْحِي عَنْهُ كَبَارَهَا اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ کہہ گا کہ ہاں اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر حسنہ اور نیکی لکھ دو اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے کہ یہاں نیکی لکھ دو اور ایک دوسری روایت میں ہے لَيَاتِينَ نَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ یُسَمِّی هَذَا التَّبَدِيلُ كَرَمُ الْعَفْوِ اس کا نام عفو کریمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں کیسا کریم مالک ہے۔ اس کرم کو دیکھ کر وہ کہہ گا کہ اللہ میاں! ابھی تو میرے اور بھی گناہ ہیں ان لی ذُنُوباً لَمْ أَرَهَا هُنَّا میں اپنے بڑے بڑے گناہوں کو تو یہاں دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ ذرا ڈھنپائی تو دیکھنے کے جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نیکیاں ملنگیں اور انعامات ملنے لگے تو یہ ظالم اپنے بڑے گناہوں کو اللہ میاں کے سامنے پیش کر رہا ہے ان لی ذُنُوباً لَمْ أَرَهَا ہُنَّا کہ اللہ میاں میرے تو اور بھی بڑے گناہ تھے میں ان کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقام کو بیان فرمایا تو آپ ہنس پڑے حتیٰ بَدَثْ نَوَاجِدُهُ یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں کھل گئیں کہ بندوں کا یہ حال ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے ان شاء اللہ۔ آہ! اللہ تعالیٰ کے کرم بے پایاں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ (مقصد حیات، صفحہ: ۲۶-۲۷)

آیت نمبر ۶۵

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

(سورة الشعرا، آیة: ۸۹)

مگر جو قلب سليم اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرے گا جنت قیامت کے دن بغیر عذاب اسی کو ملے گی، بغیر حساب بخشا جائے گا۔ اب قلب سليم کیسے ہوگا؟ اس کے پانچ راستے علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے اس کوں کر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارا قلب سليم ہے یا نہیں؟

اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا

۱) الَّذِي يُفْقِهُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ الْبَرِّ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے چونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں ملے گا، خرچ نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے۔

اولاد کی تربیت

۲) الَّذِي يُرْشِدُ بَنِيهِ إِلَى الْحَقِّ جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے دعا مانگی رہبنا و جعلنا مُسْلِمِينَ لکَ اے اللہ ہمیں مسلمان بنائیے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ مسلمان تھے اب مزید اسلام میں ترقی ہو، ایمان بڑھ جائے، بڑھیا مسلمان بن جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو کیونکہ ایمان کی دو قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَيَزَدُ دَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

(سورة الفتح آیة: ۳)

اور دوسری آیت میں ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾

(سورة البقرة، آیة: ۱۲۸)

ایمان پر ایمان کا اضافہ کیسے ہو؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان موروثی عقلی استدلالی ہے وہ ایمان ذوقی حالی و جدالی میں تبدیل ہو جائے، یہ ہے زیادت ایمان۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَکَ معلوم ہوا کہ اولاد کو نیک بنانے کی دعا اور فکر کرنا پیغمبرانہ ذوق ہے تو قلب سليم یہ ہے کہا پنی اولاد کی تربیت کی بھی فکر کرے۔

غلط عقیدوں سے پا کی

۳) الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًّا عَنِ الْعَقَائِيدِ الْبَاطِلَةِ جس کا دل باطل عقیدوں سے پاک ہو۔ ایسا عقیدہ

نہ ہو کہ پیروں سے بیٹا وغیرہ مانگنے لگے۔ اگر کوئی پیر فقیر کرامتِ دکھادے ہوا پڑنے لگے مگر ڈاڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، سنت کے خلاف زندگی ہے، اس کو ولی اللہ سمجھنا جائز نہیں۔ خلاف شرع امور و قرب الہی کا ذریعہ سمجھنا کفر ہے۔

خواہشات کا غلبہ نہ ہو

۴) الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًّا عَنْ غَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ جس کا دل شہوتوں کے غلبے سے پاک ہو، شہوت تو رہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، ہاں کافور کی گولی بھی نہ کھالے کہ بیوی کے قابل بھی نہ رہے اور اتنا اوورفل شہوت بھی نہ ہو کہ کسی کی تمیز ہی نہ رہے، ہر ایک کوتاںک جھانک کرنے لگے۔ دل غلبہ خواہش سے پاک ہو یعنی دل خواہش پر غالب ہو، جہاں حلال ہو وہاں ٹھیک ہے جہاں حرام دیکھا بس اللہ کی پناہ مانگ گے اور وہاں سے بھاگے۔ خواہشات سے مغلوب نہ ہو۔

غیر اللہ سے دل پاک ہو

۵) الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًّا عَمَّا سِوَى اللَّهِ جس کا دل ماسوی اللہ سے خالی ہو یعنی بیوی بچوں اور مال و دولت پر اللہ کی محبت غالب آجائے، جس کو جگر مراد آبادی آل امداد یا شاعر نے کہا تھا۔
میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر
وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا

اس کو خواجہ عزیز الحسن مجزوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ذکر کے وقت یہ شعر پڑھتے تھے۔
دل مرا ہو جائے ایک میدان ہو
تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو

جو کچھ ہوسارے عالم میں ذرہ ذرہ میں اللہ تعالیٰ نظر آئے۔ اگر اللہ مل جائے دل با خدا ہو جائے تو آنکھیں بھی با خدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا دل ہوتا ہے ویسی ہی آنکھ ہوتی ہے۔ ابو جہل کا دل خراب تھا اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیز اور پیچان نہیں ہو سکی۔ اللہ والوں کو بھی پیچانے کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں بینائی اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ (ذکر اللہ اور اطمینان قلب، صفحہ ۷۷-۷۸)

آیت نمبر ۲۶

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

(سورة العنكبوت، آیہ: ۵۷)

ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس لیے ہر شخص کو موت سے قبل اپنی فائل یعنی معاملات کو درست

کر لینا چاہیے، حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھ دار آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہے اور جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگے کسی نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ اس جنازہ کے ولی تھے آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے، فرمایا ہاں مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن چھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت سارا کھا لیتی ہوں اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، موقدھوں کو بانہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور بانہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور اور رانوں کو گھٹنوں سے اوپر گھٹنوں کو پہنڈلیوں سے، پہنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرمائے کہ عمر بن عبد العزیز رونے لگے اور فرمایا دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے، وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باعث لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب چھوڑ کر چل دیئے، وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے، وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابلِ رشک تھے باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں مگر پھر بھی خوب کماتے تھے، ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف بخوبی برداشت کرتے تھے لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان بدنوں کا حال کیا کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اوپنی اوپنی مسہریوں اور اوپنے اوپنے فرش اور زم زم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، عزیز و اقارب رشتہ دار اور پڑوئی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گذر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مال دار سے پوچھ کہ اس

کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چمکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر دنیا میں وہ ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوب صورت اور دربار چھروں کا حال پوچھ کہ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے کیا حشر کیا؟ افسوس صد افسوس اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہ لارہا رہا ہے اور کسی کو فن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کل کو تھے یہ سب کچھ پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (ذکر اللہ اور اطمینان قلب صفحہ آخر)

آیت نمبر ۷۶

﴿وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ﴾

(سورة الروم، آیہ: ۲۲)

اللہ تعالیٰ کی دو عظیم الشان نشانیاں

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ کسی زبان کو دل سے حقیر سمجھنا یا زبان سے ظاہر کرنا اس میں خوف کفر ہے۔ چنانچہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی نے ایک شخص کا خط پڑھا جو بنگال سے آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہم بہت ہانتا ہے اس کا علاج بتائیے۔ حضرت کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ بنگالی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اس جملے سے حقارت کی بو آرہی ہے کہ تم نے اہل بنگال اور ان کی زبان کو حقیر سمجھا لہذا تم جا کر دوبارہ کلمہ پڑھو اور دور کعات نماز توبہ پڑھو۔ لہذا زبان کو حقیر سمجھنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اے دنیا والو! تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف میری نشانی ہے اور نشانی سے جان پہچان ہوتی ہے یعنی تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف میری معرفت کا ذریعہ ہے۔ میں افریقہ کے ملک ملادی میں تھا۔ ایک صح کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ جانوروں کی زبان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا اس لیے دنیا بھر کے جانوروں کی ایک ہی بولی ہے۔ کتنا چاہے پاکستان کا ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ اور برطانیہ کا ہو بھوں بھوں ہی کرے گا اور بلی چاہے کسی ملک کی ہومیا وہ ہی کہے گی لیکن انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں کیونکہ ان کو اپنی نشانی اور معرفت کا ذریعہ بنانا تھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ وہ کیا شان ہے آپ کی کہ کتنی زبانیں آپ نے پیدا فرمادیں۔ لہذا کسی زبان کو یا کسی رنگ کو مثلاً کا لوں کو حقیر سمجھنا اس میں اندیشہ کفر ہے۔ ایک شخص کسی بونے کو دیکھ کر

ہنسنے لگا تو اس نے کہا کہ پیالے پر نہ س رہے ہو یا کمہار پر۔ پیالہ پر ہنسنا، پیالہ بنانے والے پر ہنسنا ہے، کسی کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اُڑانا گویا کہ بنانے والے کا مذاق اُڑانا ہے۔

اس آیت کے ذیل میں مُعِذَّبِ دِزْمَانَ حَكِيمَ الْأَمْمَاتَ کا مذکورہ بالاعمل ہماری تائید کرتا ہے۔ ہر انسان خواہ کسی رنگ کا ہو اور کسی زبان کا ہواں میں ولی اللہ بننے کی صلاحیت موجود ہے، ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کرے ولی اللہ ہو گیا لہذا عقلًا بھی کسی کو حیر سمجھنا جائز نہیں۔ لیکن زبانوں کے بارے میں غیر شعوری طور پر شیطان حقارت ڈال دیتا ہے۔ اس کا خاص وصیان رکھنا چاہیے۔ کسی کی حقات دل میں نہ آنے پائے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نہ کوئی راہ پاجائے نہ کوئی غیر آجائے

حریمِ دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبان رہنا

آیت نمبر ۲۸

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبُحْرُ يَمْدُدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾

(سورہ لقمان، آیہ: ۲۷)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جاتے اور ساری دنیا کے سمندر اور اس سمندر جیسے سات اور سمندر روشنائی بن جاتے تو بھی میری عظمت اور میری صفات کو لکھنے کے لیے ناکافی ہو جاتے لہذا جب سارے عالم کے قلم اور سات سمندروں کی روشنائی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے لکھنے کے لیے ناکافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ شہداء کا پیدا فرما�ا جس کے خون شہادت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کی اور اپنی محبت کی تاریخ لکھوادی اور ان کو اس کام کے لیے انتخاب فرمایا لیتَّخَذَ مِنْكُمْ شَهِدَاءَ کافروں کی کیا مجال تھی کہ وہ کسی مومن کا خون بہا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور عظمت کی شہادت کے لیے ان کو منتخب فرمایا تاکہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ لیعنی نبیین، صدیقین اور صالحین کے ساتھ شہداء کا ایک گروہ بھی روئے زمین پر موجود رہے ورنہ کفار قرآن پاک کی صداقت پر اعتراض کرتے کہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ میں شہداء کے مصادیق کہاں ہیں۔ لہذا ایک طبقہ پیدا فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اپنی جانوں کو فدا کر دو اور اپنے خون سے میری محبت کی تاریخ لکھ دو۔

اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر بندوں کی جان فدا کرنے کا حکم کیوں دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو خدا ہم کو زندگی عطا کر سکتا ہے وہی خدا شہادت کا حکم دے کر ہماری زندگی کو اپنے اوپر فدا کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ جو ہم کو عدم سے وجود میں لاتا ہے وہ اگر کہہ دے کہ اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دو تو

اس میں تم کو کیا اشکال ہے۔ جب ہم تم کو زندگی دینے پر قادر ہیں اور ہم تم کو زندگی عطا کرتے ہیں تو ہمیں تمہاری زندگی لینے کا حق حاصل ہے۔ جب ہم تم کو حیات دے سکتے ہیں تو تمہاری حیات اپنے اوپر فدا کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری عطاۓ حیات ہمارے ہی لیے فدائے حیات ہے۔ ہماری طرف سے عطاۓ حیات کے بعد فدائے حیات کا حکم ظلم نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم تم کو زندگی دیں اور پھر حکم دے دیں کہ اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کروتا کہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمَا یہ طبقہ شہداء قیامت تک زندہ رہے۔ اگر شہادت کا باب بند ہوتا تو قرآن پاک کی اس آیت من النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ میں شہداء کے مصادیق کہاں ملتے ہندًا قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا اور شہید ہوتے رہیں گے۔ جس نے زندگی دی ہے شہداء اسی پر اپنی زندگی فدا کرتے رہیں گے۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۱۳۶-۱۳۷)

آیت نمبر ۲۶

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَعْيُنٍ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(سورۃ السجدة، آیۃ: ۲۷)

اللہ والوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اتصال و قرب حاصل ہے وہ بے کیف اور بے قیاس ہے۔ یہاں تک کہ ایک ولی بھی دوسرے ولی کے قرب کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے، اجملاً علم ہوتا ہے کہ یہ صاحبِ نسبت ہے لیکن اس کی روح کو جو مقام قرب، جو کیفیتِ قرب اور جو لذتِ قرب حاصل ہے اس کا تفصیلی علم ایک دوسرے کو نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں۔ پس جس دل میں اللہ اپنی تخلیاتِ خاصہ سے متعلق ہوتا ہے وہ دل گویا حاملِ ذات بے مثل ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک بے مثل شان عطا فرماتے ہیں جس میں وہ منفرد ہوتا ہے، ہر بندہ میں ایک شان تفرد اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے۔ اس لیے ہر ولی کو ایک بے مثل لذتِ قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَعْيُنٍ﴾ آیت اگرچہ جنت کے لیے ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک اپلی جنت کو پوشیدہ طور پر دیں گے لیکن جو شخص جنت کے راستے پر چلتا ہے جنت کی ٹھنڈک کا اثر دنیا ہی میں محسوس ہونے لگتا ہے۔

ترے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے
کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے

جیسے کوئی دریا کی طرف جا رہا ہے تو ہر قدم پر اس کو پانی کی ٹھنڈک ہواں میں محسوس ہونے لگتی ہے لہذا تفسیر نہیں لاطائفِ قرآن میں سے ہے کہ یہاں نکرہ تحتِ اٹھی واقع ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے یعنی کوئی ایک نفس

بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے راستے میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک، جواط مینان اور جولندتِ قرب اس کو عطا ہوتی ہے، ایک ولی بھی دوسرے ولی کے قرب و اصال مع الحق کی ماہیت اور حقیقت اور تفصیلی کیفیت سے واقف نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک قلب کو ایک بے مثل اور منفرد لذت عطا ہوتی ہے۔ نکرہ تحت انفی سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ تو ارواح کا معاملہ ہے جس کی لذت کو کوئی کیا بیان کرے گا جبکہ اجسام بھی الیکی لذت چکھتے ہیں جس کو الفاظ و لغت کے دائرہ میں نہیں لایا جاسکتا ہے، اس کو صرف محسوس کیا جاسکتا ہے، زبان اس کو بیان کرنے سے قادر ہوتی ہے مثلاً ایک شخص شامی کتاب کھارہ ہے اور جھوم رہا ہے کہ آہا بہت لذیذ کتاب ہے اب اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی ذرا تاؤ تو کہ اس کا کیا مزہ ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بیان نہیں کر سکتا ذرا چکھ کے دیکھ لو، جب چکھو گے تب ہی سمجھو گے۔ اسی طرح پیاہ کی لذت ہے۔

توجب مدرکاتِ اجمامیہ کا یہ عالم ہے کہ ان کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جاسکتا تو پھر مدرکاتِ روحانیہ کا کیا عالم ہو گا ان کا بدرجہ اولیٰ الفاظ و لغت کے احاطہ میں لانا محال ہے یعنی جب جسمانی لذتوں کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور الفاظ و لغت سے ان کو تعبیر نہیں کیا جاسکتا تو روحانی لذتوں کو کیسے بیان کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اس کو حضرت خواجه صاحب نے یوں فرمایا ہے۔

تم سا کوئی ہدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

اور یہ قرب گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے، اپنی حرام آرزوں کا خون کرنے سے نصیب ہوتا ہے اور اتنا عظیم قرب نصیب ہوتا ہے کہ مولا ناروی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے اس کو وہم و قیاس میں نہیں لایا جاسکتا۔

خاصاں خدا، خدا نباشد
لیکن ز خدا جدا نباشد

اللہ کے خاص بندے خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اللہ والوں کو خدا سمجھنا کفر ہے لیکن ان کو خدا سے دور سمجھنا بھی غلو اور بے عقلی ہے۔ اہل اللہ کو ہرگز خدا نہ سمجھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے لیکن ان کو خدا سے دور بھی نہ سمجھو۔ مولا ناروی نے اس کو عجیب مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو آفتاب آسمان پر ہے اور اس کی شعاع اور دھوپ زمین پر ہے۔ دھوپ سورج نہیں ہے لیکن سورج سے الگ بھی نہیں ہے۔

(دریں مشنوی مولا ناروی، صفحہ: ۲۷-۲۸)

شرح آیتِ بالاعنوانِ دیگر

جب اللہ اپنے اولیاء کا پیار لیتے ہیں تو اپنا پیاران کے دلوں کو بہت چھپا کر دیتے ہیں کہ کسی نفس کو

پتہ نہیں چلتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو عطا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ولی کے پیار کی لذت کو دوسرا ولی بھی نہیں جانتا۔ اپنے پیاروں کو اپنے پیاروں کی نظر سے بھی چھپا کر وہ دل میں پیار لیتا ہے جس کو ہر ولی سمجھتا ہے، ہر مستغفر سمجھتا ہے اور ہر تائب سمجھتا ہے۔ اس آیت کے لطیفہ خاص کے مفہوم کی مثال میرے رب نے مجھے عجیب و غریب عطا فرمائی اور یہ تفسیر نہیں ہے لٹائف قرآن سے ہے کہ جب ماں اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کی شیشی میں کپڑا لپیٹ دیتی ہے اور اگرئی بچے ہیں تو ہر ایک کی شیشی پر الگ الگ کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ کہیں میرے ہی بچوں کی نظر میرے بچوں کو نہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارا اور قرب کی لذت اپنے اولیاء کو اپنے اولیاء سے چھپا کر دیتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو جو دودھ دیتی ہے اس کی تو ایک ہی لذت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو الگ الگ لذت قرب دیتے ہیں کہ ایک ولی کو دوسرا ولی کی لذت کیف کا فضیلی علم نہیں ہوتا، اجمانی طور پر تو علم ہو سکتا ہے مگر اللہ کی دوستی اور قرب اور پیار کے تفصیلی مزے کو دوسرا ولی بھی نہیں جانتا، ہر ایک ولی کو ایک منفرد مزہ، ایک بے مشل لذت حاصل ہوتی ہے۔

(صحبت اہل اللہ اور جدید شیکناوی، ص: ۱۲)

آیت نمبر ۷

﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَأُهُلَّ الْدِينِ أَمْنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾
(سورة الاحزاب، آیہ: ۵۶)

میرے علم کے دائرہ میں نہیں ہے کہ اور کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اس نبی پر مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ اللَّهَ وَ مَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَأُهُلَّ الْدِينِ أَمْنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کا پیار کرتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی میرے نبی سے پیار کرو۔ اور فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی نے یوں فرمایا کہ پیار کرے اللہ، محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو۔ (ذوق ربانی، صفحہ: ۲۰)

آیت نمبر ۸

﴿يَا يَأُهُلَّ الْدِينِ أَمْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قُولًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَعْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾
(سورة الاحزاب، آیہ: ۷۰-۷۱)

اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو! اللہ سے ڈر لیعنی کسی معاملہ میں تم سے ایسے کام نہ ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نار پڑھو جائیں۔ ہر امر میں تقویٰ کے راستہ کو اختیار کرو، اطاعت کے راستہ کو

اختیار کرو و قُولُواْ قُولًا سَدِيدًا اور جب بات کرنا ہو تو راستی کی بات کہو، درستی کی بات کرو۔ ایسی گفتگو کرو جس سے میں محبت قائم ہو، تعلقات خوشگوار رہیں، زبان سے وہ بات نکالو جس میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو۔ اڑائی جھگڑے کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ نکاح کے خطبہ میں اسی لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ایسی تو تو میں میں مت کرو کہ زبان سے طلاقی طلاقہ نکل جائے۔ یُصْلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس مقام پر تمام تفاسیر میں یُصْلُحُ کا ترجمہ یَتَقَبَّلُ کیا گیا ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن، حکیم الامت مجدد الملک تفسیر بیان القرآن میں اور جملہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یُصْلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ کے معنی یَتَقَبَّلُ حَسَنَتُكُمْ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائیں گے۔

کیوں صاحب یُصْلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ کا ترجمہ عربی لغت کے لحاظ سے کیا ہے؟ لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کے اصلاح کر دے گا، لیکن یہ ترجمہ غلط ہو گیا۔ اسی لیے لغت سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ظالم اور جو جاہل یہ کہتا ہے کہ ان کا ہر پروفیسر ڈ کشنری اور لغت کی مدد سے تفسیر کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر اجہل، جاہل کا بھی پیر اور اسٹاد کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں یعنی صحابہ کو سکھایا۔ اس لیے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے کیا معنی بیان کیے اور وہی ترجمہ کرنا پڑے گا جو صحابہ سے منقول ہے۔ لہذا لغت سے ترجمہ کر کے پروفیسروں اور ڈاکٹروں کو جو مفسر بننے کا شوق ہے یہ نہایت نامعقول نظریہ ہے اور ان کے ذمہ اس نظریہ کی اصلاح واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی ہیں یُصْلُحُ لَكُمْ کی تفسیر فرماتے ہیں ای یَتَقَبَّلُ حَسَنَتُكُمْ انہوں نے لغت سے ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، بلکہ اس صحابی نے جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہی نقل کر دیا یَتَقَبَّلُ حَسَنَتُكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔

یہ ترجمہ کیوں کیا، اس کا سب حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ میں بیان فرمایا لانَ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ صَالِحًا يَكُونُ مَقْبُولًا جب تمہارا عمل صالح ہو جائے گا تو مقبول بھی ہو جائے گا۔ لہذا عمل کا صالح ہونا اس کے لیے لازم ہے قبولیت اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص گھر میں ہر وقت اڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی عورت کرتی ہے اس کی نیکیوں کی قبولیت خطرہ میں ہے اور گفتگو میں راستی و درستی کا لاحاظہ رکھنے کا اور تقویٰ کا دوسرا انعام کیا ہے وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا وَرَجُوَاللَّهِ أَوْرَاسٍ كَرَسُولُكَ اطَّاعَتْ كَرَمًا وَهَا كَامِيَابٌ هُوَ جَائِيُّهُ— (خوشگوارزادی زندگی، صفحہ: ۱۳-۱۴)

آیت نمبر ۷

﴿يَا يَاهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾

(سورہ فاطر، آیہ: ۱۵)

سارق کے قطع ید کی عجیب و غریب حکمت

بعض نادان کہتے ہیں کہ چوری پر ہاتھ کا نٹنے کی سزا بہت بڑی ہے۔ اس کا عجیب راز اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاوں کے صدقہ میں میرے دل کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا يَاهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ اے سارے انسانو! تم اللہ کے فقیر ہو، دنیاوی فقیر تو عارضی ہوتا ہے کوئی اس کو دس کروڑ دے دے تو مالدار ہو جائے گا لیکن اللہ کا جو فقیر ہے مرتبہ دم تک فقیر ہے چاہے بادشاہ ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو کوئی بھی ہو۔ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کرتا ہے دوام پر کتم ہمیشہ ہمارے فقیر رہو گے، کسی وقت تم ہماری محتاجی اور دائرہ فقر سے نکل نہیں سکتے۔ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ تم ہمارے فقیر ہوا اور فقیر کا کام مانگنا ہے لہذا ہمیشہ تم سے مانگنے کے لیے پیالہ چاہیے چونکہ تم دائیٰ فقیر ہو اس لیے ہم تم کو دائیٰ پیالہ دے رہے ہیں تاکہ رات کو اٹھ کر تمہیں الماری میں پیالہ تلاش نہ کرنا پڑے۔ اگر رات کے بارہ بجے بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اٹھو، دونوں ہاتھوں کو ملاو اور پیالہ بن گیا اب ہم سے مانگو، یہ سرکاری پیالہ ہے، میں نے تمہیں یہ سرکاری پیالہ دیا تھامن نے اس سے چوری کیوں کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگا، اس سرکاری پیالہ میں تم نے حرام مال کیوں رکھا، تم سرکار کی توہین کرتے ہو، سرکار کی عزت کے خلاف کام کرتے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سرکاری پیالہ دیا جائے لہذا کٹوایا نہیں جاتا واپس لیا جاتا ہے۔ عنوان ہے کٹوانے کا۔ فَاقْطُعُوْا كَا حَاصِلٍ يَہٗ كَمْ سرکاری پیالہ واپس کرو تم اس کے اہل نہیں ہو۔ (فضل ربانی، صفحہ: ۶۸-۶۹)

آیت نمبر ۳۷

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾

(سورہ الفاطر، آیہ: ۲۸)

علم اور خشیت لازم و ملزم ہیں

جس طرح آگ کے لیے حرارت اور برف کے لیے بروڈت لازم ہے اسی طرح علم صحیح کے لیے خشیت لازم ہے۔ اگر خشیت نہ ہو تو علم صحیح اس کو نہ کہا جائے گا کہ اتفقاء لازم اتفقاء ملزم کو مستلزم ہے اور یہ

لزوم منصوص ہے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى شَانٌ:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

(سورة الفاطر، آیہ: ۲۸)

اور لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

﴿وَاللَّهُ إِنِّي لَأَغْلَمُكُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّا أَخْشَكُمْ لَهُ﴾

(مسند احمد)

اور خشیت کے لیے عمل لازم ہے پس علم کا لازم اول تو خشیت ہے جو صرف باطن سے تعلق رکھتا ہے لیکن عمل جو علم کا لازم ثانی ہے وہ علم کے لازم اول یعنی خشیت کے لیے دلیل ہوتا ہے پس صحیح علم کے لیے خشیت اور خشیت کے لیے عمل لازم ہے۔ اور جو اہل علم ان دونوں لازموں سے کوئے ہوں وہ عند اللہ اہل علم نہیں ہیں۔ انہیں اپنے کو عالم سمجھنا بخوبی ایک دھوکہ ہے۔

جانِ جملہ علیہا این است و این
کہ بداني من کيئم در يوم دين

تمام علوم کی جان یہ ہے کہ تجوہ کو یہ خشیت حاصل ہو جائے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا جن کو یہ حاصل نہیں تو ایسے ہی لوگ مَنْ يَتَفَقَّهُ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَقَشَّفَ کے مصدق ہیں یعنی جن لوگوں نے علم حاصل کیا لیکن تصوف و خشیت حاصل نہ کی وہ خشک یعنی بے عمل رہے۔ ایسے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں جس کا علم اپنے لازمِ باطن یعنی خشیت اور لازمِ ظاہر یعنی عمل دونوں لازموں سے آراستہ ہو۔

آیت نمبر ۲۷

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِئِهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرُ قَدْرُنَهُ يُحِبُّ حَتَّىٰ

عَادَ كَالْعُرُجُونَ الْقَدِيمُ﴾

(سورة یس، آیہ: ۳۹)

عَزِيزُ اور عَلِيمُ کا رابط

اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اُس اللہ کا جوز بردست طاقت والا اور علم والا ہے اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پر انی ٹھہری۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آفتاب اور ماہتاب کے چلنے کے لیے الگ الگ روٹ مقرر کر دیجئے ہیں۔ سورج اُسی روٹ پر چلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقر کر دیا چنانچہ نکلتا کہیں ہے ڈوبتا

کہیں ہے، یہاں طلوع ہو رہا ہے امر کیمہ میں غروب ہو رہا ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جو زبردست طاقت والا ہو کہ اپنے انتظامات کو نافذ کر سکے اور زبردست علم والا بھی ہو جو ان انتظامات کی حکمت اور مصلحت جانتا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی دو صفت عزیز اور علیم نازل فرمائیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی زبردست طاقت سے سورج اور چاند کو اپنے اپنے مستقر پر ڈال دیا ہے اور وہ اُس کی حکمت و مصلحت بھی جانتا ہے کہ مثلاً چاند اور سورج اور دیگر سیارات کتنے فاصلوں پر رہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں۔ یا مثلاً بقول سائنس دانوں کے سورج ساڑھے نو کروڑ میل پر ہے، اگر اس سے اور قریب آجائے تو کھیتوں کا غلہ بھی جل جائے اور انسان بھی جل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست علم ہے جس سے سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا کہ فوائد حاصل ہو جائیں اور نقصانات نہ پہنچیں یعنی غلہ پک جائے اور جلنہیں اور انسانوں کو بقدر ضرورت روشنی اور گرمی حاصل ہو۔

آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَا إِلَهَ مُسْتَبْغُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقُمَرُ وَلَا إِلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾
(سورہ یس، آیہ: ۳۰)

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور زبردست علم کا بیان ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا کپڑے یعنی قبل از وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے وقت یعنی رات کو مجو کر دے جیسا کہ چاند بھی سورج کو اُس کے ظہور نور کے وقت نہیں کپڑے سکتا کہ رات آجائے اور چاند کا نور ظاہر ہو جائے اور اسی طرح نہ رات دن کے زمانہ مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے آسکتی ہے جیسے دن بھی رات کے زمانہ مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آسکتا اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے۔ ان تمام انتظامات کی مصلحت اور حکمت جانے کے لیے زبردست علم اور ان کے نفاذ کے لیے زبردست قدرت کی ضرورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اسماء حسنی عزیز اور علیم نازل فرمائے کہ میں اپنے زبردست علم سے تمام انتظام فلکیات و ارضیات کی حکمت و مصلحت جانتا ہوں اور اپنی قدرت عظیمہ سے ان کو نافذ کرتا ہوں۔

آیت نمبر ۵۷

﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورہ یس، آیہ: ۵۹)

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم سب لوگ ملے جلے رہے مگر آج مجرم لوگ سب الگ

ہو جائیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے وَامْتَازُوا
الْيَوْمَ أَيْهَا الْمُجْرِمُونَ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم سب لوگ ملے جلے رہے مگر آج جرم
لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر جرم علیحدہ، اس حکم کو سن کر جتنا بھی روایا جائے کم ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار
جرموں میں ہو گا یا فرمائیں بداروں میں۔ (روح کی بیانیاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۲۰۳)

آیت نمبر ۶۷

﴿قَالَ مَنْ يُحْكِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْكِيْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

(سورہ یس، آیات، ص: ۷۸-۷۹)

وقوع قیامت کے عجیب و غریب دلائل

تو میں نے جس آیت کو پیش کیا ہے اس سے میں وحوب قیامت پر دلائل پیش کرتا ہوں جو میں
نے اپنے شیخ اول حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تمام دنیا
کے سائنسدان اور کفار و مشرکین بھی اس وقت بیٹھے ہوتے تو قیامت کے وقوع کو تعلیم کر کے اٹھتے۔

ایک مشرک اور کافر شخص جس کا نام عاص ابن واہل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا
اور ایک پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہواوں میں اڑا دیا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ کیا کہ کیا اس
بوسیدہ ہڈی کو جس کو میں نے مل کر فضاوں میں اڑا دیا ہے کیا آپ کا خدا زندہ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا۔ پیغمبروں کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نبی!
اس ظالم کو بتا دیجئے قُلْ يُحْكِيْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ اللَّهُ سَيِّدُ زَنْدَةٍ كرے گا جس نے اسے پہلی بار
پیدا کیا ہے یعنی پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا وجود ہی نہ تھا اور زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور اب تو ایک
بار پیدا ہونے کے بعد حیات سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو چکا ہے تو دوبارہ ان کو جمع کر کے ان میں حیات پیدا
کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ماضی، حال اور استقبال کو خوب جانتا ہے۔ جہاں جہاں وہ بکھر جائے گا،
منتشر ہو جائے گا خدا کے علم سے دونہیں ہو سکتا۔ اب اس پر میرے شیخ کی تقریر سنئے۔ شاہ عبدالغنی صاحب

پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَرَ إِلَّا نُسَانٌ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

(سورہ یس، آیہ: ۷۷)

تخلیق اول کی شرح ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کافر کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، یہ اللہ کا جواب

ہے جس میں کوزہ میں سمندر بھرا ہوا ہے۔ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ منی سے! اور منی خون سے بنتی ہے اور خون غذاوں سے بنتا ہے اور غذا میں سارے عالم میں منتشر ہیں۔ تو اول مرتبہ جب اللہ نے پیدا کیا تو انسان سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا۔ اگر کسی انسان کا جز مذینہ شریف کی عجہ بھجوں میں ہے تو اس کا باپ حج کرنے جائے گا تو ہی بھجوں کھائے گا جس میں علم الہی میں اس کا ذرہ رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے باپ کے خون کا کوئی ذرہ کوئی بکریوں میں ہے اور کوئی بکریوں کے پھاڑوں کی گھاس میں ہے تو کوئی بکریوں کو وہ گھاس کھلائی جائے گی جس میں اس بندہ کے تخلیقی ذراثت ہیں۔ بھروہ بکریاں کراچی یا حیدر آباد وغیرہ پہنچیں گی یا ان کا گوشت پہنچے گا اور اس گھاس اور تنکوں میں پوشیدہ اس بندہ کے تخلیقی ذراثت بکریوں کے ذریعہ اس کے باپ کے خون میں داخل ہوں گے جس سے وہ قطرہ منی بننے گا جس سے اس بندہ کو پیدا کرنا ہے۔ اگر اس انسان کے تخلیقی ذراثت قدھار کے اناروں میں چھپے ہوئے ہیں تو قندھار کے انار پاکستان امپورٹ (Import) ہو کر آئیں گے اور اس کا باپ وہ انار کھائے گا۔ اگر اس انسان کا کوئی جز آسٹریلیا کے گندم میں ہے تو پاکستان مجبور ہو گا کہ اس گندم کو منگا کر اس کے ماں باپ تک پہنچائے۔ اگر وہ تخلیقی اجزاء ملک شام کے سیبوں میں ہیں تو وہ سیب اس تک پہنچائے جائیں گے مثلاً اس کے باپ کو ج نصیب ہو گا اور شام کا سیب مکہ شریف میں کھائے گا یا بھروہ سیب اس کے ملک میں آئے گا اور اس کا باپ وہ کیلائا کھائے گا جس کے ذریعہ اس کا وہ ذرہ پیدائش جو اس کیلے میں تھا اس کے جسم میں چلا جائے گا اور خون بن جائے گا اور جنم سے جاری ہونے والا دریائے سندھ جہاں سے گذرتا ہے، جن جن معدنیات، جن جن کانوں، جن جن پھاڑوں سے گذرتا ہے ان میں اگر اس کا کوئی ذرہ ہے تو دریائے سندھ کے پانی کے ذریعہ وہ ذرہ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور جب اس کا ابا سارے عالم میں بکھری ہوئی ان منتشر غذاوں کو اور پانی کو کھاپی لے گا جس میں اس بندہ کے ذراثت تخلیق تھے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے اجزا کو خون میں جمع کر دے گا، بھرخون سے منی میں منتقل کرے گا، بھرمنی کے اس قطرہ میں منتقل کرے گا جس سے اس کا نطفہ نبھد ہو گا، بھر جا کروہ انسان بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ مبارکہ میں بتایا کہ اے قیامت کا انکار کرنے والے ظالم انسان! تو سارے عالم میں منتشر تھا، تولیبیا کے کیلوں میں تھا، شام کے سیبوں میں تھا، قندھار کے اناروں میں تھا، آسٹریلیا کے گندم میں تھا اور کوئی بکریوں کی بکریوں میں تھا، ہم نے سارے عالم سے کس طرح ان غذاوں کو تیرے باپ تک پہنچایا جن کو کھا کر تیرے باپ کے اندر ہم نے خون

بنایا پھر خون سے منی بنائی اور منی سے وہ قطرہ الگ کیا جس سے تجھ کو پیدا کرنا تھا۔ آہ! اَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَبارُكُ وَتَعَالَى نَے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا کہ اس نالائق کو آپ
جواب دیجئے جو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ تو سارے عالم میں منتشر تھا ہم نے تجھ کو جمع کر کے پہلی دفعہ پیدا کیا
اور جب تجھے ایک دفعہ جمع کر دیا تو دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ جب سارے عالم میں منتشر تیرے اجزاء کو
جمع کر کے تیرے باپ کے نطفہ میں ایک بار جمع کر دیا تو دوبارہ جمع کرنے پر ایمان لانے میں تجھے کیا مشکل
ہے؟ (ثبوت قیامت اور اس کے دلائل، صفحہ: ۳۲-۳۳)

قیامت آنے کا سبب

دیکھو وستو! قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو گا تب اللہ تعالیٰ سورج
و چاند کو گردادیں گے، آسمان و زمین کو گردادیں گے کہ جب دنیا میں ہمارے نہ رہے تو یہ شامیا نے کس کے
لیے باقی رکھے جائیں؟ دیکھا آپ نے! یہ قیامت کی خاص دلیل ہے کہ جب دنیا میں ہمارے نہ رہے تو
سورج چاند اور ستاروں کے نکلیں شامیا نے امریکہ، جاپان اور جرمنی کے کافروں کے لیے نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اللہ اللہ کرنے والوں کے عدم وجود سے قیامت آئے گی۔ معلوم ہوا کہ
اللہ کا نام پاک سارے عالم کی جان ہے، جان کا نات ہے، جان نہ رہے تو انسان مردہ ہو کر گر جاتا ہے۔
بس اسی طرح جس دن پورے عالم میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو گا پورا عالم گر جائے گا۔ بعض نادان
مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کا دیا کھار ہے ہیں حالانکہ امریکہ ہماری برکت سے کھار ہا ہے، مسلمانوں
کے صدقے میں کھار ہا ہے، جب مسلمان نہ ہیں گے تو دیکھوں گا کہ امریکہ کیسے قائم رہتا ہے اور جرمن
جاپان کیسے رہتے ہیں اور ہالینڈ، تھائی لینڈ، پولینڈ، انگلینڈ وغیرہ جتنے لینڈ ہیں ان کے لینڈ کیسے رہتے ہیں۔

اجتماعی قیامت اور انفرادی قیامت

تو دوستو! اجتماعی قیامت تو یہ ہے کہ جب پورے عالم میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہو گا تو
اجتماعی قیامت آجائے گی لیکن ایک انفرادی قیامت بھی ہے کہ جس مومن کا دل گناہوں کا عادی ہو کر اللہ
کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اس کے دل کے آسمان گر جائیں گے، اس کے دل کی زمین گر جائے گی، اس
کے دل کے سورج اور چاند گر جائیں گے، اس کے دل کے ستارے گر جائیں گے، اس کا دل قیامت زدہ
ہو جائے گا یہ اس کی انفرادی قیامت ہے۔ اس لیے دوستو! کہتا ہوں کہ زندگی کا ایک سانس بھی ماں کی
نار انگکی کے لیے استعمال نہیں کرو۔ (ثبوت قیامت اور اس کے دلائل، صفحہ: ۲۷-۲۹)

آیت نمبر ۷۷

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

(سورة الزمر، آیہ: ۵۳)

لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ کی عجیب تقریر

اے نبی! آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی رحمت سے کھلا رہے ہیں، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر بواسطہ نبوت ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، دیکھئے! کیا شان ہے کہ مسرفین علیٰ اَنفُسِهِمْ کو بھی یاء نسبت لگا کر اپنا فرمائے ہیں گویا اپنی ذات پاک سے لگا رہے ہیں، گھنگار بندوں کو بھی میرا فرمائے ہیں، باوجود گناہوں کے ان کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا، اپنی نسبت قائم رکھی، اپنی بندگی سے نہیں نکلا، قُلْ يَا عِبَادِي اے نبی رحمت! میں اپنی رحمت کا اعلان تو کر رہا ہوں، مگر کس کے واسطہ سے؟ جو خود سراپا رحمت ہیں، جسم رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ سے اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں کہ اے نبی رحمت! آپ میرے بندوں سے فرمادیجئے کہ میں اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہوں اور آپ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ہیں۔ میں اپنی رحمت کو نبی رحمت کے واسطے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بندوں کو دو گناہ مزہ آئے گا اور رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ میری رحمت کے اور زیادہ امیدوار ہو جائیں گے، میری رحمت اور نبی کی رحمت دو رحمتوں سے مل کر شرابِ محبت، شرابِ رحمت اور تیز ہو جائے گی۔

نشہ بڑھتا ہے شرایں جو شرابوں میں ملیں
منے مرشد کو منے حق میں ملا لینے دو

اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب اور مرشد کی محبت کی شراب جب دونوں مل جاتی ہیں تو نشہ تیز ہو جاتا ہے۔ اصلی مرشد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنایا ہے وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، سارے عالم کے لیے نبی ہیں، تو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بواسطہ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ اپنی رحمت کا اعلان فرمائے ہیں کیونکہ میں تو غنیبو بت میں ہوں، ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، میرے آثار و نشانات سے بندے مجھے پہچانتے ہیں لیکن میرا نبی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی رحمت و شفقت کو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ کی رحمت کو دیکھ کر ان کو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کی رحمت کا یقین آئے گا اس لیے اے نبی (صلی اللہ

علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے گنہگار بندو! آہ! کیا رحمت ہے کہ گنہگار بھی فرمائے ہیں اور میرے بھی فرمائے ہیں، یا نسبتی لگا کر اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھادیا کہ اگرچہ یہ نالائق ہیں مگر میرے ہیں، تو یاء کیوں لگایا یعنی میرے کیوں فرمایا؟ مارے میا کے، مارے محبت کے کیونکہ جب باپ کہے کہ میرے بیٹے تو سمجھ لو کہ اس وقت محبت کا دریا جوش میں ہے۔ اگر صرف بیٹا کہے تو اس وقت محبت میں جوش نہیں لیکن جب کہے میرے بیٹے! میرے بیٹے! تو یہ جوش محبت کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یا عباد نہیں فرمایا کہ اے بندو! بلکہ یا عبادی فرمایا کہ اے میرے بندو! یعنی جو ناامید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امیدوار کر رہے ہیں، نافرمانوں کو، گنہگاروں کو، سرکشوں کو، مجرمین کو، نالائقوں کو، ناامید رحمت دلار ہے ہیں، عبادی فرمایا پنی آغوش رحمت میں لے رہے ہیں تاکہ میری رحمت کا ان کو آسرا، سہارا اور اطمینان ہو جائے۔ آہ! یا عبادی میں کیا کرم ہے، کیا شفقت ہے، کیا رحمت ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بندے نہیں ہو، ماں باپ بھی اپنی نالائق اولاد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہیں ان کی محبت کے آگے ماں باپ کی محبت کیا حقیقت رکھتی ہے؟ وہ فرم رہے ہیں کہ چاہے تم کتنے ہی گنہگار ہو چاہے تم ایک ہزار، ایک لاکھ، ایک کروڑ، دس کروڑ، ایک ارب گناہ کر لو یعنی بے شمار گناہ کر لو مگر میرے ہی رہو گے، میرے دائرہ عبدیت سے خارج نہیں ہو سکتے، جب تم گناہ کرتے ہو اس وقت بھی میرے رہتے ہو، میری محبت و رحمت سے اس وقت بھی خارج نہیں ہوتے، پس اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر لیے چاہے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ سب اسراف میں داخل ہیں کیونکہ اسراف کے معنی ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ کسی شئی کو غیر محل میں رکھ دو تو یہ اسراف ہے تو جو بھی حرام کام ہو گئے گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو گئے، جو بھی نالائقیاں ہو گئیں تو اے میرے بندو جب تم میرے ہو تو کیوں ناامید ہوتے ہو؟ میں ارحم الراحمین بواسطہ رحمۃ اللعائین اعلان کر رہا ہوں کہ لا تَقْنُطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ میری رحمت سے ناامید مت ہونا تاکہ ما یو یہی میرے گنہگار بندوں کو کہیں مجھ سے دور نہ کر دے اور ما یو یہی کوکس جملہ سے دور فرمایا؟ جملہ اسمیہ سے اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اِنَّ بھی تاکید کے لیے، اَذْنُوبَ کا الف لام بھی استغراق کا جس میں کفر و شرک کباڑے صغار تمام گناہ آگئے اور جملہ بھی اسمیہ جو ثبوت و دوام کو متقابل ہے یعنی ماضی، حال و مستقبل کسی زمانے میں بھی تم سے گناہ ہو جائے ہماری یہ صفت علیٰ سَبِيلُ الْإِسْتِمْرَادِ تم پر کرم فرمائے۔ اس کے بعد جمیعاً سے مزید تاکید فرمادی۔ اگرچہ الف لام استغراق کا سب گناہوں کو سمیٹنے ہوئے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے جمیعاً نازل فرمایا یعنی گناہ کے جتنے انواع و افراد و اقسام ہیں سب کے سب معاف کر دوں گا کوئی گناہ نہیں بچے گا جسے میں معاف نہ

کردوں۔ اتنی تاکیدوں سے گنہگاروں کو اپنے قریب فرمائے ہیں، مایوسی سے بچا رہے ہیں، رحمت سے امیدوار فرمائے ہیں۔ آہ! کیاشان رحمت ہے۔

میں اُن کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے
لا مجھ کو دکھا اُن کی طرح کوئی اگر ہے

آگے فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ بخشش کون کر رہا ہے؟ تمہاری مغفرت کیوں کر رہا ہے؟ میری رحمت ہی کافی تھی لیکن تمہاری مغفرت کا نبی رحمت سے اعلان کیوں کر رہا ہوں؟ تمہارے اطمینان کے لیے؟ کیونکہ میں تو ابھی عالمِ غیب میں ہوں پوشیدہ ہوں، تمہارے سامنے نہیں ہوں مگر میرا نبی تو تمہارے درمیان موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے عالمِ شہادت میں ہے، عالمِ حضوری میں تم میرے نبی رحمت کو دیکھ رہے ہو کہ وہ سراپا رحمت ہیں اور تم پر کتنے مہربان اور شفیق ہیں اس لیے ان کے واسطے سے کھلارہ ہوں تاکہ رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ کی رحمت سے تم کو احمد الراحمین کی بے پایاں اور غیر محدود رحمت کی معرفت ہوگی اور میری رحمت کو تم چشمِ بصیرت سے دیکھو گے اور قلب و جاں میں محسوس کرو گے۔ اگرچہ میں پرداز غیب میں ہوں لیکن تمہارے ساتھ ہوں وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْنَمَا كُنْتُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى سے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تم اکیل نہیں رہتے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں چاہے جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَّقَلِّبَكُمْ وَ مُنْوَأْكُمْ اے صحابہ! تمہارا بازاروں میں چلنا پھرنا اور اپنے گھروں میں سونا سب ہمارے علم میں ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے نبی! آپ تو میری نگاہوں میں ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے نہیں فرمایا کہ تم لوگ میری نگاہوں میں ہو مگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ محبوبیت بیان کی کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا جملہ اسمیہ سے فرمایا جو شہوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے اور اِنَّ بھی تحقیق کے لیے ہے۔ پس تحقیق کہ آپ میری نگاہوں میں ہیں اور اَعْيُنُ جمع کا صیغہ ہے اور جمع عربی میں تین سے اوپر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں تو اس کا ترجمہ ہوا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری غیر محدود نگاہوں میں ہیں اس آیت میں کیا محبت کیا پیار کیا رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، کتنا وجد آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری نگاہوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات بیان فرمائے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ جانتے ہو کہ میں تمہاری مغفرت کیوں کر رہا ہوں؟ میری مغفرت کا غیر محدود سمندر کیوں ٹھاٹھیں مار رہا ہے

کہ کفر و شرک، کبائر و صغائر تھارے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں؟ معلوم ہے تمہیں کیوں بخشش دیتا ہوں؟ بوجہ رحمت کے تمہیں بخشش دیتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ برونج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ یعنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ مارے میا کے، بوجہ محبت کے اور یہاں فرمایا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بھی کافی تھا پھر ہو کیوں لگایا؟ جبکہ إِنَّهُ میں هُوَ موجود ہے تو تاکید کے لیے لگادیا۔ ارے وہ اللہ تم اس کو نہیں جانتے؟ وہی اللہ جو بڑا غفور الرحیم ہے، تم اس سے نامید ہوتے ہو؟ وہ تو بہت بخششے والا ہے اور بخششے کی وجہ کیا ہے مارے رحمت کے، مارے محبت کے معاف کر دیتا ہے غفور کے بعد رحیم نازل ہونے کی یہ حکمت ہے۔ جب رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے جرام، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اولاد بھی سمجھتی ہے کہ یہ میری اماں ہیں، یہ میرے ابا ہیں۔ اگر وہ کہہ دے اماں معاف کر دیجئے، ابا معاف کر دیجئے تو وہ جلدی سے معاف کر دیتے ہیں۔ پس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بے انتہا بخششے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت کی فراوانی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تحقیق وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس کی رحمت سے کبھی نامید نہ ہونا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر میری رحمت سے نامید ہوئے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھ سے نامید ہوئے تو کافر ہو جاؤ گے، خبردار! نامید نہ ہونا۔ کیا رحمت ہے کہ جہنم کا ڈنڈا کھا کر اپنی رحمت کا نامید وار بنارہے ہیں جیسے باپ کہتا ہے کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو ڈنڈے لگائیں گا۔ ڈنڈے لگانا باپ کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ باپ دودھ پلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جہنم سے ڈرا کرنا نامیدی سے بچا رہے ہیں کہ میری رحمت کو کیا سمجھتے ہو؟ نامید نہ ہو، اگر تھارے گناہ بڑے بڑے ہیں تو اللہ ان سب سے بڑے ہیں۔

اس کے بعد حضرت والانے نہایت شکستگی سے فرمایا کہ پیشی کے دن عرض کروں گا کہ رحمت کی نامید لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر سوال ہوا کہ تم تو نالائق تھے تو عرض کروں گا کہ آپ نے مُسْرِفینَ علیٰ انْفُسِهِمْ کے لیے فرمایا تھلاً تَقْنَطُوا اللَّخَ آپ کے حکم کی تقلیل کی ہے۔

فَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُو كَ إِلَّا مُحْسِنٌ
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُو وَ يَرْجُو الْمُجْرِمَ

ترجمہ: اگر صرف نیک بندے ہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جس کو گنہگار پکاریں۔
نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو
کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا

آیت نمبر ۸۷

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٨٧﴾

(سورة الغافر، آیہ: ۱۹)

حق تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی چوریوں کو اور ان کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بد نگاہی کرتے وقت یاد میں گناہوں کے تصورات اور خیالات سے پوشیدہ لطف لیتے وقت یہ دھیان بھی ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ ہماری ان بیہودہ اور ذلیل حرکتوں سے آگاہ ہیں۔

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز
جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

اس استحضار اور دھیان سے ندامت و شرمندگی ہوگی اور فوراً تو بے واستغفار کی توفیق ہوگی پس یہ آیت دراصل خیانت عین اور خیانت صدر (آنکھ اور سینہ کی خیانت) سے حفاظت کا اکسیر نہ ہے مگر نسخہ جبھی مفید ہوتا ہے جب اس کا استعمال بھی ہو پس اس مضمون کا مراقبہ اور دھیان دل میں بار بار جانا چاہیے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری بد نگاہی کی اس ذلیل حرکت سے آگاہ ہیں اور اسی طرح دل میں جوبے ہو دہ شہوت کے خیالات سے اور حسینوں کے تصورات سے خیالی پلاو کا حرام لطف لیا جا رہا ہے اس سے بھی حق تعالیٰ مطلع اور آگاہ ہیں۔ اور پھر حق تعالیٰ کے غضب اور قدرتِ قہر و انتقام کو سوچا جائے ان شاء اللہ اس استحضار کی مشق سے اور ہمت و دعا سے دونوں خیانتوں کا ترک آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مراقبہ اور ذکر اور وظیفوں سے یہ بیماری نہیں جاتی، یہ چیزیں تو معین ہیں، اصل کام ہمت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔

ایک طالب نے حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں حسن سے بے حد متاثر ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور مجھے حسینوں سے نگاہ بچانے کی طاقت نہیں۔ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ فلسفہ کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے پس اگر حسینوں کو دیکھنے کی آپ کو طاقت ہے تو لا محالہ آپ کو نہ دیکھنے کی بھی طاقت حاصل ہے یعنی جس فعل کو آدمی کر سکتا ہے وہ اس فعل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقلی مسلمات سے ہے۔

(روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۱۵-۱۶)

با لخوص سالکین کو شیطان اکثر دو صورتوں سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تو بڑائی دل میں ڈال کر تکبر کی لعنت میں بیٹلا کر کے خدا سے دور کر دیتا ہے یا پھر عورتوں یا لڑکوں کے عشق میں بیٹلا کر کے تباہ کر دیتا ہے اور یہ ابتلا بہت آہستہ رفتار سے کرتا ہے یعنی پہلے غیر محسوس طور پر کسی حسین کی آنکھوں یا تبسم یا کسی ادا سے متاثر کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اختلاط اور میل جوں بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف دل بہلانے میں کیا مضائقہ ہے گناہ نہ کریں گے لیکن جب زیرِ عشق آہستہ دل پر چھا جاتا ہے پھر بقول حضرت سعدی شیرازیؑ کہ جب کچھر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے پھر غمملی کا نمبر بھی آ جاتا ہے۔

(روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۹۰)

کبھی آدمی اپنی آنکھیں تو بچالیتا ہے اور کئی روز تک آنکھیں محفوظ رکھتا ہے پھر شیطان یہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا لطف یاد دلاتا ہے اور سینے کی خیانت میں بیٹلا کر دیتا ہے اور جب ماضی کے گناہوں کا تصور اور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے فعل حرام کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ دل بادشاہ ہے اور دوسرے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوٹھرا ہے جب وہ صالح ہو جاتا ہے تمام اعضاء صالح ہو جاتے ہیں اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں اور وہ قلب ہے۔ لہذا شیطان دل کے اندر گناہوں کے وساوں کے ذریعہ دل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے پھر جب دل شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے آنکھوں کو، کانوں کو اور ہاتھ پاؤں سب کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے پس گناہ کے تصور سے اگر دل نے لطف لے لیا تو اس کا بریک (Break) فیل ہو گیا اور معلوم ہو کہ دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہر ارابطہ ہے بلکہ دونوں کی بریک لائن ایک ہی ہے چنانچہ آنکھوں کے خراب ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے اور دل کے خراب ہو جانے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یعنی کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے پھر دل بھی اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے اسی طرح بھی دل کسی حسین کو سوچ کر مزہ حرام لیتا ہے پھر آنکھیں اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ دل اور آنکھوں کی حفاظت میں دونوں ہی اہم ہیں کسی ایک سے غافل ہوا تو دونوں ہی خرابی میں بیٹلا ہو جائیں گے حق تعالیٰ شانہ نے اسی حقیقت کے پیش نظر اپنے ارشاد یَعْلَمُ حَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ میں آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں ہی پر خبردار فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم کسی جگہ نامحرم کو دیکھتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں ہی سے باخبر ہیں پس ہماری

قدرت اور پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا اعلان، حصہ اول، صفحہ: ۹۵-۹۷)

آیت نمبر ۷۹

﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

(سورة الشوریٰ، آیة: ۱۳)

میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی ہے جو گنگاروں کے لیے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے زبردست بشارت ہے۔ اگر وہ گرگڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ خزانہ جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا ہے مانگ لیں تو بہت جلد ان کا کام بن جائے کیونکہ اگر یہ خزانہ خداۓ تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو اعلان نہ فرماتے۔ دیکھئے جب ابا چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں ہے لیکن جب بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بکس میں آج اتنا روپیہ ہے تو اس کے معنی ہیں کہ مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس صفت کا قرآن پاک میں اعلان کیا کہ میری ایک خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہ نکل سکتا ہو رات دن گنگار زندگی میں پھنسا ہوا ہے جانتا ہے کہ میں دیدہ و دانستہ بہت ہی نالائقی میں پھنسا ہوا ہوں کہ نکلنے نہیں پاتا اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اجتیہا، جئی سے ہے اور جئی کے معنی جذب کے ہیں یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اپنا بناتا ہے نفس و شیطان کی غلامی سے چھپرا تا ہے، ساری کائنات سے چھپرا کر اپنا بناتا ہے۔ اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے اللہ اپنا بنا رہا ہے، اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے اور وہ خود، خود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

(تجلیات جذب، حصہ اول، ۱۷-۱۶)

طریقِ سلوک بھی جذب ہی سے طے ہوتا ہے

آگے ارشاد ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس کو پہلے جذب نہیں دیتا تو وہ خود کوشش کرے، مجاہدہ کرے، میری طرف انبابت و توجہ اختیار کرے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ مل جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں اور آخر میں ان کو بھی اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں بشرطیکہ مخلص بھی ہوں۔ ابليس مخلص نہ تھا اس لیے اس کو جذب نصیب نہیں ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ مرد و نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابليس نے کتنی عبادت کی لیکن جذب سے محروم تھا اس لیے مردود ہوا۔ الہذا ہم

لوگوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ روزہ نماز ہم کر رہے ہیں آپ اپنی رحمت سے قبول فرمائیجئے اور آپ نے قرآن پاک میں جس خزانہ کا اعلان فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں تو اے میرے رب اگر آپ کو یہ خزانہ ہمیں دینا نہ ہوتا تو اس کی آپ ہمیں خبر بھی نہ کرتے۔

(تجالیات جذب، حصہ اول، ۱۹-۲۱)

جو اللہ کی طرف چلتا ہے، انا بت اور توجہ کرتا ہے، اللہ کی تلاش میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو دوراستے ہو گئے۔ پہلے کا نام جذب ہے اور دوسرا کا نام سلوک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صفتِ جذب کو مقدم فرمایا کیونکہ اس میں بندہ مراد ہوتا ہے، مراد کے معنی ہیں جس کا ارادہ کیا جائے اور دوسرے راستے یعنی راہ سلوک میں بندہ مرید رہتا ہے بس جس کو حق تعالیٰ صفتِ جذب عطا فرماتے ہیں یعنی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بنانے کا ارادہ فرمالیا اور جو من یعنی ہے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کو تلاش کرتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے، اللہ کو اللہ کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، یہ مرید ہے، اللہ کا ارادہ کرنے والا ہے اس کو بھی بعد میں جذب نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بغیر جذب کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس پر ابتداء میں جذب غالب ہو یعنی جس کو پہلے اللہ تعالیٰ جذب کرے، بعد میں وہ خدا کا راستے محنت مشقت سے طے کرے اس کا نام مجدوب سالک ہے یعنی اس کو جذب پہلے نصیب ہوا سلوک بعد میں نصیب ہوا اور جو پہلے سلوک شروع کرے، عبادت کی محنت مشقت شروع کرے بعد میں اللہ اس کو جذب کرے، اپنی طرف کھینچ لے اس کا نام سالک مجدوب ہے یعنی پہلے یہ اللہ کے راستے میں چلا، محنت مشقت کی، پھر خدائے تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بہر حال جذب ہو یا سلوک دونوں راستے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بعضوں کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بعضوں کو سلوک کی توفیق پہلے ہوتی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جذب کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر حق تعالیٰ کے جذب کے کوئی حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جذب کی ایک اور علامت

جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتے ہیں تو اس کو پہنچے چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا بنا رہے ہیں اس کے دل میں خود بخود ایک کشش اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اُٹھی
ہر بن موسمے مرے اس نے پکارا مجھ کو

اور ایک علامت اور پیدا ہوتی ہے۔ سن لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ سارے عالم کی دولت، سارے عالم کے حسن کو نگاہ سے گرا کر ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی رکھوں یہ علامت ہے جذب کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کھینچے وہ بھلا کھینچ جائے کسی اور طرف! اور جو کسی اور طرف کھینچ جائے تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں کھینچا آپ بتائیے کہ محمد علیؐ کلے یا کوئی اور تنگڑا پہلوان کسی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے ہوئے ہوا اور اسی کو ایک کمزور اپنی طرف کھینچ رہا ہو تو بتائیے وہ کھینچ گا کمزور کی طرف؟ آدمی اسی طرف کھینچتا ہے جس طرف طاقت زیادہ ہوتی ہے بتائے اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت ورکوں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے وہ کسی اور طرف نہیں کھینچ سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی یہ ظالم جذب سے محروم ہے اپنی نافرمانی کے تسلسل اور ظلمات اور لعنت و نحوسست کی زندگی کے سبب اس کو اللہ تعالیٰ نے جذب نہیں فرمایا۔ لہذا رکر کر اللہ تعالیٰ سے اس صفت کی بھیک مانگنے۔ اگر خداۓ تعالیٰ کو نہ دینا ہوتا تو قرآن میں اس آیت کو نازل نہ فرماتے۔ غور سے سنو و ستو! آخر درد بھرے دل سے پیش کر رہا ہے، پندرہ سال شاہ عبدالغنی صاحب کی غلامی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ یوں ہی مفت میں نہیں پائی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں
محوكہڑا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں

جذب کی ایک علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے۔ مخلوق کی بھیک نہیں دیکھتا، بھیک دینے والے کو دیکھتا ہے۔ لیلی کو نہیں دیکھتا لیلی کو نمک دینے والے کو دیکھتا ہے۔ دولت کو نہیں دیکھتا جس نے مالداروں کو مال دیا ہے اس مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ غرض ساری کائنات سے وہ مستغفی ہو جاتا ہے۔ (تجالیت جذب، حصہ دوم، ۱۵-۱۷)

حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ

حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے قاتل ہیں۔ جنگِ احمد میں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور بہت بے دردی سے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدله میں ستر کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا اور خدا کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾
(سورہ النحل، آیہ: ۱۲۶)

اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں۔ ایک یا چند کے بدلہ میں ستر کافروں کو نہیں مار سکتے لیکن اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا۔ اے صحابہ سن لو میں صبر اختیار کرتا ہوں اب کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا اور میں قسم توڑتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ (معارف القرآن، جلد: ۵؛ صفحہ: ۲۲۲)

اور اب کچھ عرصہ بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واقعہ کو تفسیر خازن کے مصنف علامہ محمود نشی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ۲ صفحہ ۵۹ پر، تفسیر معالم التنزیل کے مصنف محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی نے جلد ۳ صفحہ ۸۳ پر اور محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکلوۃ جلد ۵ صفحہ ۱۳۹ اپر بیان فرمایا ہے۔

رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بچا زاد بھائی ہیں روایت کرتے ہیں بعثت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَحْشِيَ يَدْعُوْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کرے وحشی! ایمان لے آؤ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ توانہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا۔ ذرا دیکھئے پیغامات کے تباڈ لے ہو رہے ہیں۔ کیا پیغام بھیجا کہ آپ جانتے ہیں ائمَّةُ مَنْ قُتِلُواْ أَوْ أَشْرَكُواْ أَوْ زَنَى جو شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کے خدا نے یہ نازل کیا ہے یا لق آثاماً يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ وَهُوَ اللَّهُ كَيْفَ يَعْلَمُ مَجْرِيَ الْأَيَّامِ۔ اس کو سزا بھکتنا پڑے گی اور اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کیف تَدْعُونِي إِلَى دِينِكَ آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں وَ آنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَالِكَ كُلَّهُ میں نے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا۔ قتل بھی ایسی شخصیت کو کیا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی۔ میں اس کا قاتل ہوں اور گناہ کے سب کام کیے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کے اسلام کے لیے دوسری آیت نازل فرمائی۔ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایسے مبغوض، ایسے مجرم، رسول خدا کے چچا کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے حلم کا! دو آیت نازل ہو رہی ہے ان کے اسلام کے لیے:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً﴾

(سورہ الفرقان، آیہ: ۷۰)

اے رسول خدا! وحشی کو آپ پیغام دے دیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور صاحب عمل کرتے رہیں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا حلم والا جو اپنے محبوب عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشنے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا تو اس پر ان کا پیغام سنئے۔ کہتے ہیں ہذا شرط شدید یہ تو بڑی سخت شرط ہے کیونکہ میں تو بہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں لیکن و عمل عملاً صالحاً ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں اس میں ذرا مجھے اپنے بارے میں اعتنا نہیں ہے لعلیٰ لا اقدِرُ علیه میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں۔ اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے، بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرمائے ہیں اور یہ نازل نخرے دکھار ہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دل گردوہ والا جو اپنے مجرم کے ناخرے برداشت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیات لے کر جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔

اللہ اکبر کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا۔ تیسری آیت کیا نازل فرمائی:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

(سورۃ النساء، آیة: ۳۸)

اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی وحشی اگر ایمان لا میں اور شرک سے توبہ کر لیں تو عمل صالح کی بھی قید اٹھ رہی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔

اب ان کا جواب سنئے۔ پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے کہتے ہیں انیٰ فی شبہٖ میں ابھی شبہ میں ہوں کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت سے مقید کر دیا کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو بخشن دوں گا۔ مجھے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہو گی یا نہیں، وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں فلاً أَدْرِي يَعْفُرُ لِي أَمْ لَا؟ پس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشن گے یا نہیں۔

بتائیے پیغامات کے تبادلے سن رہے ہیں آپ لوگ۔ کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں ہے؟ یہ نہیں کا جذب ہے۔ حضرت وحشی کو بھی خربنیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جذب فرمائے ہیں۔
کوئی کھینچ لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو

اب چو تھی آیت نازل ہو رہی ہے:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

(سورہ الزمر، آیہ: ۵۳)

یہ آیت اتنی قسمی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿مَا أُحِبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ﴾

(مشکوہ المصابیح، کتاب الدعوات، باب التوبۃ والاستغفار، ص: ۲۰۶)

یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بعد میں مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ عزیز نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گنگار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لیں، ظلم کر لیے، بے شمار گناہ کر لیے لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ اب مشیت کی بھی قید نہیں ہے۔ اس قید کو بھی میں ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گنگار بندے مایوس نہ ہوں۔ اِنَّ تاکید ہے، الذُّنُوبَ پر الف لام استغراق کا ہے لیکنی کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ نہ بخش دے اور جَمِيعًا میں پھرتا کید ہے۔ تین تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ جملہ تعلیلی ہے، معرض علت میں ہے لیکن وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں بخش دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہے ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں؟ بعده رحمت کے۔ اپنی شانِ رحمت کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں میری مغفرت محدود نہیں ہے، تمہارے گناہ محدود ہیں میری رحمت محدود نہیں ہے، میری غیر محدود رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ایسے ہیں جیسے ایک چڑیا سمندر سے ایک قطرہ اٹھا لے۔ جو نسبت اس قطرہ کو سمندر سے ہے اتنی بھی تمہارے گناہوں کو میری غیر محدود رحمت و مغفرت سے نہیں۔

اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا۔ اب بتا دلہ پیغامات کا نقشہ بدل گیا حضرت حشی کا کام بن گیا۔ کہا نعم ہلدا یہ بہت اچھی آیت ہے فَجَاءَ وَ أَسْلَمَ پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلدا لہ خاصہ اُم لِلْمُسْلِمِینَ عامۃ کیا یہ آیت و حشی کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بُل لِلْمُسْلِمِینَ عامۃ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا فضل عام ہے۔

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کرنا پڑا اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کرا دیا۔ اس وقت بہت سے بڑے بڑے صحابہ جریل تھے لیکن یہ نعمت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی، یہ شرف اللہ تعالیٰ کو حضرت وحشی کو دینا تھا کہ میرا یہ بندہ قاتلِ حمزہ ہے اسی کے ہاتھوں سے اب ایک ذلیل ترین شخصیت کو قتل کرا دیا جائے تاکہ اس کی عزت قیامت تک امت کے اندر قائم ہو جائے، ہم اپنے اس رُسوَا اور ذلیل بندہ کی قسمت کو بدلتا چاہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ بدلتا چاہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ کو سنہرے حروف سے لکھوانا چاہتے ہیں لہذا مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ:

﴿ قَتَلْتُ فِي جَاهِلِيَّتِيْ خَيْرَ النَّاسِ وَ فِي إِسْلَامِيْ شَرَّ النَّاسِ ﴾

تفسیر روح المعانی، ج: ۲، ص: ۱۶۱

میں اپنے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں دنیا کے ایک بہترین انسان کو قتل کیا تھا اور اپنے زمانہ اسلام میں میں نے بدترین انسان کو قتل کیا جو نبوت کا دشمن تھا اور جھوٹا نبی بنا ہوا تھا جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اس کی بگڑی کو بنانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

حسن کا انتظام ہوتا ہے

عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

آہ! ذلت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عزت سے تبدیل کر دیا۔ اس لیے دعا کر لیا کیجئے کہ اے خدا ہماری رسوا یوں اور ذلتوں کے اندھیروں پر اپنے آفتابِ عزت کی کچھ شعاعیں ڈال دیجئے تاکہ ہماری ذلتیں عزتوں سے تبدیل ہو جائیں۔ (تجیاتِ جذب، حصہ دوم، ص ۲۲-۲۹)

اللہ تعالیٰ کے نام عزیز کے معنی

عزیز اللہ کا ایک نام ہے۔ عزیز کا ترجمہ مفسرین اور محدثین نے کیا ہے۔ **الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ** شےٰ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ **وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهِ** نکرہ تحتِ الْغَنِی ہے یعنی کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں اور استعمال قدرت میں حائل نہ ہو سکے، نہ کوئی روڑا اٹکا سکے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ہدایت کا اور ہمیں اپنا ولی بنانے کا ارادہ فرمائیں ان شاء اللہ کام بین گیا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں اور مراد میں کوئی تخلیف ناممکن اور محال ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کے ارادہ پر مراد کا ترتیب لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ فرمائیں اور ان کی مراد میں تخلیف واقع

ہو جائے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی اس صفت سے آگاہ فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر اب اچاہتا ہے کہ یہ خزانہ بچوں کو نہ دوں تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں ہے جو پچھا اللہ پاک نے اپنے خزانے بتائے ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے ہیں اور اگر سارے عالم کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنالے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کریم ہے۔ (تجلیات جذب، حصہ سوم، صفحہ: ۵-۳)

آیت نمبر ۸۰

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ﴾

(سورۃ الجاثیة، آیہ: ۲۳)

اللہ جب ملتا ہے جب لا الہ کی تکمیل ہو۔ جو غیر اللہ سے جان نہ چھڑاسکا وہ کیسے اللہ کو پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ اور ایمان کی بنیاد میں لا الہ کو مقدم کیا ہے کہ میں خالق ع مر عود ہوں لیکن تم غیر اللہ کی نجاست اور غلط اظہت کے ساتھ میری خوبی خوبی قرب چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے پہلے لا الہ کی تکمیل کرو۔ پھر وہ کے الہ سے تو تم کلمہ کی برکت سے بچ گئے لیکن جو چلتے پھرتے الہ ہیں یعنی حسین صورتیں ان سے تم نے کہاں اپنے دل کو بچایا؟ یہ بھی الہ باطل ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غرض بصر کا حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد نظری کو آنکھوں کا زنا فرمار ہے ہیں لہذا یہ حسین شکلیں بھی الہ باطل ہیں ان کو بھی دل سے نکالو تب لا الہ کی تکمیل ہوگی۔ تکمیل لا الہ کے بغیر لا الہ کی تجلیات سے تمہارا قلب محروم رہے گا۔

تفوی کا مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نا راض ہوتے ہیں ان باتوں کے تقاضوں کے باوجود ان پر عمل نہ کر کے بنده غم اٹھا لے اور زخم حسرت کھالے اسی کا نام تفوی ہے اور اسی سے اللہ ملتا ہے۔ ممتنع ہائے اولیائے صد یقین تک پہنچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ذکر اللہ سے، مجاہدہ سے اور نفس پر گناہ سے پہنچنے کا غم اٹھانے سے ہم کو اتنا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ عطا فرمادے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم اللہ کو نا راض نہ کریں اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو ترکر دیں اور اتنا روئیں کو وہ خطا سبب عطا ہو جائے۔ (فیوض ربانی، صفحہ: ۸۳-۸۵)

اہل اللہ کی قیمت

کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو۔ جو اس کے ساتھ ہے اس کو دیکھو وہ ہو مَعْنَكُمْ سے اس کی قیمت ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے کی قیمت زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، چاند و سورج ادا نہیں کر سکتے،

زمین و آسمان کے خزانے بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ (اطاف، رباني، صفحہ: ۱۵)

آیت نمبر ۸۱

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾

(سورة الاحقاف، آیة: ۱۳)

تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ربنا اللہ میں ربنا خبر ہے اور اللہ مندالیہ ہے لیکن ربنا کو اللہ تعالیٰ نے مقدم اس لیے کیا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائیں۔ التقدیم ماحقہ التاخیر یفید الحصر تاکہ تم قدم یہ کہو کہ ہمارا پالنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے۔ اگر ربنا مقدم نہ ہوتا تو معنی حصر کے نہ پیدا ہوتے یہ عربی کا قاعدہ کلی ہے۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں ہم اللہ کو خبر مان لیں اور ربنا کو مند اور مبتدا مان لیں تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں ہے اس لیے اللہ کا نام ہوتے ہوئے کسی غیر اللہ کو مندالیہ بنانا صحیح نہیں۔

آیت نمبر ۸۲

﴿وَ إِنْ تَنْتَوَلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

(سورة محمد، آیة: ۳۸)

اہل اللہ کی مخلوق سے عدم احتیاج پر ایک آیت سے استدلال
بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کبھی یہ نہ سوچو کہ میرے آنے سے شیخ کو عزت ملی یا شیخ کی خانقاہ چمک گئی یا میری وجہ سے اور مرید ہو گئے۔ کبھی یہ مت سوچو۔ اس کی دلیل دیکھئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے چندہ دینے والو! مولویوں کو اور مدرسوں کو اپنا محتاج مت سمجھو کو اگر ہم چندہ روک لیں گے تو یہ مرد سے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ إِنْ تَنْتَوَلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ اگر تم ہاتھ روکتے اور چندہ نہ دیتے یا اگر اے لوگو! تم فلاں شیخ سے بیعت نہ ہوتے تو یَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ تو اللہ تم کو فنا کرتا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرنا شام لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تم جیسے نالائق نہ ہوتے۔ لہذا شیخ کے لیے یہی سوچو کہ مجھے شیخ سے عزت ملی، میری وجہ سے شیخ کو عزت نہیں ملی۔ اگر ہم بیعت نہ ہوتے تو اللہ دوسرے لاائق لوگ پیدا کرتا جو اس شیخ سے استفادہ کرتے۔ میرے پاس سے بھی بعض لوگ بھاگ گئے لیکن پھر اللہ نے ان سے عظیم الشان اور وفادار شخصیتوں کو بھیج دیا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ ایک

جاتا ہے تو اللہ دس بھیجا ہے۔ جس کو اللہ زبان ترجمان در دل عطا فرمانے پر قادر ہے وہ اس کو کان دینے پر قادر نہیں ہے؟

عدم امتنان المرید علی الشیخ پر ایک آیت سے استناط

اے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ اے ایمان والو! مجھ پر اپنے ایمان

کا احسان مت جتلاؤ:

﴿يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قَلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىٰ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ﴾

لِإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾

(سورۃ الحجرات، آیہ: ۱)

تو مرید کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے جو گئے جس کی برکت سے آج ہم سے دین کا کام لیا جا رہا ہے، آج دین کا کام جو اس راہ سے ہو رہا ہے دنیا میں اور کوئی راستہ ایسا اقرب الی السنۃ نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ اپنی قوم میں مثل نبی ہوتا ہے الشیخ فی قوْمِہ کَالنَّبِیٌ فِی اُنْهِیٖ یہ کسی صوفی کا قول نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا قول ہے جس کو علامہ آلوی نے روح المعانی میں لکھا ہے۔ بتائیے صحابی کا ارشاد کوئی معمولی چیز ہے؟ لہذا یہی سمجھنا چاہیے کہ میری مریدی ممنون شیخ ہے، شیخ نے ہمیں قول کر لیا یہ شیخ کا احسان ہے۔ اسی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ (اطافِ رباني، صفحہ: ۳۲-۳۳)

آیت نمبر ۸۳

﴿فُوْلَ الذِّي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزِدَادُوا إِيمَانَهُمْ﴾

(سورۃ الفتح، آیہ: ۳)

آج ایک خاص مضمون کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس آیت کی تفسیر کر دوں اور اس نعمت کو آپ لوگوں سے بیان کر دوں جو نعمت ساری کائنات میں دستیاب نہیں ہے اس لیے کہ یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے زمین والوں کی دست رتی وہاں تک نہیں ہے کیونکہ زمین پر بسنے والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جو نعمت میں ابھی پیش کر رہا ہوں اہل دنیا پوری کائنات کے اندر ساری کائنات میں چکر مار لیں مگر وہ دستیاب نہیں ہے نہ مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آسمان سے اتارتے ہیں آسمان سے اُتارنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ ہم آسمان والے کو راضی نہ کر لیں۔ (زندگانی، صفحہ: ۵)

سکینہ کیا ہے اور کہاں نازل ہوتا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو اپنے عاشقوں کے دل میں سکینہ اُتارتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے

اور سکینہ کی علامت کیا ہے اس کی تفسیر صاحب روح المعانی کیا بیان کرتے ہیں جو ان شاء اللہ عرض کروں گا لیکن سکینہ کا نزول کہاں ہوتا ہے سکینہ کا جہاز کہاں اُترتا ہے؟ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے دل پر معلوم ہوا کہ سکینہ کا ایئر پورٹ قلب مومن ہے۔

نزول سکینہ کے مواںع

اسی لیے بدنظری حرام ہے کیونکہ اگر بدنظری کر لی تو دل سینہ سے غالب ہو گیا اور دبروں کے پاس پہنچ گیا۔ جب ایئر پورٹ ہی ختم ہو گیا تو سکینہ کا جہاز کہاں اُترے گا؟ ہر وقت بے سکون رہو گے۔ جب دشمن ایئر پورٹ تباہ کر دیتا ہے تو وہاں کوئی جہاز لینڈنگ نہیں کرتا تو جس نے اپنی نظر کو خراب کر کے دل کو گناہ دیا، دل چوری ہو گیا، آنکھوں سے دل کو گیٹ پاس مل جاتا ہے۔ اب سینہ میں دل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سکینہ کہاں نازل کریں گے۔ اسی لیے رومانٹک والوں کو چیز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ ایئر پورٹ ہی ضائع کر دیا جہاں سکینہ کا جہاز اُترتا ہے جس کا نام دل ہے۔ انہوں نے تو دل ہی تباہ کر دیا تو سکینہ کہاں اُترے گا؟

سکینہ کی تین تفسیریں

سکینہ کی تین تفسیریں علامہ آلوسی روح المعانی میں (پ ۱۱، ص ۲۵) پرماتے ہیں۔

پہلی تفسیر اور علامت

ہی نُورٌ يَسْتَقِرُ فِي الْقُلُبِ، ہی کی ضمیر سکینہ کی طرف جاری ہے کیونکہ سکینہ مونث ہے اور یَسْتَقِرُ کی ضمیر نور کی طرف جاری ہے مضارع واحد غالب استعمال ہو رہا ہے یعنی سکینہ ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں ٹھہر جاتا ہے۔

پوری زمین اللہ کے عاشقوں کے لیے کوئے دلبر ہے اور دنیاوی عاشقوں کی کوئے دلبر کوئی گلی ہوتی ہے سڑی ہوئی۔ اللہ والا ہی ہے جس کا نور مستقر ہے۔ سارے عالم میں وہ نور ساتھ ہوتا ہے۔

تو پہلی تفسیر ہے کہ وہ نور دل میں ٹھہر جاتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ صاحب نور کی حالت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی کا نام سکینہ ہے اور یہ نور کیسے ملتا ہے؟

نور سکینہ کے حصول اور حفاظت کا طریقہ

اللہ کے ذکر اور تقویٰ سے ملتا ہے بشرطیکہ اس نور کو ضائع نہ کیا جائے ورنہ ٹکنی پانی سے بھر دیکن ٹوٹی کھول دو تو سب پانی نکل جائے گا۔ اسی طرح ذکر سے قلب نور سے بھر گیا لیکن گناہ بھی کر لیا تو سارا

نورِ ضالع ہو گیا۔ لہذا ذکر کے ساتھ تقویٰ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔

نَزْوَلُ سَكِينَةِ کَيِّدِ دُوْسَرِیِ عَلَامَتٍ

وَيَشْبُثُ بِهِ التَّوْجِهُ إِلَى الْحَقِّ اس نور کی خاصیت یہ ہے کہ جس دل پر اللہ سکینہ اُتارتا ہے لمحہ حیات ہر سانس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے ایک سانس کو بھی اگر غافل ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔

بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں

وَيَشْبُثُ بِهِ التَّوْجِهُ إِلَى الْحَقِّ، بہ کی ضمیر نور کی طرف جا رہی ہے یعنی بِرَكَةٍ هَذَا النُّورِ اس نور کی برکت سے ہر وقت اس کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف قائم رہتی ہے اور ثبوت کے معنی کیا ہے ثبوث الشیء بعد تحریک متحرک چیز میں سکون پیدا ہو جائے اس کا نام ثبوت ہے۔

وَيَشْبُثُ بِهِ التَّوْجِهُ إِلَى الْحَقِّ حق تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہر وقت رہتی ہے۔ ایک لمحہ بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ جب نسبت قائم ہو گئی تواب خدا کو نہیں بھول سکتا۔ اب بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا۔ نسبت پر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص ولی اللہ، صاحب نسبت ہو چکا۔ فرماتے ہیں۔

نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام

ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے

سمجھ لو وہ شخص صاحب نسبت ہو گیا کہ جو بھاگنا بھی چاہے تو اللہ سے نہ بھاگ سکے ان کو بھلانا بھی چاہے تو بھلانا نہ سکے، اس پر قادر ہی نہ ہو کہ ایک سانس اللہ کے بغیر جی سکے۔

تیسرا علامت

يَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ یعنی ایسے شخص کو بے سکونی اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ دل ایک دم ٹھنڈا رہتا ہے جب کوئی پریشانی آئی دور کعات پڑھیں اللہ میاں سے رولیا اور مطمئن ہو گیا۔

(نزول سکینہ، صفحہ ۲۱-۲۲)

اب لیزد ادُوا ایماناً مَعَ ایمَانِہِمْ کی تفسیر کرتا ہوں۔ نَزْوَلُ سَكِینَةِ ازْدِیادِ ایمان یعنی نسبتِ خاصہ کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کے دل پر سکینہ اس لیے نازل کرتا ہوں لیزد ادُوا ایماناً مَعَ ایمَانِہِمْ تاکہ ان کے سابق ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے کیونکہ ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن معلوم ہوا کہ سکینہ کا نور دل میں آنے کے بعد ان کے موجودہ ایمان پر مستزاد ایمان ہو جاتا ہے اس کی تفسیر حکیم الامت مجبد والملکت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکینہ کا نور عطا ہونے

سے پہلے ان کا وہ سابق ایمان کیا تھا؟ اس کا نام تھا ایمان عقلی استدلالی موروثی یعنی ایمان عقل کی بنیاد پر تھا کہ عقل سے اللہ کو پہچانتا تھا اور استدلالی تھا کہ دلیلوں سے اللہ کو مانتا تھا دل لال سے اللہ کے وجود پر استدلال کرتا تھا اور موروثی تھا کہ اماں ابا مسلمان تھے الہذا ہم بھی مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھا کر مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب سکینہ کا نور عطا ہوتا ہے تو یہ ایمان عقلی استدلال موروثی، ایمان ذوقی حالی وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمان ذوقی کیا ہے؟ یعنی دل میں مزہ چکھنے کے ہیں اور ایمان حالی یہ ہے کہ ایمان دل ہے، اللہ کے قرب کی لذت کو دل چکھنے کے ہیں اور ایمان حالی یہ ہے کہ ایمان دل میں اُتر جاتا ہے۔ حال لام مشدد ہے معنی اُترنے کے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اب اس کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ایمان دل میں حال ہو جاتا ہے دل میں وہ اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے اور ایمان وجدانی نصیب ہوتا ہے وجدان معنی پاجانا یعنی دل میں اللہ کو پاجاتا ہے۔ پھر عالم غیب اس کے لیے برائے نام عالم غیب رہتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا عمده تعبیر دو شعروں میں فرمائی ہے فرماتے ہیں۔

غائب ہوا جاتا ہے جیبات کا عالم
مشہود لگا ہونے مغیبات کا عالم
محسوس لگا ہونے کہ دل عرشِ بریں ہے
اللہ رے یہ ان کی ملاقات کا عالم

اس ایمانی کیفیت کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں یہ فرمائی ہے:

﴿أَن يَعْلَبَ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ إِقْلِيلٍ حَتَّى كَانَهُ يَرَاهُ تَعَالَى شَانَهُ بِعِينِهِ﴾

(فتح الباری، ج: ۱، ص: ۱۲۰)

یعنی قلب پر مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ دل میں جب اللہ کو پاتا ہے، اللہ کے قرب کی لذت کو چکھتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے لگتا ہے تو غلبہ قرب حق سے یہ آسمان بھی اس کے لیے جا ب نہیں رہتے۔ اس پر اختر کا ایک شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے۔

گذرتا ہے بھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے
مجھے تو یہ جہاں بے آسمان معلوم ہوتا ہے

ایمان عقلی استدلالی موروثی وایمان ذوقی حالی وجدانی کی تمثیل

قلب میں اس ایمانی کیفیت کی مثال ابھی ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جس میں پانی نہیں ہے خشک

ہے، خاک اُڑا رہا ہے اس وقت دریا پانی پر کیسے ایمان لائے گا؟ عقل سے دوسرا دریاؤں سے سن کر کہ پانی ایسا ہوتا ہے لیکن جب اس کے اندر پانی آجائے گا اس وقت اس کا ایمان کیسا ہو گا؟ ذوقی، حالی، وجدانی پھر وہ دلیل نہیں مانگے گا کہ ہم کو پانی کی دلیل چاہیے۔ وہ تو کہے گا کہ میرے سینہ کے اندر تو خود پانی الباب بہہ رہا ہے، دور دور میری ٹھنڈک جا رہی ہے، میں اپنے اندر پانی کو محسوس کر رہا ہوں، پارہا ہوں، مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ جس دریا کے اندر پانی ہوتا ہے دور دور تک اس کی ٹھنڈک جاتی ہے۔ ایک میل پہلے ہی سے ہواں کی ٹھنڈک بتا دیتی ہے کہ آگے دریا قریب ہے۔ اسی طرح قلب میں پہلے ایمان عقلی و استدلالی ہوتا ہے، عقل سے، استدلال سے، دوسروں سے سن کر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن سیکنہ کا نور عطا ہونے کے بعد اب وہ ایمان، ایمان ذوقی، حالی، وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے، دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، اللہ کو دل میں پاتا ہے اس احسانی کیفیت کو صوفیاء حضرات نسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی سبقتی میں صاحبِ نسبت اللہ والا ہو جاتا ہے تو اس کی ٹھنڈک دور دور تک جاتی ہے، دور دور اس کا فیض جاتا ہے۔ ہزاروں بندے اس کے فیضِ صحبت سے اللہ والے بن جاتے ہیں آیت لیزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ میں صوفیاء کی اصطلاح نسبت خاصہ کا ثبوت ہے۔

ذکر اللہ سے نزولِ سیکنہ کی دلیل نقی اور ایک علم عظیم

اب یہ ایمان ذوقی، حالی وجدانی یعنی نسبت خاصہ مع اللہ کیسے حاصل ہواں کو بیان کرتا ہوں اور یہ ایک علم عظیم ہے جو حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اخت کو بنگلہ دیش میں عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَدْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ ہے کہ ذاکرین کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے اس طرح خاکی مخلوق کو نوری مخلوق کی مصاحبۃ نصیب ہوتی ہے اور اس صحبت کی برکت سے فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق اور ان کا ذوقِ عبادت ان خاکی بندوں کے قلوب میں منتقل ہونے کی توقع ہے۔

ذکر کا دوسرا انعام ہے غَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ اللَّهُ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آنکھ میں لے کر ذاکرین کو پیار کر لیتی ہے جس طرح غلبہ رحمت سے ماں بچہ کو سینہ سے چپکا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ڈھانپ لیتی ہے، جب اور زیادہ رحمت و شفقت جوش کرتی ہے تو اپنا سر اور گردان بچہ پر کھدیتی ہے، جب اور زیادہ پیار آتا ہے تو اپنے دوپٹے سے اس کو بالکل ڈھانپ کر بچہ کا پیار لیتی ہے اور اس وقت وہ غلبہ رحمت مادر کا مجسمہ ہوتی ہے۔

پس غَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ کے ترجمہ کی تعبیر عاشقانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ذکر کو پیار

کرتے ہوئے اپنے آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے۔

اور تیسرا انعام ہے نَزَّلْتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے یہ وہی سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اور جس کی تفسیر ابھی میں نے آپ سے بیان کی اور یہ کہ سکینہ کیوں نازل کیا۔ فرماتے ہیں لَيَزَدُ دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔

پس اس آیتِ شریفہ اور حدیث مبارکہ کو ملا کر جو ایک علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر پر نزولِ سکینہ منصوص بالحدیث ہے اور سکینہ پر ازادی ایمان منصوص بالقرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کے لیے سکینہ لازم ہے اور سکینہ کے لیے زیادتِ ایمان لازم ہے۔ پس ذکر اللہ ازادی ایمان، ترقی ایمان یعنی حصولِ نسبت خاصہ مع اللہ کا ذریعہ ہے۔ وَ اخْرُجُوهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(نزولِ سکینہ، صفحہ: ۳۰-۲۹)

آیت نمبر ۸۲

﴿يَإِنَّ اللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

(سورۃ الفتح، آیہ: ۱۰)

بیعت کی حقیقت

جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے اور جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ کبta ہے وہ دراصل اللہ والوں کے ہاتھ نہیں کبta، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اپنے ہاتھوں پر خرید کر اللہ کپھنچا دیتے ہیں۔

بیعت کی ایک حسی مثال

جیسے وزیر اعظم کو گندم بھیجنा ہے تو کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے وزیر اعظم خود نہیں آتا بلکہ ہر علاقے کے ڈپٹی کمشرکو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ کسانوں سے رابطہ قائم کر کے سرکاری پیسے سے ان کو ادا میگی کرو اور ان سے گندم خرید لو اور اسلام آباد بھیج دو۔ اسی طرح اللہ والے اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ بندوں کو خرید کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یعنی ولی اللہ بنے کا راستہ بتا دیتے ہیں جس پر چل کر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیئے نہیں خریدتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہیں بکنا دراصل وہ بکتا ہے اللہ کے ہاتھ، اللہ والوں کا ہاتھ نمائندہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے،

میرا ہاتھ ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ اللَّهُ كا ہاتھ ہے وہ۔ اے صحابہ سمجھ لو کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ کا ہاتھ نہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ اے صحابہ! تمہارے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ ہے مگر اس ہاتھ میں دراصل میرا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرا خلیفہ اور نمائندہ ہے۔ تو اسی طرح جوناں پ رسول ہیں جب وہ بیعت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ (حیات تقوی، صفحہ ۱۵۷)

شرح آیتِ بالاعنوان دگر

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ﴾

(سورة الفتح، آیہ: ۱۰)

بیعت کے متعلق ایک عجیب عاشقانہ مضمون

اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرو تو کسی پچے اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ کیونکہ دنیا میں اللہ سے مصافحہ کا کوئی راستہ نہیں لیکن جو بیعت ہوتا ہے وہ اپنے شخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور شخ کا ہاتھ اگلے شخ کے ہاتھ پر ہے یہاں تک کہ یہ ہاتھ واسطہ درواستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک تک پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ﴾

(سورة الفتح، آیہ: ۱۰)

نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے تو جس کو اللہ سے مصافحہ کرنا ہو زمین والے کو آسمان والے سے مصافحہ کرنا ہو تو وہ کسی راکٹ سے اللہ تک نہیں جا سکتا لیکن اگر کسی اللہ والے کا مرید ہو گیا تو اس کا ہاتھ درواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک تک پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ مت سمجھو یہ یَدُ اللَّهِ ہے۔ پچے اللہ والوں سے بیعت کا یہ راستہ اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ سے مصافحہ کا کوئی اور راستہ مجھے دلائل سے بتادو۔ میں تو دلیل پیش کر رہا ہوں۔ (الاطافِ رباني، صفحہ ۳۶-۴۲)

آیت نمبر ۸۵

﴿سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ﴾

(سورة الفتح، آیہ: ۲۹)

سِيمَا کی تفسیر

میرے شخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر علوم وارد ہوتے تھے۔ حضرت کو خاص طور سے آخر عمر

میں عبادت و تلاوت ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ کوئی کتاب دیکھیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ سیما کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے چہروں پر راتوں کی عبادتوں کا ایک خاص نور ہے، پھر فرمایا کہ اختر یہ نور کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ راتوں کی عبادت سے ان کا قلب انوار سے بھر کر چھلنے لگتا ہے تو چہرے پر چھلنے لگتا ہے۔ آہ! میرے شخ نے یہ تفسیر بلا دیکھے فرمائی کہ جب صحابہ کی خلوتوں کی عبادات سے ان کے دل میں نور بھر جاتا ہے تو جیسے پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے اسی طرح جب صحابہ کا دل کا نور سے بھر جاتا ہے تو چھلنے لگتا ہے اور پھر چہروں سے چھلنے لگتا ہے اور آنکھوں سے ٹکنے لگتا ہے۔

یہ بات میں نے اپنے شخ سے پھولپور میں سنی تھی مگر جب یہاں تفسیر روح المعانی دیکھی تو اس میں بھی بعضیہ وہی مضمون تھا جو میرے شخ نے بغیر روح المعانی دیکھے فرمایا تھا کہ سیما کیا ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

﴿هُوَ نُورٌ يَظْهِرُ عَلَىٰ وُجُوهِ الْعَابِدِينَ يَبْدُو مِنْ بَاطِنِهِمْ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمْ﴾

(تفسیر روح المعانی، تحت سورۃ الفتح)

سیما ایک نور ہے جو عبادت کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر یہ نور آتا کہاں سے ہے؟ وہ باطن کا نور ہوتا ہے جو ان کے جسم پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو وہ نور چھلنے لگتا ہے اور ان کے چہروں سے چھلنے لگتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چہرہ ترجمان قلب ہے، اگر قلب میں مویٰ ہے تو چہرہ ترجمانِ تخلیاتِ مویٰ ہے اور اگر قلب میں معشوق یا معشوقہ ہے، تو اس کا قلب ترجمان مقاعد الرجال یا ترجمانِ فروج النساء ہوتا ہے، کثا پھٹا منخوس چہرہ ہوتا ہے، کئی پھٹی بندرگاہ کی طرح کیونکہ بندروں جیسا کام کرتا ہے، ایسا شخص نہ تو قسمت کا سکندر ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کا قلندر ہوتا ہے بلکہ نفس کا بندر ہوتا ہے۔

(دین پر استقامت کاراز، ص: ۶)

قویٰ ترین نسبت حاصل کرنے کا طریقہ

ایک شخص رات بھر تھجد پڑھتا ہے لیکن تقویٰ سے نہیں رہتا اور ایک شخص تھجد تو نہیں پڑھتا لیکن تقویٰ سے رہتا ہے، ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا میں واللہ کہتا ہوں اور روزہ سے بھی ہوں اور بدلہ امین میں ہوں کہ اس کا نور اتنا تقویٰ ہو گا کہ اس کے درد دل سے عالم میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور ایک مخلوق اس سے سیراب ہو گی۔ میرے شخ فرماتے تھے کہ جب ایمان اور تقویٰ کے نور سے دل بھر جاتا ہے تو دل سے چھلک کر آنکھوں سے ٹکنے لگتا ہے، چہرہ سے چھلنے لگتا ہے اسی کا نام سیسیما هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سیما کی تفسیر یہ ہے:

﴿هُوَ نُورٌ يَظْهِرُ عَلَىٰ وُجُوهِ الْعَابِدِينَ يَبْدُو مِنْ بَاطِنِهِمْ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمْ﴾

(تفسیر روح المعانی، تحت سورۃ الفتح)

سیما ایک نور ہے جو میرے عاشقوں کے دل میں بھر جاتا ہے تو ان کے باطن سے ان کے ظاہر تک چھلک جاتا ہے۔ (بیوض ربانی، ص: ۱۲)

إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے، یغم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی غذا ہے۔ عبادت، حج اور عمرہ فاسق اور گنہگار بھی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت غذا فاسقوں کی بھی ہے اور دوستوں کی بھی ہے۔ تو یہ غذائے عبادت دوستوں اور نافرمانوں دونوں میں مشترک ہے اور جو چیز میں الفساق اور میں الاولیاء مشترک ہو وہ اولیاء کی امتیازی غذا کیسے ہو سکتی ہے۔ لہذا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی غذا ہے۔ یہ گنہگاروں کا حصہ نہیں۔ اگر گنہگار بھی یہ غذا کھانے لگے یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے لگے تو گنہگار اور فاسق نہ رہے گا ولی اللہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے:

﴿إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۳۲)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر سال حج و عمرہ کرنے والا ذکر و تسبیح پڑھنے والانواعل وتلاوت کرنے والا لیکن گناہ سے نہ بچنے والا میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے ولی صرف وہ ہیں جو مجھ کو ناراض نہیں کرتے، جو متqi ہیں۔

گناہ سے بچنے کا غم اور محبوبیت عند اللہ

اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ولایت کے لیے قول فرماتے ہیں اس کو لا الہ کی تمجید کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر وہ غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالتا اور نظر بچا کر زخمِ حرست کھاتا ہے اور غمِ تقویٰ اٹھاتا ہے، اس غمزدہ اور حرست بھرے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا کرتے ہیں۔ (بیوض ربانی، صفحہ: ۱۳)

اہلِ محبت کے محفوظ عن الارتداد ہونے کی دلیل

اہلِ محبت اہلِ استقامت ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی اہلِ محبت مرتد نہیں ہوا۔ جتنے مرتد ہوئے اور دین سے پھر گئے وہ اہلِ محبت نہیں تھے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو طالبِ استقامت ہو وہ اہلِ محبت کی صحبت میں رہے اور اس کی دلیل قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمائی۔ میں اپنے بزرگوں کے ملفوظات کو قرآن پاک و احادیث سے منتدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

(سورہ المائدۃ، آیہ: ۵۲)

جو لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ

محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ مرتدین کے مقابلہ میں اہل محبت کا تذکرہ نازل فرمانا دیل ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتے کیونکہ مقابلہ میں وہی چیز لائی جاتی ہے جو اس کا بالکل عکس اور تضاد ہو۔ پہلوان کے مقابلہ میں اس سے قوی پہلوان پیش کیا جاتا ہے لہذا مرتدین کے مقابلہ میں اہل محبت کو پیش کرنا دلیل ہے کہ یہا یسے قوی ہیں جو ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عشق و الابھی مرتد نہیں ہوگا۔ (فیوض ربانی، صفحہ: ۱۷-۱۸)

آیت نمبر ۸۶

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

(سورۃ الحجروات، آیہ: ۱۰)

اللہ تعالیٰ کی نشانی

ارشاد فرمایا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ کوئی افریقہ سے آیا ہے کوئی لندن سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے لیکن میں سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِّنَّتِكُمْ وَالْأُوَانِكُمْ﴾

(سورۃ البروم، آیہ: ۲۲)

کہ زبان و رنگ کا اختلاف یہ میری نشانیاں ہیں، اگر کوئی اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھے تو اس کی بہت بڑی نالائقتی ہے، وہ بڑا بے ہودہ آدمی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ زبان و رنگ کے اختلاف سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لوگ گناہ کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، اگر کوئی اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی زبان بولتا ہے تو اردو زبان والے ہنستے ہیں۔ اردو اچھی زبان تو ہے لیکن اس کو تمام زبانوں سے اچھا اور افضل سمجھنا جائز نہیں اور کسی زبان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ انگریزی زبان کو بھی حقیر نہ جانا چاہیے، اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو کیا بولے گا؟ انگریزی ہی تو بولے گا۔ پس جتنی زبانیں ہیں سب کو اچھا سمجھو۔ اگر تم لندن میں پیدا ہوتے تو انگریزی بولتے، پنجاب میں پیدا ہوتے تو پنجابی بولتے، سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھی بولتے لہذا جو زبان تمہاری ہوتی کیا اس کو حقیر سمجھتے؟ لہذا کسی زبان کو حقیر نہ سمجھو۔

جب ہم بگلہ دلیش گئے تو کبھی کسی بگلہ دلیش کو حقیر نہیں سمجھا، اسی وجہ سے سب بگلہ دلیش عاشق ہو گئے کیونکہ مجھ میں عصیت نہیں ہے، عصیت کا نہ ہونا یہ بات بہت کم پاؤ گے۔ میرے کتنے دوست پنجاب

کے ہیں لیکن ان کی پنجابی سے مجھے مزہ آتا ہے۔

اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہو کہ عصیت کا کوئی ذرہ دل میں تو نہیں ہے۔ اگر عصیت کا ایک ذرہ بھی دل میں ہو تو سوء خاتمہ کا اندر یشہ ہے۔ ایک غزوہ میں ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا۔ ایک صحابی نے اس کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ وہ صحابی اس کے پیچھے لگ گئے۔ آخر میں دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار سے اس نے خود کشی کر لی۔ صحابی نے آکر یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کیا ما جرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اسلام کے لینے ہیں عصیت کے لیے لڑ رہا تھا کہ میرے قبیلہ کا نام ہو گا۔ پس خوب سمجھ لو کہ عصیت جہنم میں لے جانے والی ہے، زبان اور رنگ کو حقیر سمجھنا جہنم میں جانے کا سامان کرنا ہے۔ اس مضمون کو پھیلاو، اس کا بہت فائدہ ہو گا، آج کل اس کی ہر جگہ اشاعت کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اس مضمون کو آگے پھیلائے۔ کسی زبان کو حقیر نہ سمجھو، زبان اور رنگ کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کر رہا ہے۔

جتنے آدمی یہاں موجود ہیں سب اس مضمون کو پھیلائیں وَ اخْتِلَافُ الْسِنَّتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ الخ آدمی اپنے باپ کی نشانی کی عزت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر باپ کو یاد کر کے روتا ہے کہ یہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ وہ بندہ کتنا لاائق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھگڑے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہے لندن کے ہوں، چاہے یوگینڈا کے ہوں۔ کالے گورے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، خود نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ رنگ و زبان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جو قرآن یاک کی کسی آیت پر ایمان نہ لائے وہ قرآن یاک کا انکا کرنے والا ہے۔

میں نے ملاوی میں کہا تھا کہ برطانیہ کے کئے تبلی اور دوسرا ملکوں کے کئے تبلی سب کی ایک ہی زبان ہے۔ برطانیہ کا کتنا بھی بھوں کرتا ہے اور افریقہ کا کتنا بھی بھوں کرتا ہے، برطانیہ کی تبلی بھی میاڑ بولتی ہے اور افریقہ کی تبلی بھی میاڑ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبانوں میں اختلاف نہیں رکھا کیونکہ جانوروں کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا اور انسان کو مختلف زبانیں اور مختلف رنگ دیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رنگ اور زبانوں کے اختلاف کو اپنی نشانی قرار دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے محبت کرو۔ محبوب کی نشانی سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کو نفرت، نزاع اور جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا۔

آیت نمبر ۸۷

﴿أَيُّحُبُّ أَحَدًا كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَانًا﴾

(سورة الحجورات، آیہ: ۱۲)

ترجمہ: کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔

زبان چل رہی ہے کہ فلاں صاحب میں یہ خرابی ہے، فلاں بے وقوف ہے اسی کا نام غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھارہا ہے ایک حب احمد کُمْ انْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَانَا کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ وہ تو بے چارہ وہاں موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے، مثل مردہ کے ہے۔

آیت نمبر ۸۸

﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْرَبُكُمْ﴾

(سورة الحجورات، آیہ: ۱۳)

خاندان و قبائل کا مقصد تعارف ہے نہ کہ تقاضل و تقاضر

حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا یعنی بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہا السلام سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا لیکن یہ تقسیم تقاضر کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد ہے لِتَعَارَفُوا تاکہ تم کو ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے۔ لیکن ہم لوگوں نے بجائے تعارف کے تقاضل اور تقاضر شروع کر دیا۔ جو پڑیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مقابلہ میں سب ھٹلیں ہیں یعنی گھٹیا ہیں، کوئی لمبات ہے کوئی گنگات ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر، اپنے القاب پر فخر کرنا نادانی ہے جو مقصد تعارف کے خلاف ہے۔ اس وقت مجھے بس یہ تھوڑی سی نصیحت کرنی ہے کہ لِتَعَارَفُوا کا خیال رکھئے۔ تقاضوں تقاضل جائز نہیں کیونکہ تفریق شعوب و قبائل سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے کہ فلاں خاندان سے ہے، وہ فلاں قبیلہ سے ہے۔ خاندان و قبائل سب پر عز و شرف نہیں ہے، پھر عزت و شرف کسی چیز میں ہے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں انْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْرَبُكُمْ اور اللہ تعالیٰ کے زدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ متقیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے زدیک اتنا ہی زیادہ معزز ہے۔

تقویٰ کی تعریف

تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا اور جن باتوں

سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا۔ اتنالی اوامر اور اجتناب عن النواہی کا نام تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور سر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری خوشی ہے اور ایک اللہ اور رسول کی خوشی ہے جو اپنی ناجائز خوشی کو خوشی چھوڑ دے یعنی وہ اپنی خوشی کو اللہ اور رسول کی خوشی پر قربان کر دے تو سمجھ لو کہ متقی ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا۔ (ارشادات درود)۔

آیت نمبر ۸۹

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

(سورۃ ق، آیۃ: ۱۶)

ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ۔

پس جب میرا نفس اور میری روح آپ کے مقابلہ میں مجھ سے دور ہیں اور آپ میرے نفس و روح سے بھی نزدیک تر ہیں لہذا آپ ہی بخشش و عطا کے اہل ہیں اس لیے میں آپ ہی سے فریاد رسی و دادخواہی کروں گا فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَيْوَنَکہ آپ ہی اس قبل ہیں جس سے مدد طلب کی جائے اور ہماری مدد کو پہنچانا آپ پر احساناً و تقضیاً واجب ہے اور ہم میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی حفاظت سے اور نیکیوں کی قوت نہیں ہے مگر آپ کی مدد سے۔ (نفان روی، صفحہ: ۱۹-۲۰)

اے اللہ! آپ میرے نفس سے، میری روح سے، میری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اے اللہ! جب آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو قرب کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم کتنے نالائق ہیں کہ پھر بھی آپ پر جان فدا نہیں کرتے اور گناہوں کے تقاضوں کو برداشت نہیں کرتے اور آپ کو ناخوش کر کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں جبکہ ہم سے زیادہ آپ ہمارے نزدیک ہیں، آپ کے مقابلہ میں ہماری جان اور ہمارا نفس بھی ہم سے دور ہے۔ اس لیے ہم نے سارے جہان سے رُخ پھیر کر آپ پر اپنی نظر جمالی ہے اور ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں کیونکہ أَلَا فَرَبُّ فَالْأَفْرَبُ کے تحت آپ کا حق سب سے زیادہ ہے اس لیے اگر ہم اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کر کے جان آپ پر فدا کر دیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ جان اپنے قربی مولیٰ پر فدا کی لیکن حق پھر بھی ادا نہ ہو گا کیونکہ

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

باقنیں نزدیکی دوریم دور
در چنیں تاریکیے بغیرست نور

مولانا فرماتے ہیں اے اللہ آپ ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ لیکن اس نزدیکی کے باوجودہم آپ سے بے انہدا دور ہیں۔ دوریم دور مبالغہ ہے، تکرار لفظ بلا غت کے لیے آتا ہے۔ تو باوجود اس قرب کے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں پھر ہم آپ سے اتنی دور کیوں ہیں؟ اس دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نفس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے جیسے زمین کا گولہ چاند کو آفتاب کے نور سے محروم رکھتا ہے۔ جب کہ راًرض سورج اور چاند کے درمیان میں پورا حائل ہو جاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب حرکت کرتے کرتے یہ زمین کا گولہ تھوڑا اہم تر ہے اور سورج کی تھوڑی سی شعایر میں پڑتی ہیں تو چاند تھوڑا سار وشن ہو جاتا ہے اور وہ چاند کی پہلی تاریخ بنتی ہے اس کے بعد زمین اور ہٹی تو دوسری تاریخ آگئی یہاں تک ایک دن ایسا آتا ہے کہ زمین کا پورا گولہ چاند اور سورج کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ اس دن پورا چاند روشن ہو جاتا ہے۔ نفس کو مٹاتے مٹاتے جس دن خدا تعالیٰ یہ مقام توفیق عطا فرمادیں کہ شہوت اور غصب کی کوئی حالت نفس کے تابع نہ رہے اور وہ کسی حالت میں استقامت سے الگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہر وقت جان فدا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ اوکہ اس شخص کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کے قلب کا پورا دائرہ نسبت مع اللہ کے چاند سے روشن ہو گیا۔ پھر اس شخص کے الفاظ میں بھی فناۓ نفس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کا نفس جس قدر زندہ ہے اسی قدر تاریکیاں اس کے کلام میں پائی جائیں گی جا چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ بیان کر رہا ہوا اور جس کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کا پورا دائرہ قلب نسبت مع اللہ سے روشن ہو گیا تو اس کا نور اس کے کلام میں بھی شامل ہو گا چاہے وہ دنیا ہی کی بتیں کر رہا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بد دین قرآن و حدیث ہی بیان کرتا ہے تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے کیونکہ اس کے دل میں گمراہی ہے اور اگر کوئی اللہ والا انگریزی اور سائنس وغیرہ کی دنیوی تعلیم دیتا ہے تو اس کے شاگردوں میں دین آئے گا کیونکہ اس کا دل اللہ والا ہے۔

مولانا ناروی فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں جو اللہ سے دور ہیں اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور اس دور میں اللہ سے دوری کا سب سے بڑا سبب حسین شکلیں ہیں اور شیطان ان کو اور مزین کر دیتا ہے:

﴿أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا﴾

(سورہ فاطر، آیہ: ۸)

کیا حال ہے اس شخص کا کہ بُرے عمل جس کے لیے مزین کر دیئے گئے اور ان کو وہ حسین دیکھتا ہے۔ اس کا

علاج یہ ہے کہ ان کا انجام دیکھو کہ ان حسینوں کا حسن جسمِ اعلیٰ میں ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں اور چہرے میں لیکن جو حسنِ اعلیٰ انسان کو مقامِ اسفل کی طرف لے جائے یہی دلیل ہے کہ یہ چیز خراب ہے اور جونا پاک کر دے یہ دلیل ہے کہ مجبت ناپاک ہے مثلاً ایک حسین کو ایک آدمی دیرتک دیکھتا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مذی آگئی اور شیطان کہہ رہا تھا کہ ارے بھی خالی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو حسن کے جلووں میں تخلیاتِ الہیہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تخلیاتِ الہیہ دیکھ رہے تھے تو یہ مذی کیوں نہیں، آپ بے وضو کیوں ہو گئے، وضو شکن چیز تو ناپاک ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ ناپاک مجبت ہے اور ناپاک نظر ہے۔ آپ کسی اللہ والے کو دس گھنٹہ دیکھیں مذی نہیں آئے گی، قرآن شریف کو تمام عمر دیکھو، کعبہ شریف دیکھو لیکن یہ شیطان بہکاتا ہے کہ ارے خالی دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ بلڈ پر یشیر میں ذرا نمک کھائیے کہ واہ میرے اللہ آپ نے کیا نمک پیدا کیا ہے! پھر دیکھنے پر یشیر ہائی ہو گایا نہیں اور ڈاکٹر دو طماخے لگائے گا۔ ہر حسن انسان کو اسفل کی طرف لے جاتا ہے۔ عشقِ مجازی اور سے شروع ہوتا ہے یعنی آنکھوں سے اور گالوں سے اور کالے بالوں سے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ناف کے نیچے گندے مقامات پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بہت ہی دھوکہ باز تاجر ہے کہ نمونہ اور سیپل (Sample) دیکھاتا ہے آنکھ اور گال کا اور مال دیتا ہے کتنے گندے مقام کا۔ دیکھو شیطان حسن دکھا کرس مقام پر انسان کو دلیل کرتا ہے، اتنا دلیل کرتا ہے کہ عاشق و معشوق دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ رحم آتا ہے ایسے ظالم پر جو اپنی اور دوسرے مومن کی آبرو کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حلم ہے ورنہ ایسے خبیثوں کو بھوسہ بھرو اکر فن کر دیتا۔ اور نفس بھی ایسا حمق اور بدھوا ریوقوف اور کمینہ ہے کہ بارہا تجربہ کر چکا کہ حسینوں سے کچھ نہیں ملتا سوائے بے چینی و اضطراب اور پریشانی کے جیسے مچھلی چارے کی لالچ سے دریا سے نکل جاتی ہے لیکن ریت میں جا کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دریائے قرب سے مت نکلو چاہے شیطان لکتی ہی گناہ کی لذت پیش کرے کیونکہ اس کا انجام اضطراب اور بے چینی ہے لہذا اگر راحت چاہتے ہو تو دونوں جہان کی راحتیں تقویٰ میں، اللہ کی رضا میں اور ان کی یاد میں ہیں کیونکہ اللہ خالق دو جہاں ہے، وہ دونوں جہان کی لذتوں کا خالق ہے تو جو اللہ پر عاشق ہوتا ہے، مجبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو دونوں جہان کی لذتیں بصورت کپسول اس کی روح میں اُتر جاتی ہیں۔ حوروں میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے نام میں ہے کیونکہ حور حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم واجب الوجود ہے اور قدیم غیر محدود ہوتا ہے تو غیر محدود اللہ کے نام کی لذت کے مقابلہ میں مخلوق اور حادث کی کیا حقیقت ہے وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ نَكِرَهَ تَحْتَ الْفَيْ واقع ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں۔ پس جو اللہ کا نام لیتا ہے

دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے۔
وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے
مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

یہ انتہائی بے وقوفی اور نادانی ہے جو غیر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ اس لیے اے اللہ! باوجود آپ کے نزدیک ہونے کے ہم آپ سے جو دور ہیں اس کی وجہ نفس کی سازشیں اور آویزشیں اور شہوات اور غصے کی بیماریاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اس نزدیکی کے باوجود جو ہم اللہ سے دور ہیں اس کا سبب وہی ہے جو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اگر قلب میں نسبت مع اللہ کا چاند پورا روشن نہیں ہوا اور قلب کا تھوڑا سا کنارہ بھی بے نور ہے تو لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ پر تھوڑی سی بھی جرأت مت کرو۔ جس طرح:

﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

میں تنوں تقلیل کے لیے ہے کہ اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا اکبر مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہے، اکبر مِنْ كُلِّ العالم ہے، سارے جہانوں سے ان کی رضا مندی بڑی ہے، اسی طرح ان کی تھوڑی سی ناراضگی بھی عظیم الشان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ باوجود اتنی نزدیکی کے کہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر بھی ہم اپنے نفس کی غلامی اور نفس کی شہوتوں کی ایتام سے آپ سے دور ہیں۔

در چنیں تاریکیے بفرست نور

اپنے نفس کی غلامی اور نفس کے غلبہ سے ہم تاریکی میں ہیں۔ اے اللہ آپ کے آفتاب نور اور ہمارے قلب کے درمیان ہمارے نفس کا گولہ آگیا جس سے ہمارا قلب آپ کے نور سے محروم ہو کر بالکل تاریک ہو گیا۔ جس پر نفس غالب آ جاتا ہے وہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے قلب کی دنیا میں اس وقت ایک ذرہ نور نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے دوستوں اور رفیقوں کے لیے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایک سانس بھی اپنی ناراضگی اور نافرمانی میں نہ جینے دے کیونکہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بُری گھٹری وہ ہے کہ جس گھٹری وہ گناہ کا مرتبک ہوتا ہے، مومن کی وہ سانس نہایت ہی منحوس اور لعنتی ہے جس سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب خریدتا ہے اور وہ سانس نہایت مبارک ہے جس سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔

پس اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی نالائقیوں سے اور اپنی بداعمالیوں سے انتہائی شدید تاریکی میں ہیں اور آپ سے دور ہیں لہذا آپ ہمارے دل کی تاریک دنیا میں اپنی رحمت سے نور بھیج دیجئے،

گناہوں کے اندر ھیروں میں تقویٰ کا نور بھیج دیجئے۔ (فناں روی، صفحہ: ۹۲-۱۰۲)

آیت نمبر ۹۰

﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمِينَ﴾

(سورۃ الذاریات، آیة: ۳۲)

ہم ایک مجرم قوم (یعنی قوم لوط) کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

جب عذاب کے فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے فرشتو! تم کو بڑی ہم کیا دار پیش ہے تو فرشتوں نے جواب دیاً: انہیں اُرسِلنا ایٰ قوٰمٌ مُّجْرِمِینَ ہم ایک مجرم قوم (یعنی قوم لوط) کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان پر سنگ باری کر کے ان کو تھس نہیں کرنے پر متعین ہوئے ہیں جو مجرم جس پتھر سے ہلاک ہونے والا ہے اس پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ ان پتھروں پر خدا کی طرف سے ایک خاص مہر لگی تھی جس سے وہ دنیا کے پتھروں سے الگ پچانے جاتے تھے۔ اور جس کنکری پر جس مجرم کا نام لکھا تھا وہ کنکری اس مجرم کا تعاقب کرتی تھی پس پہلے بستی کو اُلط دیا گیا پھر پتھراو کیا گیا۔ حضرت مرشدی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چونکہ یہ عمل اُلٹا کرتے تھے (یعنی غیر فطری عمل) پس اسی مناسبت سے ان کی بستی اُلٹ دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر یہ مانے کے بجائے اپنے نبی کو ایذا دینے لگے بالآخر یہ لاکھ آدمی ایک دم ہی ہلاک کر دیے گئے۔ اس فعل کے مرتكبین کو مجرم میں فرمایا گیا ہے۔

الغرض رب شدید العقاب نے ان کی سخت ناشائستہ حرکت کی پاداش جو نیک انسانیت تھی ان پر پتھر بر سائے جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور قوم لوط کی بستی تہہ و بالا کر دی گئی اور وتر کتا فیہا آیہ اور ہم نے اس واقعہ میں ہمیشہ کے واسطے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی چنانچہ اس سرزی میں میں دفعۃ ایک سمجھیرہ نمودار ہو گیا جو اسی ہولناک حادث کی یادگار اور سمجھیرہ لوط کے نام سے اب تک مشہور ہے اس سمجھیرہ کا پانی اس قدر تلخ اور بد بودار ہے کہ کوئی ذی روح اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور اس کے کنارے کوئی درخت نہیں اگتا۔

(روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، ص ۱۱)

آیت نمبر ۹۱

﴿فَقَرُوْا إِلَيْهِ اللَّهِ﴾

(سورۃ الذاریات، آیة: ۵۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مفکر اعظم صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرلوں فرمایا کہو۔ اس نے کہا کہ اگر کسی کمان سے مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے اس کے

جواب کا انتظار فرمایا۔ وحی الہی سے جواب عطا ہوا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ تیر چلانے والے کے پاس بھاگ کر کھڑا ہو جائے۔ آہ! یہی راز ہے ارشاد باری تعالیٰ فَقُرُوْا إِلَى اللّٰهِ كا اے لوگو! بھاگو اللہ کی طرف۔ اسی مضمون کو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدوب نے اپنے شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے

اُسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے

پس عاقل وہ ہے جو حق تعالیٰ کی رضا جوئی میں جیتا ہے۔ اور اسی میں مرتا ہے اور بیوقوف وہ ہے جو خود سر اپا محتاج و مکوم غلام ہونے کے باوجود اپنے با اختیار مولیٰ کو ناراض کیے ہو۔ اسی لیے یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ حقائیے زمانہ کون ہیں؟ فرقائے زمانہ اور عقلائے زمانہ کون ہیں؟ اتقیائے زمانہ۔ ہمیشہ بھلی راہ پر اہل عقل

چلتے ہیں اور نادان بُرگی راہ پر۔ (معارف مشنوی، حصہ دوسرہ، صفحہ: ۵۹۲-۵۹۳)

آیت نمبر ۹۲

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِيتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾
سورة الطور، آیت (۲۱)

مومنین کا ملین کا ایک خاص اعزاز

حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ والا بن کر دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد صرف فرض، واجب، سنت موکدہ ادا کرے، زیادہ تہجد اور نوافل اپنی نالائقی، غفلت اور سستی سے نہ کر سکے لیکن پھر بھی وہ ان ہی کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی۔ یہ اس اللہ والا کا دل خوش کرنے کے لیے ہوگا۔

حکیم الامت نے بیان القرآن میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی میں یہ تفسیر کی ہے کہ یہ ذریت کیا ہے؟ یہ ان کی اولاد ہے۔ کون سی اولاد؟ جو بڑی ہو چکی اور چھوٹی اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے اللہ والا آباء سے ملا دی جائے گی وَ مَا أَنْتُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کوران کے عمل میں بھی کچھ کی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ان کا عمل تہجد و نوافل وغیرہ کاٹ کر ان سستوں اور کاہلوں کو دے دیا جائے، نہیں! کچھ کی نہیں کی جائے گی محض ان کے اعزاز و اکرام کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے۔ لِتَسْلِيَّهُمْ وَلِسُرُورِهِمْ تاکہ ان کو تسلی ہو اور ان کا دل خوش ہو جائے۔

الحاق مع اکملین کے متعلق ایک مسئلہ سلوک

یہاں ایک بڑی خوشی اور بشارت کی بات سناتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا

کہ اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث ہیں ان میں ایک حدیث میں ذریات کے بعد اولاد کو عطف کیا گیا ہے تو حضرت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے علاوہ بھی کوئی ذریات ہے لیتی ذریت سے مراد مطلق توانج ہیں الہذا اس میں ان شاء اللہ شاگرد، مریدین اور احباب بھی شامل ہو جائیں گے۔ تلامذہ اور مریدین یہ دونوں محبت اور اطاعت کا تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے بھی داخلہ کی گنجائش ہے۔ تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی حضرت نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس میں تلامذہ اور مریدین بھی شامل ہیں یہ بھی ذریات ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ (خون تنہا کا انعام، صفحہ: ۱۰-۱۱)

آیت نمبر ۹۳

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ﴾

(سورۃ القمر، آیة: ۱۰)

اللہ تعالیٰ نے آج ایک عظیم عطا فرمایا کہ جیسے ایک باپ کے کئی بچے ہیں۔ ان میں کچھ قوی ہیں کچھ کمزور ہیں۔ قوی نے کسی کمزور بھائی کے طما نچہ مار کر اس سے کوئی چیز چھین لی تو کمزور چلاتا ہے کہ ابا ابا دیکھو یہ بھائی مجھے مار رہا ہے۔ یہ کیوں چلاتا ہے؟ باپ کی شفقت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ باپ کی شفقت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ بچے اس کو پکاریں۔ مغلوب بچے غالب بچوں کے مقابلہ میں باپ کو پکاریں۔ میرے قلب کو اللہ نے آج یہ علم عطا فرمایا کہ ماں باپ کی شفقت پر ناز کرنے والوں جس طرح کمزور بچے اپنے ابا کو پکارتا ہے تم پر بھی کوئی ظلم کرے تو تم بھی اسی طرح مجھ کو پکارو کہ **فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرَ** اے ہمارے پالے والے ہم کمزور پڑ گئے، مغلوب ہو گئے، یہ طاقت والے ہم پر غالب آگئے، ہم کو ستار ہے ہیں آپ انتقام لیجئے، ہماری فریاد رسی کیجئے، آپ بدلتے لیجئے، ہم بدلتے لینے کے قابل نہیں ہیں پھر جب اللہ بدلتے لیتا ہے تو کیسا لیتا ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے ہمیشہ صبر کیا ہے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا اور مخلوق سے اللہ والوں نے انتقام نہیں لیا کیونکہ انتقام میں کبھی زیادتی ہو جاتی ہے مان لیجئے کہ کسی نے پچاس سینٹی گرینڈ سے ایک طما نچہ مارا، کیا انتقام لینے والے کے پاس کوئی ایسا معیار ہے کہ وہ بھی پچاس سینٹی گرینڈ سے ہی اس کے طما نچہ مارے۔ امکان ہے کہ زیادتی ہو جائے الہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ راہ بتائی کہ:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

(سورۃ الحلق، آیة: ۱۲۲)

اگر تم بدلتے لینا چاہتے ہو جتنا تم کو ستایا گیا ہے اتنا ہی تم بدلتے لے سکتے ہو لیکن **بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ** میں

مشکلات ہیں، یہ راستہ مشکل ہے کہ بالکل اسی درجہ میں آپ بدلہ لیں، کچھ اعشار یہ بھی اگر زیادتی ہوئی تو ظالم ہو جاؤ گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلِئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اگر تم صبر اختیار کرو تو یہ خیر کا راستہ ہے۔ (ارشادات در دل)

آیت نمبر ۹۲

﴿وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

(سورہ الحدید، آیہ: ۳)

اصلی امیر کون ہے؟

جو اللہ کے طالب ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں میں میں واللہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے اور جس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی مسکین اور یقین نہیں ہے۔ جن چیزوں پر ان کو ناز ہے مرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ قبر میں ان کے جنازہ کے ساتھ کون جاتا ہے لیکن اللہ والے اپنے اللہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ان شاء اللہ زمین کے نیچے بھی ان سے فراموش نہیں کیا اب جب تم اکیلے آئے ہو، یوں بچوں نے کاروبار و تجارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اب میں تمہیں کیسے تھار کھوں وَ هُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ زمین کے اوپر بھی اللہ ساتھ اور زمین کے نیچے بھی بزرخ اور میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اہل اللہ کے استغناء کا سبب ان کی لذت باطنی ہے

کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزہ کو۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مزہ اللہ والوں کے قلب میں ہے پوری دنیا کا اجتماعی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کا مجموعہ لذات ایک ترازو میں رکھ لو اور خدا کے عاشقوں کے ایک اللہ کا مزہ دوسرا میں رکھ لو تو اس مزہ کو سلاطین کائنات سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا مزہ ہے۔ اختر اللہ والوں کا ایک ادنیٰ غلام ہے، یہ قنہ کا زمانہ ہے۔ مخلوق سے کچھ نہ کہو، اللہ سے دعا کیں مانگو، یہ اللہ کا دین ہے، غیب سے ان شاء اللہ مدداً ہے۔ (فیوض ربیانی، صفحہ: ۵۰)

آیت بالا کی تشریح بعنوانِ دُگر

مرنے والوں کو چاہیے کہ نہ مرنے والے پر مریں اور نہ مرنے والا صرف اللہ ہے، جو زندہ حقیقتی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اگر مرنے والا مرنے والے پر مراتو مردہ ثبت مردہ، میزان میں ڈبل مردہ ہو جائے گا اور جیتے جی مر جائے گا کیونکہ ان مرنے والوں سے جدائی لازمی ہے، وصلِ دوام

ناممکن ہے، اس لیے ان سے دل لگانے کا انجام جنون اور پاگل پن ہے کیونکہ وہ فانی محبوب اگر نہ ملا تو اس کے فراق میں پاگل ہو گیا یا اگر مر گیا تو موت کے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ جنون جو پاگل ہوا یلیٰ کی جدائی سے پاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لیے پاگل نہیں ہوتے کہ مولیٰ سے کبھی جدائی نہیں ہے اور یہ طاقت خدائی مخلوق کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی جدائی نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کے عاشقین غم فراق میں بنتا نہیں ہوتے۔ اپنے گناہوں سے ہم خود اللہ سے دور ہو کر غم فراق میں بنتا ہو جاتے ہیں، نافرمانی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے لیکن استغفار و توبہ سے پھر وہ اپنے مولیٰ کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے دریا شنک ہو جائے اور پھر پانی آ جائے۔ (فناں روی)

ایک ہمارا اللہ ہے کہ اگر رات کی تھائی میں ایک قطرہ آنسوان کی یاد میں گر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت کے قابل صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ محبوب ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی مثل اور برابری کرنے والا نہ ہو اور جو ہر وقت ہمارے پاس ہو۔ دنیا کا کوئی محبوب ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر وقت ہمارے پاس رہے کیونکہ کبھی اس کو نیندا آئے گی یا آپ کو نیندا آئے گی تو وہ آپ سے بے خبر ہو گیا اور آپ اس سے بے خبر ہو گئے اور اس طرح سے فراق ہو گیا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

(سورة الحديد، آیہ: ۳)

تم جہاں کہیں بھی ہوا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نیند میں اس سے بے خبر ہو سکتے ہو لیکن اللہ تم سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہارے پاس ہوتا ہے اور وہ ایسا محبوب ہے جس کے حسن و جمال میں بھی زوال نہ ہوا اور دنیا کے حسینوں کے جغرافیہ بدلتا جاتے ہیں۔ کلّ یوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى كَيْ هُرَوْقَتْ اِيْكَ نَيْ شَانْ ہے اور محبت کے قابل وہی ہو سکتا ہے جو اپنے عاشق کو سنبھال سکے اور محبوبان مجازی تو خود اپنے کو نہیں سنبھال سکتے، اپنے کالے بالوں کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتے۔ وہ اپنے عاشق کو کیا سنبھالیں گے۔ اس لیے عقلاً و نقلًا محبت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

(درس مشنوی مولانا روم، صفحہ: ۳۸)

دنیا میں کوئی ابا ایسا نہیں ہے جو ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ رہے، اسکوں بھی اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ کھلی کود میں بھی شامل رہے یا اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیج تو خود بھی اس کے ساتھ جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہیں زمین کے اوپر بھی ساتھ ہیں، زمین کے نیچے قبر میں بھی ساتھ ہیں، بربخ میں بھی، مدیران حشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ

ہوں گے۔ لہذا سوائے خدا کے کوئی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں، ان کی رحمت کے سامنے اب کی رحمت کیا چیز ہے، ہمارا ایک ہی ربا ہے اور لا مِثُلَ لَهُ ہے باقی سب مرنے والے ہیں لہذا مرنے والے کو چاہیے کہ اس حی و قیوم پر فدا ہوتا کہ وہ زندہ حقیقی ہم مرنے والوں کو، حادث و فانی کو سنبھالے رہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جتنے مراحل ہیں اللہ کا ساتھ ہی ہمارا بیڑہ پار کرے گا۔ وہ زندگی میں بیڑا پار کرنے والا ہے، خاتمه کے وقت ایمان پر موت دینے والا ہی ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا ہی ہے، عالم برخ میں بھی ساتھ دینے والا ہی ہے، میدانِ محشر میں بخشے والا بھی ہی ہے اور جنت میں اپنا دیدار کرانے والا بھی ہی ہے کہ اس کے دیدار کے وقت جنتی جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہمارے مالک نے کہاں ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، کوئی مرحلہ اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لہذا محبت کے قابل صرف ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر ایسے مولیٰ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہاے اللہ ہمارے سینے تو اس قابل نہیں ہیں لیکن ہماری نظر اپنے سینوں پر نہیں ہے آپ کے کرم، آپ کی رحمت اور آپ کی عطا پر ہے، بدون استحقاق، بدون صلاحیت محض اپنے کرم سے ہمیں صفت اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیجئے تاکہ زندگی میں بھی ہمیں آپ کی معیت خاصہ حاصل ہو اور گناہ کر کے ہم کبھی آپ سے دور نہ ہوں اور مرنے کے بعد بھی آپ کے کرم سے مشرف ہوں جو آپ کے اولیاء کا نصیبہ ہے۔ (فناں رومی، ۲۸۱)

آیت نمبر ۹۵

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

(سورۃ الحدید، آیۃ: ۲۰)

دنیادار الغرور کیوں ہے؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دنیا کو دار الغرور کا لقب دیا ہے کہ یہ دنیادھوکہ کا گھر ہے، متاع الغرور ہے، دھوکہ کی پونچی ہے۔ دنیا میں اگر کسی بلڈنگ پر لکھ دیا جائے کہ دھوکہ کا گھر تو آدمی وہاں جا کر گھبرائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو دھوکہ سمجھے گا۔ معلوم ہوا کہ جو دھوکہ کا گھر ہے تو اس گھر میں جو چیزیں ہیں فیہ ما فیہ جو کچھ بھی اس میں ہے ان سب میں دھوکہ ہوتا ہے تو اس خالق کائنات نے جب اس کائنات پر دار الغرور کا لیبل لگا دیا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے لیکن اس سے دل نہ لگانا یہ دھوکہ کا گھر ہے۔ توجہ سب کا سب دھوکہ ہے تو یہ بِجَمِيعِ أَجْزَاءٍ ه وَ بِجَمِيعِ أَشْيَاءٍ ه وَ بِجَمِيعِ أَعْصَاءٍ ه وَ بِجَمِيعِ نَعْمَاءٍ ه

دنیا نہیں ہے جس کو کھا کر ہم عبادت کریں اور روئی سے پیدا شدہ طاقت کو اللہ پر فدا کریں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دولت جو اللہ پر فدا ہو، مسجد کی تعمیر، مدرسہ کی تعمیر، علماء کی خدمت میں صرف ہو وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہی ہے جو ہم کو اللہ سے غافل کر دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن

دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جودا ر الغروم فرمایا اس کی حکمت مولانا رومی نے بیان فرمائی ہے۔

زاں لقب شد خاک را دار الغروم
کو کشد پارا سپس یوم العبور

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغروم کا لقب اس لیے دیا کہ جو دنیا تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے یوں بچ، مال و دولت، دوست احباب، کار اور کار و بار سب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے گذرنے کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے اور مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے۔

دبا کے چل دیئے سب قبر میں دعا نہ سلام
ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو

جو دوست ہر وقت وفاداری کا دم بھرتا ہو لیکن گاڑھے وقت میں ساتھ چھوڑ دے اور بے کسی اور کسپری میں چھوڑ کر الگ جا کھڑا ہو وہ بے وفا اور دھوکہ باز کھلاتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے دنیا کو دار الغروم فرمایا گیا ہے۔
(افتخار رباني، صفحہ ۲۷-۲۸)

دنیا متاع الغروم یعنی دھوکہ کی پونجی ہے اور متاع کیا چیز ہے؟ علامہ آلوی نے ایک بھی عالم علامہ صمعی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ متاع اور قیم کی تحقیق کے لیے عرب کے دیہات میں گئے کیونکہ دیہات میں اس زمانہ میں ٹکسالی زبان بولی جاتی تھی شہروں میں تو دوسری زبانوں کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ علامہ صمعی نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک چتکبر اکتا آیا اور چوہے کے پاس برتن صاف کرنے کا ایک میلا سا کپڑا تھا کہتے نے اس کو منہ میں لیا اور ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب ماں آئی تو پچے نے کہایا اُمیٰ جَاءَ الرَّقِيمُ وَ أَخَدَ الْمَتَاعَ وَ تَبَارَكَ الْجَبَلَ۔ علامہ صمعی فرماتے ہیں کہ ایک جملہ میں تین لغات حل ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ رقم چتکبرے کے کو کہتے ہیں اور متاع اس حقیر اور میلے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے باور پچی خانہ میں برتن صاف کیے جاتے ہیں جس کو اُردو میں صافی کہتے ہیں۔

علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ دنیا متابع، حقیر، ذلیل اور بری کب ہے؟ ان
الْهُتَّكَ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْرَاهَتْ سَفَلَ كَرَدَ:

﴿الَّذِيْنَا جِيْفَةٌ وَ طَلَّا بُهَا كِلَابٌ﴾

دنیا مُمْدَار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں لیکن یہ دنیا جیفہ اور متابع یعنی حقیر و ذلیل بشرطی ہے اور بشرطی کیا
ہے الہاء عن الآخرة یعنی آخرت سے غفلت اور اگر آخرت سے دنیا غافل نہ کرے تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

﴿وَ إِنْ جَعَلْتَ الدُّنْيَا وَ سَيْلَةً لِلْآخِرَةِ وَ ذَرْيَعَةً لَهَا فَهَيَ نِعَمُ الْمُتَّابِعُ﴾

اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ بنالتویہ بہترین پوچھی ہے۔ ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی
خدمت کر رہا ہے، مسجد اور مدرسے بنارہا ہے، دین کی کتابیں چھاپ رہا ہے، طلباء و صلحاء کو کھانا کھلا رہا ہے تو
کیا اس کی یہ دنیا متابع غور اور ذلیل و حقیر ہے؟ یہ تو اس کی بہترین پوچھی ہے جو اللہ پر فدا ہو رہی ہے۔ اس
لیے حدیث میں ہے کہ:

﴿لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجا فی صحابة المؤمن)

متقیٰ تیرا کھانا کھائے کیونکہ متقیٰ کھانا کھا کر جو نیک کام کرے گا وہ کھلانے والے کے لیے صدقۃ جاریہ ہوگا
پس اس کی یہ دنیا ہرگز حقیر نہیں کیونکہ آخرت کی تعمیر کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن یہ دولت ہر ایک کو
نہیں ملتی۔ ہر ایک کا یہ نصیب کہاں کہ دنیا اس کو اللہ سے غافل نہ کرے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی
صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سیمہ کو عطا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے دین کے سرکاری کام کے لیے، اپنی ولایت و محبت و دوستی کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک انتخاب
کرتا ہے، ہر شخص کو یہ سعادت و عزت و شرف نہیں ملتا۔ اور سرکاری کام کے لیے اللہ کی طرف سے جس کا
انتخاب ہوتا ہے اس کو جو سماحتی دیئے جاتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں۔ صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
انتخاب ہوا تھا۔ دنیا ہی میں دیکھ لجئے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجا ہے تو اس کو اچھے سے اچھے باوفا
اور جاں ثنا سماحتی دیتا ہے۔ جب ایک باپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اپنے پیارے پیغمبر کی نصرت کے لیے آپ کو صحابہ بھی انتہائی باوفا، جاں ثنا اور
نہایت پیارے منتخب کر کے دیئے۔ اس لیے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انتہائی احمد ہیں۔ صحابہ پر
اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے صحیح سماحتی نہیں دیئے اور اللہ تعالیٰ کی
رحمت کا بھی انکار ہے کہ ایک باپ تو اپنے بیٹے کو باوفا سماحتی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ

یہ رحمت نہیں کی العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَقَدْ سَبَّنِي الْخُ﴾

جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ صحابہ کی عظمت شان کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں میرے بزرگوں کا صدقہ ہے جن کی اختر نے جوتیاں اٹھائی ہیں۔ (درس مشنوی مولانا روم)

دنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑ ہے۔ آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکہ کا گھر ہے جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے۔ اور موت کا گھری فکر سے مراقبہ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ قبرستان بھی گاہ گاہ کر خوب غور سے سوچے کہ یہاں بوڑھے، جوان، بچے، عوت، مرد، امیر، غریب حتیٰ کہ وزراء اور سلاطین بھی کیڑوں کی خوراک بن کر بے نام و نشان ہو گئے۔

دنیا اگر دل کے باہر ہو اور دل میں حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو یعنی نعمت کی محبت سے نعمت دینے والے کی محبت غالب ہوتا آخرت کی کشتشی ٹھیک چلتی ہے اور اسی دنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے اور اگر دنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا یعنی آخرت کی کشتشی میں دنیا کا پانی داخل ہو گیا تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں، دنیا کا نفع اور سکون بھی چھپ جائے گا جس طرح کشتشی کے غرق ہوتے وقت پھر وہ پانی کشتشی کے لیے باعثِ سکون ہونے کے بجائے باعث ہر اس و تباہی ہو جاتا ہے، پس نافرمان انسان کے پاس یہ دنیا سببِ نافرمانی بن جاتی ہے اور اللہ والوں کے پاس یہ دنیا فرمان برداری میں صرف ہوتی ہے اور باعثِ سکون و چین ہوتی ہے۔

تعجب ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا تو دنیا کو قرآن میں دار الغرور (دھوکہ کا گھر) فرمائے اور ہم مخلوق ہو کر اس دھوکہ کے گھر سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے دنیا کی محبت اور حیات دنیا سے اطمینان اور خوشی کا سبب آخرت پر عدم یقین ارشاد فرمایا ہے ورنہ آخرت کی فکر کے ساتھ تو ذکرِ الہی کے سوا کوئی چیز باعثِ اطمینان نہیں ہو سکتی۔ چوب بوسیدہ پر سہارا لگا کر کھڑا ہونا جس طرح حماقت ہے اسی طرح موت کے یقین آنے کے باوجود دنیا کی لذتوں کو سہارہ اطمینان بنانا بھی حماقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیاری دعائی کا اے اللہ! جب اہل دنیا کی آنکھیں تو ان کی (فانی) دنیا سے ٹھنڈی کرتا ہے تو ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرماتے (جس کی لذت غیر فانی ہے)۔ (روح کی پیاریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۱۲۷-۱۲۸)

دینیوی زندگی۔ دھوکہ کا سامان

دنیا کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے، یہاں نہ بہار کو قرار ہے نہ خزاں کو، نہ راحت کو نہ مصیبت کو، نہ

غم کونہ خوشی کو، نہ مال و دولت کونہ عہدہ و منصب کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو یہاں قرار نہیں۔ سب آنکھیں چرانے والی ہیں، یہاں تک کہ خود انسان کی زندگی اور صحت اس سے بے مرتوی اور بے وفا کی کا ہر روز اعلان کرتی ہے، قرآن مجید نے دنیوی زندگی کی حیثیت کو بڑے لنشین انداز میں سمجھایا ہے۔ ارشاد ہے:

(ترجمہ) خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض کھیل کو دا ر ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جلتا نہ ہے، گویا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشنکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سوتا سے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی اور دنیوی زندگی محض دھوکے کا سامان (متاع الغرور)

ہے۔ (سورہ الحدیہ، آیت: ۲۰)

مطلوب یہ ہے کہ اس عارضی و فانی دنیا کے برعکس عالم آخرت باقی ولازوں ہے اور وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت و باقی، ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید ہے، دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی مغفرت و رحمت ہے، اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصودِ اعظم بنالے۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۳۰۵-۳۰۶)

آیت نمبر ۹۶

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

(سورہ المجادلة، آیة: ۱۱)

اہل علم کا بلند درجہ

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ رفع اللہ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے، آگے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجاتٍ تو عالم بھی تو ایمان والے ہیں، ان کی تعریف تو ان میں شامل تھی لیکن وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ میں ان کو الگ کیوں بیان کیا گیا؟ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ سارے مومن کتنے ہی مبلغ ہو جائیں، کتنے ہی عابد ہو جائیں، اتنی کرامت ہو جائے کہ آسمانوں میں اڑنے لگیں لیکن وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یعنی علماء کے درجات کے مقابلہ میں نہیں آسکتے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علماء کو الگ بیان کر کے جتنی عزت بخشی ہے کسی اور کو ایسی عزت عطا نہیں

فرمائی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے عوام کے دل میں علماء کی عظمت کم ہو۔ اگر عوام میں علماء کی عظمت نہ ہوگی تو بڑا فتنہ پیدا ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ علماء کو بھی نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کو نقصان پہنچے گا، علماء کو کم پہنچے گا عوام کو زیادہ پہنچے گا، علماء کو یہ کہ عوام کی خدمت کی سعادت نہیں ملے گی اور عوام علماء سے متفرق ہو کر بالکل ہی محروم ہو جائیں گے، نہ صحیح راستہ پر ہیں گے نہ حدود کا خیال کریں گے۔ (علم اور علماء کرام کی عظمت)

آیت نمبر ۹

﴿وَمَنْ يَقِنِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

(سورة الطلاق، آیہ: ۳)

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

اہل اللہ تفویض و توکل و فناستیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں اور انہاک فی الدنیا نہ ہونے سے عوام ان کو کاہل سمجھتے ہیں جیسے بعض اہل دنیا بھی کاہل ہوتے ہیں۔ دونوں کی ظاہری صورت ایک سی معلوم ہوتی ہے لیکن اہل دنیا کی کاہل اور اہل آخرت کی کاہلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی کاہلی نفس کی راحت پسندی اور آرام طلبی کے سبب ہوتی ہے اور اہل آخرت کی کاہلی اسباب دنیا میں انہاک نہ ہونے سے ہوتی ہے جس کا سبب تفویض و توکل اور اپنے ارادوں کو مرضیاتِ الہیہ میں فنا کر دینا ہے۔ (درس مشتوی مولانا رام، صفحہ: ۲۸۱۔ ۲۸۷)

اللہ والے دنیا کے کاموں میں تو کاہل نظر آتے ہیں مگر آخرت کے کاموں میں وہ ایسے عالی حوصلہ، مستعد اور سرگرم ہیں کہ اپنی رفتار سے چاند پر بھی سبقت لے جاتے ہیں یعنی انتقالِ امرِ الہیہ اور احتساب عن المعاصی میں ان کی سرگرمی و جانبازی کا اہل دنیا تصویر بھی نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ اہل دنیا کو اعمال آخرت کی اہمیت نہیں اس لیے دنیا میں منہمک نہ دیکھ کرو وہ اہل اللہ کو کاہل سمجھتے ہیں۔ اعمال کی بنیاد اور اساس دراصل یقین پر ہے۔ اہل دنیا چونکہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں اس لیے دنیا کے اعمال میں وہ سرگرم و مستعد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اپنی فیکٹری اور کارخانے کے لیے ساری رات جا گتا ہے، یہ مشقت اسے آسان ہے لیکن دور کعت پڑھنا بھاری ہیں اور اہل آخرت کو کیونکہ آخرت پر یقین ہے اس لیے یہ یقین ان کو سرگرم اعمال آخرت رکھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں منہمک نہیں ہونے دیتا کیونکہ دنیا کی حقارت و فناستیت کا یقین ان کو ہمہ وقت متحضر رہتا ہے۔ اسی لیے اہل دنیا ان پر کاہلی کا الزام لگاتے ہیں لیکن موت

کے وقت دونوں قسم کے اعمال کی سرگرمیوں کا انجام نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے اور کون ناکامی کے گڑھے میں گرفتار ہا ہے۔

فَسُوفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ

أَفَرُّ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ

عنقریب دیکھ لو گے جب غبار چھٹے گا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو یا گدھے پر۔ اس وقت اہل آخرت کی خوشی کی اور اہل دنیا کے غم کی کوئی انتہا نہ ہو گی۔

پس اہل آخرت یعنی اہل تقویٰ بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو روزی مِنْ حَيَثُ لَا يَخْتَسِبْ ملے گی یعنی ایسی جگہ سے ملے گی کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو گا۔ اس کے لیے نہ اسمبلی کی ممبری کے لیے ایکشن لڑنا ضروری ہے نہ زکوٰۃ کمیٹی کی چیر میں حاصل کرنے کی کوشش ضروری ہے کہ یہ سب دنیاداری ہے۔

اہل اللہ کے کاموں میں آسانی کا راز

اب جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید ہی کسی تفسیر میں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور دوستوں کے مشکل کام کو کیوں آسان کر دیتے ہیں اس کا کیا راز ہے؟ تواریخ سننے۔ ایک دوست ہمارے پاس یا آپ کے پاس روزانہ آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، چھ مہینے تک آیا پھر آنابند کر دیا تو آپ اپنا آدمی بھیجتے ہیں کہ دیکھو کیا بات ہے، نہ معلوم کس مشکل میں بتلا ہو گیا ہے تو اس کا آنا آپ کو پیارا اور محبوب تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمہ میں پھنس گیا ہے تو اگر آپ مالدار ہیں تو فوراً کہیں گے کہ مقدمہ لڑو، وکیل کا خرچہ ہم دیں گے۔ جو کچھ آپ کے اختیار میں ہو گا آپ اس کو نجات دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم آیا کرو تمہارا مشکل کام ہم ان شاء اللہ آسان کر دیں گے۔ تمہارے نہ آنے سے مجھے ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن پھر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور ذکر کانا نامہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ پیاسے اگر پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہم تہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتے ہیں تبھی تو ہم ان کو پیار کرتے ہیں۔

آیت نمبر ۹۸

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَلْوُ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾

(سورة الملک، آیہ: ۲)

زندگی کا مقصد کیا ہے؟

دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی

سے پوچھو کر آپ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے؟ خالقِ حیات سے پوچھو کر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اور خالقِ حیات فرمائے ہیں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً میں نے تم کو موت اور زندگی دی ہے۔

موت کی حیات پر وجہ تقدیم

اور موت کو مقدم کر رہا ہوں اس لیے کہ جس زندگی نے اپنی موت کو سامنے رکھا وہ زندگی کا میاب ہو گئی اس لیے موت کو پہلے بیان کر رہا ہوں خَلَقَ الْمُوْتَ کی تقدیم کی وجہ یہ ہے قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْتَ عَبْدِهِ عَلَى حَيَاةِهِ یعنی موت کو مقدم اس لیے کیا کہ جو زندگی اپنی موت کو سامنے رکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دیکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ ساند اور جانور کی طرح آزاد ہیں رہے گی یعنی گندے کام ہیں کرے گی اور ڈرے گی اور مقصدِ حیات بتا دیا لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً تاکہ ہم تم کو دیکھیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا خراب عمل کرتے ہو معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔

آیت نمبر ۹۹

﴿إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾

(سورۃ نوح، آیہ: ۱۰)

حکم استغفار کے عاشقانہ رموز

اُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے جب ہی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی کا حکم نہ دیتے جس طرح شفیق باپ جب بیٹے سے کہتا ہے کہ معافی مانگو تو اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے معافی مانگو یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں لہذا معافی مانگنے میں درینہ کرو۔

میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ان کا نام بہت بڑا نام ہے جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعيد ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مرد و نہیں ہو سکتا، اس کا سوء خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضایع کر دیں۔

یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ

علوم عطا فرماتے ہیں۔ (نیوپی ربانی، صفحہ: ۲)

آیت بالا کی تشریح بعنوان دیگر تعمیر حال اور تعمیر مستقبل کا سامان

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے مسلسل مغفرت مانگتے رہو۔ یہ مسلسل کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ **إسْتَغْفِرُوا** امر ہے اور امر بتا ہے مضارع سے اور مضارع کے اندر تجدد استراری کی خاصیت ہوتی ہے لیکن بار بار اس کام کو کیا جائے۔ عربی قواعد (گرامر) کی رو سے فعل مضارع میں دوزمانہ پایا جانا لازم ہے، ایک زمانہ حال اور دوسرا زمانہ مستقبل تو معنی یہ ہوئے کہ موجودہ حالت میں بھی ہم سے مغفرت مانگو اور آئندہ بھی مانگتے رہنا اللہ ایسا آیت دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی موجودہ حالت میں بھی اور آئندہ حالت میں بھی لیکن ایسا کریم مالک ہے جس نے **إسْتَغْفِرُوا** رَبُّکُمْ کا حکم دے کر ہمارا حال بھی بنادیا اور مستقبل بھی بنادیا۔ واہ کیا شان ہے مالک کی کہ **تعمیر حال اور تعمیر مستقبل دونوں کا سامان اس آیت میں اپنے کرم سے نازل فرمادیا کہ موجودہ حالت میں تم سے کوئی خطاء ہو جائے تو ہم سے معافی مانگ لو اور اگر آئندہ بھی ہو جائے تو نا امید نہ ہونا ہم سے معافی مانگ لینا اور یہاں رب کیوں نازل کیا کہ پانے والے کی محبت ہوتی ہے جیسے اماں ابا سے معافی کی بچوں کو جلد امید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رب نازل فرمادیا کہ اپنے پانے والے سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارا پانے والا ہوں اور پانے والا جلد معاف کرتا ہے لہذا مغفرت مانگتے رہو اور بخشنش مانگنے میں مزہ بھی تو ہے۔ مغفرت مانگنے کا الگ مزہ ہے۔**

گناہ کی دو تکلیفیں

گناہ کرنے سے بندہ کو، عاشق باوفا کو دو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ غم ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نالائقی ہوئی اور میں نے اپنے پانے والے کو کیوں ناراض کیا۔ دوسرے ہر گناہ سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ گناہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سے دوری باعث غم ہے یا نہیں؟ تو اصلی پانے والا تو اللہ ہے، اس حقیقی پانے والے کی دوری سے کس قدر غم ہو گا جبکہ ماں باپ اصلی پانے والے نہیں، متولی ہیں۔ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متولی بنایا گیا ہے اگر ماں باپ ہی اصلی پانے والے ہوتے تو ان کے بعد بچے کو مر جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی موت کے بعد بچوں کی موت لازمی ہوتی لیکن جب ماں باپ نہیں ہوتے تو بھی تو بچے پل جاتا ہے کیونکہ اصلی پانے والاتو زندہ ہے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے یتیم بچے اپنے ماں باپ کے زمانہ پرورش سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی پرورش پاجاتے ہیں۔

گناہ کی تکلیفوں کا مداروا

تو اللہ تعالیٰ نے رب نازل فرمایا کہ اگر تم سے نالائقی ہو گئی اور گناہ سے تم کو دعویٰ ہوئے ایک تو میری ناراضگی کا غم اور دوسرا تھا روح کو تکلیف ہوئی کہ اپنے پانے سے الگ ہو گئے جیسے لاٹ بیٹا مال بآپ سے جدا ہوتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے تو میں لفظ رب نازل کر رہا ہوں کہ درینہ کروانے پانے والے سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں تکلیف دور کرنے کا اس استغفار میں انتظام فرمادیا کہ معافی مانگ کر تم اپنے پانے والے سے پھر قریب ہو جاؤ گے، گناہ سے جو دوری ہوئی تھی استغفار کی برکت سے تمہاری دوری حضوری سے بدل جائے گی اور گناہ سے تمہاری روح کو جو پریشانی اور بے قراری تھی جب استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو گے اپنی بخشش مانگو گے، تو کیا ہو گا؟ وہ پریشانی سکون سے بدل جائے گی کیونکہ ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ نافرمانی کا اللہ تعالیٰ سے دور کرنا یہ کون سی ایسی باریک بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ہر بندہ جانتا ہے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے لہذا استغفار و انازل فرمایا کہاے میرے بندو مجھ سے معافی مانگتے رہوںی الحال بھی اور آئندہ بھی یعنی فی الحال بھی امید دلا دی اور مستقبل کی بھی امید دلا دی کہ اگر آئندہ بھی تم سے کوئی خطاب ہو جائے تو معافی مانگ لینا کیونکہ مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے اور رب نازل کر کے اور زیادہ امید دلا دی کہ میں تمہارا پانے والا ہوں، پانے والا جلد معاف کر دیتا ہے اور گناہ سے جو تکلیف اور جودوری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے لذت سے بدل دیا کہ جب کہو گے اے میرے پانے والے تو کیا قرب نہیں ہو گا؟

استغفار سے لفظ رب کا ربط

بچہ جب کہتا ہے ابا معاف کر دو تو کیا وہ ابا سے قریب نہیں ہو جاتا۔ جو صاحب اولاد ہیں ان سے پوچھو کہ اگر اولاد اپانے کہے خالی یہ کہے کہ معاف کر دیجئے تو ابا کو مزہ نہیں آئے گا لیکن جب بچہ یوں کہتا ہے کہ اے ابا میرے ابواء میرے بابا! مجھے معاف کر دیجئے تو کیا ابا کے لفظ سے ابا کے دل پر کیفیت طاری نہیں ہو گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دریا میں طوفان اور جوش لانے کے لیے یہاں رب نازل کیا اور اپنے بندوں کو سکھایا کہ ہم سے یوں کہو کہ اے میرے پانے والے مجھ کو معاف کر دیجئے۔ مجھ سے نالائقی ہو گئی۔ استغفار و ارجمند اپنے پانے والے سے معافی مانگو۔

مغفرت کا غیر محمد و دسمندر

اور آگے فرمایا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یعنی اللہ تعالیٰ صرف بخششے والا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ بخششے والا

ہے یعنی اللہ تعالیٰ غافر ہی نہیں ہے غفار بھی ہے، مغفرت کا بحرِ ذخار ہے کہ اگر سارے عالم کو بخش دے تو اس کی مغفرت کے غیر محدود سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی کیوں؟ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا مَنْ لَا تَضْرُبُ الذُّنُوبُ اے وہ ذات کہ ہمارے گناہوں سے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جو سورج کی طرف تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس کے ہی منہ پر گرتا ہے۔ اللہ تو بڑی شان والا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گناہوں سے ہم کو ہی نقصان پہنچتا ہے لہذا سرورِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کو سکھا رہے ہیں کہ یوں کہو یا مَنْ لَا تَضْرُبُ الذُّنُوبُ اے وہ ذات کہ ہمارے گناہوں سے جس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ اور بندوں کو معاف کرنے سے اس کی مغفرت کچھ کم نہیں ہوتی، اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی فَا غُفْرَلَى مَا لَا يَضُرُّكَ تو میرے ان گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے جن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم لوگ تو دوسروں کو معاف کرنے میں اس لیے دیر کرتے ہیں کہ ہم کو نقصان پہنچتا ہے یہ دلیل اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ وَ هَبْ لِيْ مَا لَا يَنْقُصُكَ جس چیز کے دینے سے آپ کے خزانہ میں کمی نہیں آتی وہ مغفرت کا خزانہ ہم کو دے دیجئے۔ (ایڈ مغفرت و رحمت، صفحہ: ۳۷۔)

فرضیتِ تقویٰ کا عاشقانہ راز

اللہ تعالیٰ نے اپنے مزاجِ الوہیت کی بربانِ نبوت سارے عالم کو اطلاع کر دی کہ اے گھبگارو کیوں گھبراتے ہو مجھے معاف کرنا محبوب ہے، گناہ پر تم جری تو نہ ہو، گناہ پر بہادری مت دکھاؤ کیونکہ گناہ میری ناراضگی اور غصب کا بھی سبب ہے اور گناہ سے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے اور ہم تم کو دور کرنا نہیں چاہتے اس لیے تقویٰ فرض کرتے ہیں۔ تقویٰ کے فرض ہونے کا راز آج اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے ہے یہی کہ جانتے ہو کہ میں تم پر تقویٰ کیوں فرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر گناہ بندہ کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان سے قریب کرتا ہے۔ گناہ کر کے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے اور ہم تم کو اپنی ذات سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تمہاری دوری کو پسند نہیں کرتے جب ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو تو میں تو ماں باپ کی رحمت کا خالت ہوں، ساری دنیا کے ماں باپ کو رحمت کی بھیک میں دیتا ہوں تو میں کیسے پسند کروں گا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہیں۔ میری محبت چاہتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب رہیں لہذا تقویٰ کا حکم، گناہ چھوڑنے کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ہم سے دور نہ رہو، تم تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ کی فرضیت کا راز آج زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج آپ نے ایک نئی بات سنی جو میرے دل میں بھی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔

مغفرت سے طلبِ رحمت کا ربط

پھر بھی اگر خطا ہو جائے تو تقویٰ ٹوٹ جائے تو پھر معافی مانگو۔ إسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حکم بتارہا ہے

کہ ہم سے خطائیں ہوں گی جب ہی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں لہذا کہو رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ اے پالنے والے مجھے معاف کر دیجئے تو لفظ ربا میں بہت عظیم الشان لطف ہے اور معافی مانگنے میں عجیب مزہ ہے معافی مانگنا بڑا امر مدارک ہے اس کا مزہ کچھ نہ پوچھو لیکن جب مغفرت مانگو تو رحمت بھی مانگو۔ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا کہ قل اے نبی! آپ فرمائیے پڑھتے رہیے اس وقت بھی پڑھتے آئندہ بھی پڑھتے رہئے تمام زندگی پڑھتے رہیے۔ یہ قل کا ترجمہ ہے وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ اے ہمارے پالنے والے! ہم کو بخش دیجئے وَ ارْحَمْ اور رحم بھی کر دیجئے وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں تو مغفرت کے بعد رحمت کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں دیا کہ مغفرت کے بعد رحمت کا ایک خاص ربط ہے۔ مغفرت کے معنی ہیں سِتْرُ الْقَبِيْحِ وَ إِظْهَارُ الْجَمِيلِ اللہ تعالیٰ جب معاف فرمادیتے ہیں تو اس کی برائیوں کو چھپا دیتے ہیں اور نیکیوں کو ظاہر فرمادیتے ہیں اور رحمت کے معنی ہیں۔ آیُ الَّذِي يَفَضُّلُ عَلَيْنَا بِفُنُونِ الْأَلَاءِ مَعَ اسْتِحْفَاقِنَا بِأَفَانِينِ الْعِقَابِ اب ہمارے اوپر اے اللہ! طرح طرح کی نعمتیں بر سادِ دیجئے کیونکہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، ہم کو بخش دیا باوجود اس کے کہ ہم افانین العقاب کے مستحق تھے فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا تو جب ہم نے معافی مانگ لی اور آپ نے ہم کو بخش دیا تو اب ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازش کیجئے اس نالائق بندہ کو جو طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا اب اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیجئے۔ یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں جو عربی زبان میں ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھئے جب بچہ ابا کو راضی کر لیتا ہے کہ ابا معاف کر دو تو جب ابا مسکرا دیتا ہے اور بچہ علامت سے سمجھ جاتا ہے کہ اب ابا نے معاف کر دیا تو پھر ابا سے کہتا ہے کہ ابا پیسہ دیجئے، لڑو دیجئے، ظافی دیجئے۔ جس درجہ کا بچہ ہوتا ہے اسی درجہ کی درخواست کرتا ہے، اگر نادان بچہ ہے تو ظافی ہی پر رہے گا اگر اور سمجھدار ہے تو لڑو مانگے گا اور سمجھدار ہے تو موڑ مانگے گا اور سمجھدار ہے تو بلڈنگ مانگے گا اور سمجھدار ہے تو کارخانہ مانگے گا جس طرح ہر بچہ کی مانگ الگ ہوتی ہے اسی طرح ہر بندہ کی درخواست الگ ہوتی ہے۔ بندہ جتنا اللہ کو پہچانتا ہے جتنا اللہ والا ہوتا ہے اس کی درخواست بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔

رحمت کے چار معنی

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رحمت کی چار تفسیر کی ہے اے اللہ! اب جب ہم نے آپ سے معافی مانگ لی تو چار قسم کی رحمت عطا فرمائیے۔

- ۱۔ توفیق طاعت: فرماں برداری کی توفیق دے دیجئے۔
- ۲۔ فرانخی معشیت: میری روزی بڑھا دیجئے گناہ کی وجہ سے جو روزی میں برکت نہیں تھی اب روزی میں برکت ڈال دیجئے۔
- ۳۔ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرمادیجئے۔
- ۴۔ دخول جنت: جنت میں داخلہ دے دیجئے، یہ چار معنی ہیں رحمت کے۔ (امید مغفرت و رحمت، صفحہ: ۱۵-۱۶)

آیت نمبر ۱۰۰

﴿وَإِذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلُّ إِلَيْهِ تَبَّلِلاًۤ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
وَكِيلًاۤ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًاۤ﴾

(سورة المزمل، آیات: ۱۰-۹-۸)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا اسم مبارک لو۔ رب کا اسم مبارک کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اسم ذات کا ثبوت اسی آیت سے ہے۔ صوفیا کا ذکر اللہ اللہ جو ہے اسی آیت سے ثابت ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوار میں لکھا ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں ذکر کا ثبوت موجود ہے، جب وہ قرآن پاک یاد کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کا رسوخ دیکھا کرتے تھے۔ تکرار لفظ سے ذکر رائج ہو جاتا تھا۔ وہ زمانہ تو عہد نبوت کا تھا۔ نبوت کی ایک نظر سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے اور نسبت بھی ایسی کہ قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑاوی ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب زمانہ عہد نبوت سے بعد کا آگیا ہنزا صوفیا نے یہ طریقہ نکالا کہ جیسے صحابہ ایک ایک لفظ کی تکرار کر کے قرآن یاد کرتے تھے مثلاً إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اسی طرح ہم بار بار اللہ اللہ کہتے ہیں تاکہ اللہ دل میں یاد ہو جائے، یاد تو ہے لیکن دماغ میں ہے دل میں جب اُترے گا جب بار بار ہم اللہ کہیں گے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۲۵-۲۶)

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ میں رب کیوں فرمایا جبکہ وَإِذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ بھی ہو سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ پالنے والے کی محبت ہوتی ہے، پالنے والے کو آدمی محبت سے یاد کرتا ہے۔ بتائیے ماں باپ کی یاد میں مزہ آتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں رب اس لیے نازل فرمایا کہ میرا نام محبت سے لینا۔ خنک ملاؤں کی طرح میرا ذکر مرست کرنا، عاشقانہ ذکر کرنا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں جس طرح اپنے ماں باپ کا محبت سے نام لیتے ہو، ماں باپ کا نام لے کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا تمہارا اصلی پالنے والا میں نہیں ہوں؟ ماں باپ تو متولی تھے، تمہارا اصلی پالنے والا تو میں ہوں،

رب العالمین ہوں۔ اس ترتیبیت کی نسبت سے میرا نام مجبت سے لینا۔

آگے فرماتے ہیں وَ تَبَّئُلُ إِلَيْهِ تَبَيِّلًاً اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ غیر اللہ سے کٹنے اور کنارہ کش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مخلوق کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ؟ ہرگز نہیں مطلب یہ ہے کہ قلب کے اعتبار سے مخلوق سے کٹ جاؤ، جسم بستی میں رہے مخلوق خدا کے ساتھ ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو، رہبانیت حرام ہے ایک تبتل شرعی ہے، ایک غیر شرعی ہے۔ تبتل غیر شرعی جو گیوں اور سادھوؤں کا ہے ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے، بدن پر راکھل لی اور درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے اور تبتل شرعی مسلمانوں کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے وہ کیا ہے کہ تعلقاتِ دنیویہ پر علاقہ خداوندی غالب ہو جائے، دنیاوی تعلقات پر اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی مجبت غالب ہو جائے اس حقیقت کو جگہ مراد آبادی نے یوں تعبیر کیا ہے۔

میرا کمالِ عشق بس اتنا ہے اے جگر

وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

ان آیات کی تقدیم و تاخیر سے حکیم الامت مجدد المحدث حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کا ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، مکان بنالوں، تھوڑا سا کاروبار جمالوں، ذرا دنیوی فکروں سے چھوٹ جاؤں پھر میں اللہ والوں کے پاس جاؤں گا، اللہ کی یاد میں لگ جاؤں گا اور بالکل صوفی بن جاؤں گا، حضرت فرماتے ہیں کہ آیت کی ترتیب بتاری ہی ہے کہ جس فکر میں ہو، جس حالت میں ہوفور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو۔ ذکر اللہ ہی کی برکت سے تم فکروں سے چھوٹو گے کیونکہ جب سورج نکلے گا جب ہی رات بھاگے گی۔ غیر اللہ اور افکارِ دنیویہ جب ہی مغلوب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے قلب کو یک سوکرو، پھر میرا نام لو بلکہ یہ فرمایا کہ پہلے میرا نام لو، میرے نام ہی کی برکت سے تم کو افکارِ غم اور پریشانیوں سے نجات ملے گی اور یک سوئی حاصل ہو گی۔ اگر تبتل ذکر پر موقوف نہ ہوتا تو آیت کی تقدیم دوسرے اسلوب پر نازل ہوتی اور وَ تَبَّئُلُ إِلَيْهِ تَبَيِّلًاً مقدم ہوتا اذکرِ اسمِ ربِّکَ پر جس کے معنی یہ ہوتے کہ پہلے غیر اللہ سے یک سو ہو جاؤ پھر ہمارا نام لو لیکن وَ اذْكُرِ اسْمَ ربِّکَ کی تقدیم بتاری ہے کہ تبتل اور یک سوئی ہمارے ذکر ہی پر موقوف ہے پہلے تم ہمارا نام لینا شروع کر دو، ہمارے ذکر کی برکت سے تمہیں خود بخود یک سوئی حاصل ہوتی جائے گی۔ اور غیر اللہ دل سے نکلتا چلا جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر مولانا رومی نے عجیب انداز سے فرمائی ہے۔ یہ عاشقوں کی تفسیر ہے۔ فرماتے

ہیں کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص واجب الحسل کھڑا تھا جس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی۔ دریا نے کہا کہ کیا بات ہے، تو بہت دیر سے باہر کھڑا ہے؟ کہا کہ مارے شرم کے تیرے اندر نہیں آ رہا ہوں کہ میں ناپاک ہوں اور تو پاک ہے، دریا نے کہا کہ تو قیامت تک ناپاک ہی کھڑا رہے گا، جس حالت میں ہے میرے اندر کو دپڑ، تیرے جیسے لاکھوں یہاں پاک ہوتے رہتے ہیں اور میرا پانی پاک رہتا ہے الہا اللہ کی یاد میں دیر مت کرو، کیسی ہی گندی حالت میں ہوا اللہ کا نام لینا شروع کر دو۔ ذکر کی برکت سے غیر اللہ کی نجاست چھوٹے گی۔

تبیل کی تفسیر عرض کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے یک سوئی جب ملے گی جب اللہ ملے گا، ستارے جب معدوم ہوں گے جب سورج نکلے گا، رات جب بھاگے گی جب آفتاب طلوع ہوگا۔ پہلے اللہ کو دل میں لاو، اللہ کا نام لینا شروع کر دو غیر اللہ خود ہی دل سے نکل جائے گا اور آپ کا دل اللہ سے چپکتا چلا جائے گا جو خالق مقناطیس ہے جس کی پیدا کردہ مقناطیس سے آج دنیا کا گولا فضاوں میں پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی تھوٹی کھما نہیں ہے۔ جو اللہ اتنا مقناطیس پیدا کر سکتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا گولا جس پر سمندر اور پہاڑ سب لدے ہوئے ہیں بغیر کسی سہارے کے فضاوں میں معلق پڑا ہوا ہے اس اللہ کے نام میں لکنی چپک، کتنا مقناطیس اور لتنی کشش ہوگی۔ آہ! اللہ کا نام لے کر تو دیکھو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیں گے کہ ساری دنیا آپ کو ایک بال کے برابر الگ نہیں کر سکتی۔

مولانا شاہ ابرا الحلق صاحب نے فرمایا کہ جس کا کسی بزرگ سے تعلق نہ ہو اور پیر بناتے ہوئے اس کے نفس کو شرم آ رہی ہو تو مشیر ہی بنالے۔ مشیر کے معنی ہیں اللہ کے راستہ کا مشورہ دینے والا۔ مشورہ سے بھی راستہ معلوم ہو جائے گا۔

اس آیت سے تصوف کے دو مسئلے ثابت ہو گئے۔ ذکر اسم ذات کا اور یکسوئی کا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ تم کو یکسوئی اس لینے نہیں ہوتی کہ ذکر کے وقت تم کو دون کے کام یاد آتے ہیں کہ آج فلاں فلاں کام کرنا ہیں۔ جہاں تسبیح اٹھائی اور وسو سے شروع کہ ابھی دکان سے ڈبل روٹی اور انڈا لینا ہے۔ اس کے بعد رات کو جب اللہ کا نام لینے بیٹھے تو یاد آیا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارا نام لینے والو! میں مشرق کا رب ہوں تمہارا جور ب سورج کو نکال سکتا ہے اور دن پیدا کر سکتا ہے کیا وہ تمہارے دن کے کاموں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ کیا اس لوپ بیان ہے۔ دیکھنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کہ میں رَبُّ الْمَشْرِقِ ہوں، میں آفتاب نکالتا ہوں اور دن پیدا کرتا ہوں جو دن پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے دن کے کام نہیں بنا سکتا۔ دن پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پانچ کلو آناد دینا

مشکل ہے جس کی تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے۔ ان وساوس کی طرف خیال نہ کرو جو شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے سوچ لو کہ ہمارا اللہ ہمارے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہے اور جب رات میں وسوسہ آئے تو کہہ دو، وہ رب المغرب بھی ہے۔ جو اللہ رات کو پیدا کر سکتا ہے وہ رات کے کاموں کے لیے بھی کافی ہے۔ تصوف میں دواذ کار ہیں۔ اسم ذات اور نفی و اثبات۔ فرمایا کہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جو ہے اس سے صوفیا کے ذکر نفی و اثبات کا ثبوت ملتا ہے۔ تفسیر مظہری دیکھ بجھے آج میں تصوف کو تفسیروں کے حوالہ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ علماء یہ نہ سمجھیں کہ تصوف یوں ہی صوفیوں کا بنایا ہوا ہے۔ کمال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کے لیے ان کے پیر نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پیش کروں گا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام ہے حق ہے وہ اپنی تفسیر میں تصوف کو قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں۔ ذکر اسم ذات، تبتل یعنی غیر اللہ سے تک سوتی اور ذکر نفی و اثبات تصوف کے یہ تین مسئلے ثابت ہو گئے۔

آگے فرماتے ہیں فَاتَّخُذْهُ وَكِيلًا جب میں اتنا بڑا رب ہوں کہ دن پیدا کر سکتا ہوں اور رات پیدا کر سکتا ہوں تو پھر دن رات کے کاموں کے بارے میں وسوسے کیوں لاتے ہو، تم مجھ کو یعنی اللہ کو اپنا وکیل بنالو۔ مجھ سے زیادہ کون تمہارا وکیل اور کار ساز ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے چوتھا مسئلہ تو کل کا ثابت ہو گیا جس کی صوفیاء تعلیم دیتے ہیں۔

اور اگلی آیت سے سلوک کا ایک بہت اہم مسئلہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں اور وہ ہے دشمنوں کے مظالم پر صبر کرنا۔ دنیا دار صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو شیخ لیے مکار لوگ جارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور یہ لوگ جو با تین کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نفس و شیطان بھی ستاتے ہیں کبھی شیطان کہے گا کہ فلاں گناہ کر لوا اور کبھی نفس بھی ستائے گا اور بار بار تقاضا کرے گا کہ ارے یہ شکل بہت حسین ہے۔ اس کو دیکھی ہی بعد میں توبہ کر لینا۔ نفس و شیطان کے ورغلانے کے وقت بھی یہی آیت پڑھو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ دشمن جو با تین کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔

باطنی دشمن یعنی نفس و شیطان جو کہیں اس پر بھی صبر کرو اور ان کے کہنے پر عمل نہ کرو۔ اسی طرح تمہارے ظاہری دشمن اور حاسدین تم پر اعتراض کریں گے کہ بڑے صوفی بن گئے گول ٹوپی لگائے پھرتے ہیں تسبیح لے کر مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کسی کے اعتراض کا جواب نہ دو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ان کی باتوں پر صبر کرو۔

اور وَ اهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا یہ ہے کہ کوئی تعلق نہ رکھو اور خوبصورتی سے یہ ہے کہ ان کی شکایت اور انتقام کی فکر میں نہ پڑو اور یہ آخری مسئلہ ہے تصور کا ہجرانِ جمیل جس کو تفسیر مظہری میں اس آیت سے ثابت کیا گیا ہے۔

اور ہجرانِ جمیل کی تفسیر مفسرین نے یہی ہے الْهَجْرَانُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا شُكُورٍ فِيهِ وَ لَا اِنْعِقَامَ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا یہ ہے جس میں شکایت نہ ہو اور انتقام کا ارادہ بھی نہ ہو کیونکہ جس نے اپنے دشمن سے انتقام لیا وہ مخلوق میں پھنس گیا اور جو مخلوق میں پھنس گیا اس کو خالق کیسے ملے گا؟ اسی لیے علامہ ابوالقاسم قشيری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ قشيری میں فرماتے ہیں انَّ الْوَلَى لَا يَكُونُ مُنْتَقِمًا وَ الْمُمْتَقِمُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا کوئی ولی اللہ مُنتقم نہیں ہوتا اور کوئی مُنتقم ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا فرمایا تھا؟ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ ارے یہ تو شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان فساد ڈالا دیا تھا تم نے کوئی گڑ بڑھوڑی کی تھی۔ آہ! اپنے بھائیوں کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو نداشت بھی نہ رہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے خدام کو یہی اخلاق رکھنے چاہیے میں ورنہ اگر بدله و انتقام کی فکر میں پڑے تو دل مخلوق میں پھنس جائے گا اور پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان القرآن کے حاشیہ میں مسائل السلوك کے تحت یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى مَجَارِي الْقَضَاءِ لَا يُفْنِي أَيَامَهُ بِمُخَاصِمَةِ النَّاسِ جس شخص کی نظر مجراری قضا پر ہوتی ہے، مشیتِ الہی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے دنوں کو مخلوق کے جھگڑوں میں ضایع نہیں کرتا اور وہی کہتا ہے جو حضرت یوسف علیہ اسلام نے فرمایا تھا کہ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تم پر کوئی الزام نہیں کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر مشیتِ الہی کے یہ بھائی مجھے کنوں میں نہیں ڈال سکتے تھے۔

دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے سب میں ہماری تربیت اور ہمارا نفع ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے تکونی راز ہیں۔ لہذا جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ میاں معاف کیا، مجھے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، تمہارے چکر میں کیوں رہوں اس کو معاف کیا اور دل کو اللہ کے ساتھ لگا دیا۔ (متازل سلوک، صفحہ: ۵۷-۵۸)

اس سورت پاک کے شروع میں قیامِ لیل کا مسئلہ نازل فرمایا۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا اس سے معلوم ہوا کہ رات بھرمت جا گوئنہ صحت خراب ہو جائے گی۔ جن صوفیوں نے جوش میں رات بھر جا گنا شروع کیا کچھ دن کے بعد سب ختم اور طلب الكل فوت الكل کا مصدق اق ہو گئے۔ سب چھوڑ چھاڑ دیا تھا کہ فرض بھی نہیں پڑھتے۔

اس کے بعد قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ورثیلُ الْقُرْآنِ تَرْتِیلًا اور قرآن کو خوب صاف پڑھا اور ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کی تفسیر منقول ہے تَجْوِیدُ الْحُرُوفِ وَ مَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ کہ حروف بھی صحیح ہوں یعنی مخارج سے ادا ہوں اور کہاں سانس توڑیں اس کی معرفت ہو۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیام لیل اور تلاوت قرآن یہ دونوں کام منتہی کے اسباق ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں آخر میں ان کو یہی دو شعف رہ جاتے ہیں، رات کو تجد پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ دو اعمال منتہی کے سبق ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی سوال قائم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منتہی کا سبق پہلے کیوں نازل فرمایا۔ دیکھئے پہلے موقف علیہ پڑھاتے ہیں پھر بخاری شریف ملتی ہے لیکن یہاں معاملہ کیوں بر عکس ہوا؟ قیام لیل اور تلاوت قرآن تو آخری سبق ہے اور ذکر اسم ذات اور نقی و اثبات متبدی و متوسط کے اسباق ہیں۔ تو اعلیٰ مقام اور آخری درجہ کا سبق پہلے کیوں نازل فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا چوں کہ وہ سیداً منتہیں تھے، سید الانبیاء تھے ان کے مقام نبوت کے علو و رفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے منتہی کا سبق نازل فرمایا اس کے بعد پھر عام امت کے لیے سبق نازل کیا۔ یہ ترتیب کا راز منکشف کیا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۶۷-۶۸)

آیت نمبر ۱۰۱

﴿وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾
(سورۃ النازعات، آیات: ۳۰ - ۳۱)

آج ایک بہت اہم مضمون بیان کرنا ہے جو بھی دل میں آیا ہے اور وہ یہ کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ منزل جنت کے باشندے، جنت میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی جنت جن کے لیے مقدر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قافلة جنت کی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی جنتی ہے اور قافلة جنت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی علامت بیان فرمار ہے ہیں وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا اور نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تمام تقاضوں سے روکے یعنی اپنا دل توڑ دے، اللہ پاک کے قانون کو نہ توڑے لہذا جب آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اپنے دل ہی سے پوچھو، میں آپ ہی کو مفتی بنارہا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر یہ خواہش ہم پوری کر لیں تو ہمارا دل تو

خوش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گایا نہیں؟ جب آپ کا دل کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو ناخوش ہو جائے گا تو آپ دل کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کونہ توڑیں، جو عظمتِ الہیہ کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں اور آخرت میں معظم، معزز اور مکرم کرتے ہیں اور جو اپنے دل کی حرام خوشیوں کو نہیں توڑتا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا دل خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو توڑ دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔

اللہ کے خوف کی علامت اور مقدار

تو جنت کے قافلے کی علامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى﴾

(سورة النازعات، آیات: ۳۰)

جو اپنے رب کو حساب دینے سے خوف کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو کیا حساب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت کیا ہے؟ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہو۔ بس اتنا خوف ہو کہ گناہ سے رُک جائے، اپنے نفس کی ان خوشیوں کو جو مرضی الہی کے خلاف ہوں توڑ دینے کی توفیق ہو جائے۔ اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے کہ ہر وقت خوفِ الہی سے کانپتا رہے اور یہوی بچوں کا حق ادا نہ کر سکے اور دُکان پر بھی نہ جا سکے اور چارپائی پر لیٹا ہو کا نپ رہا ہے کہ خوفِ الہی سے تڑپ رہا ہوں۔ اتنا خوف فرض تو درکنار جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُّ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ﴾

(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الدعوات، باب جامع الدعا)

جو لوگ عربی تو اعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں مِنْ تعییضیہ ہے مِنْ خَشْيَتِکَ یعنی اے اللہ! میں آپ کے خوف میں سے کچھ حصہ مائلتا ہوں، اتنا خوف مائلتا ہوں جو میرے اور آپ کے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے، اس سے زیادہ اگر خوف مل جائے گا تو میں چارپائی پر ہی لیٹ جاؤں گا۔ اسی لیے مِنْ خَشْيَتِکَ فرمایا۔

خانقاہ = علم کی روشنی + عشق کا راستہ

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں علم نہیں ہوتا، خالی پیری مریدی ہوتی ہے۔ بس چند وظائف اور حق و ہو کرنے کا نام خانقاہ ہے۔ الحمد للہ! یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے کہ یہاں خالی پیری مریدی نہیں

ہے، علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کیا جاتا ہے اور علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا نام ہی خانقاہ ہے۔ (قالہ جنت کی علامت، صفحہ: ۲)

قالہ جنت اور اس کی علامات

اور اہل وفا کون ہیں؟ قالہ جنت والے ہیں جو اس آیت کے مذکور ہیں جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جنت کا قالہ کون سا جا رہا ہے اور اہل جنت کون لوگ ہیں تو اس کی دعامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیں۔

نبرا: وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُو شخص اللہ سے ڈرے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیا دلیل ہے کیا علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْى وَهَا اپنے نفس کو بُرُى خواہش سے روکتا ہے اور یہ دوسری علامت ہے اہل جنت کی، جس کو دیکھو وہ اپنے نفس کو بُرُى عادتوں سے اور بُرے اعمال اور بُرے افعال سے روک رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور یہی قالہ جنت کے لوگ ہیں یہی اہل وفا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے اور اپنے نفس کو بُرُى خواہش سے کیوں روک لیتے ہیں؟ کسی فوج کے ڈر سے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ابا کے ڈر کے مارے بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے مرشد کے ڈر کے مارے بھی نہیں یا اگر مرشد ہے تو مریدوں کے خوف سے نہیں، یا امام ہے تو مقتدیوں کے خوف سے نہیں کہ مقتدی یہاں ہیں، اگر گرگڑ بڑا اور نامناسب کام کروں گا تو امامت چلی جائے گی تو پھر نفس کو کیوں روکتا ہے؟ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو اپنے نفس کو روک کے مگر صرف میرے خوف سے وہ اہل جنت کا قالہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہے چاہے کوئی ہو یا نہ ہو بالکل تھماں ہو اور گناہ خود اس سے کی تمنا کر رہا ہو لیکن یہ پناہ مانگے کر۔

اللہ پیار سے دیکھے نہ یہ گناہ مجھے

تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تھماں بھی اللہ والی ہونی چاہیے۔ خلوت ہو یا جلوت ہو ہر جگہ مالک کی دوستی تازہ تر اور گرم تر ہے، کہیں بھی اس میں پھیکا پن اور ٹھنڈا پن نہ آئے تو یہ دونوں آیتیں ملا کر قالہ جنت کی آج ڈیز ایکن پیش کر رہا ہوں۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ جنت کا قالہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے خلوتوں میں اور جلوتوں میں، تھماں میں اور جمیع میں قلبًا و قالبًا و عیناً اللہ کے ساتھ رہے یعنی اپنی نظر اور دل اور جسم کی ہر طرح سے ہر وقت گناہ سے حفاظت کرتا ہے اور ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھتا ہے۔ اصلی سالک اور اصلی عاشق وہی

ہے جس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہوا اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے گناہوں کے لاکھ تقا خنے ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے خدا! میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس عورت کو یا اس لڑکے کو دیکھوں لوں یا یہ گناہ کروں مگر میں آپ کی نظر پر نظر کھرہا ہوں کہ آپ کی نظر کا کیا فیصلہ ہے۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ دل میں آواز آجائے گی، آپ کا دل خود کہے گا کہ اے میرے عاشق نظر! میری نظر کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنی نظر کو یہاں سے ہٹا لے۔

جب آ گئے وہ سامنے ناپینا بن گے

جب ہٹ گئے وہ سامنے سے پینا بن گے

تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس پر پیار نہ آئے گا کہ میرا ایک بندہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہے، اندر ہاں نہیں ہے مگر اپنی روشنی اور بینائی کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کبھی اندر ہاں رہا ہے کبھی بینا بن رہا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میں خوش ہوں وہاں بینا بن جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میری خوشی نہیں وہاں ناپینا بن جاتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دیا خلوت ہو یا جلوت یہ جاتا ہے کہ میرا رب تو ہر جگہ ہے، تنہائی میں بھی ہے اور جمیع میں بھی اس لیے اس کا خاف مقام رہیہ اس کا خوف دائی ہو گا اور اسی خوف کی وجہ سے یہ غلوت میں اور جلوت میں وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى رہے گا۔ اپنے نفس کو بُری خواہشوں سے روکتا رہے گا چاہے گناہ کا لاکھ تقا ضا ہو۔

یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے کہ تقاضائے معصیت آپ کے لیے کچھ مصنفوں جب تک آپ ان پر عمل نہ کریں کیونکہ اگر ہوئی یعنی خواہش اور تقاضائے گناہ نہ ہو تو روکیں گے کیا؟ اگر آپ مجھے منع کریں کہ آپ اس وقت چشمہ نہ لگائیے تو آپ کا یہ کلام صحیح ہو گا کیونکہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے۔ جب چشمہ لگا ہے تب ہی تو آپ کہیں گے نہ لگائیے۔ معلوم ہوا کہ ہر نہیں اپنے منی عنہ کے ثبوت کا چاہتی ہے، ہر منع کرنا اس ممنوع چیز کا وجود چاہتا ہے اور اگر آنکھوں پر چشمہ نہیں لگایا ہوا ہے پھر آپ کہیں کہ چشمہ اتار دیجئے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا یہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى یعنی جو اپنے نفس کی بُری خواہشوں کو روکتے ہیں، معلوم ہوا کہ بُری خواہش کا وجود ضروری ہے کیونکہ بُری خواہش سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے ہیں، لہذا ممنوع چیز کا وجود ضروری ہوا۔ معلوم ہوا کہ بُری خواہش تو ہو گی بس ہمیں اس کو روکنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو! بُری خواہش سے گھبرا یا نہ کرو ایک کروڑ تقا خنے برائی کے آئیں تو آنے دو بس ان پر عمل نہ کرو اور جتنی بُری خواہشوں کی بھرمار ہو گی روکنے میں اتنا ہی زیادہ مجاہدہ ہو گا اور جتنا زیادہ مجاہدہ ہو گا اتنے ہی انوار زیادہ ہوں گے۔ شدید خواہش کے سیلاں کو روکنے میں زیادہ جھٹکا لگے گا جیسے

تیز پانی کو جھکا دے کر بکلی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدہ کا جھکا دے کر بخوبی دینا چاہتے ہیں۔ (قالہ جنت کی علامت، صفحہ: ۲۷-۲۰)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

(سورة فاطر، آیہ: ۲۸)

اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں لہذا جو عالم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ اس آیت کی رو سے عالم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کے لیے خشیت لازم ہے جس طرح آگ کے لیے حرارت لازم ہے۔ اگر کسی آگ میں ٹھنڈک کا اثر آجائے تو وہ آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ لہذا اگر تم عالم ہو تو کیوں نہیں ڈرتے؟ یہی دلیل ہے کہ تم عالم نہیں ہو اور کہیں اللہ تعالیٰ نے خشیت کے بجائے خوف کا لفظ استعمال فرمایا ہے مثلاً:

﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

(سورة النور، آیہ: ۲۷)

اور جیسے اس آیت میں فرمایا وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور خوف اور خشیت کا فرق علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ خوف اور خشیت کا عام مفہوم تو ڈر ہی ہے مگر خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں عظمت ضروری نہیں ہے، بلکہ عظمت کے بھی خوف ہوتا ہے جیسے تھانیدار کا ڈر، پولیس کا ڈر کہ عظمت نہیں ہوتی مگر ڈر ہے۔ اب ایک اور مثال سنئے جو اس سے زیادہ قریب الفہم اور آسان تر ہے کہ سانپ نکلا تو اس کا ڈر ہوتا ہے مگر کیا دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے؟ اگر عظمت ہوتی تو جو تے سے پٹائی کیوں کر رہے ہو، ڈنڈے کیوں لگارہے ہو، معلوم ہوا کہ خوف کا استعمال عظمت پر بھی ہوتا ہے اور بغیر عظمت پر بھی ہوتا ہے مگر خشیت کا استعمال صرف وہیں ہو گا جہاں خوف کے ساتھ عظمت لازم ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے، پولیس والوں سے خشیت ہے، بھیڑیے یا پاگل کے سے خشیت ہو رہی ہے، عربی لغت کے اعتبار سے یہاں لفظ خوف کا استعمال جائز ہے، خشیت کا جائز نہیں۔ خشیت کا استعمال خاص ہے جہاں خوف کے ساتھ عظمت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہیں مطلق خوف استعمال فرمایا اور قرآن پاک کی تفسیر کا اصول ہے کہ جب ایک جگہ معنی مقید ہو جائیں تو ہر جگہ مقید ہوں گے لہذا جہاں جہاں لفظ خوف مطلق آیا ہے وہ خشیت کے معنی سے مقید ہو گا اس لیے خوف کا ترجمہ خشیت ہی ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ عظمت الہیہ ضروری ہے جبکہ مخلوق سے خوف کے لیے عظمت کا ہونا ضروری نہیں یہ فرق ہے خشیت اور خوف کا۔

تو وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ كَامْلَهُ بِهِ كَجَوَابِنَ رَبِّ كَعْظَمَتِ كَيْ وَجَهَ سَهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور ان کو حساب دینا ہے اور اللہ مجھ کو آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ میری نظر کہاں جا رہی ہے اور میری نظر پر ان کی نظر جسی ہوئی ہے۔

اللہ کا خوف ہوا اور خدا کے خوف سے خلوت میں، جلوت میں تہائی میں مجمع میں ہر جگہ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر رہے ہوں۔ شیطان کہے گا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے تو شیطان سے کہو کہ اللہ تو ہے وَهُوَ مَعْكُمْ وَهُوَ رَوْقَتْ مِيرے ساتھ ہے اور جب وہ ساتھ ہے تو وہ نایبنا نہیں ہے جو دوسروں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ بھلا خود نایبنا ہو گا! تو جب وہ ساتھ ہے اور دیکھ رہا ہے تو اللہ کے خوف سے اللہ کی ناپندیدہ خواہشات کو توڑنا اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عشقِ الہی ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ (قالہ جنت کی علامت، صفحہ: ۲۲-۲۳)

آیت نمبر ۱۰۲

﴿وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورة العکویر، آیة ۲۹)

جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی شخص کچھ نہیں چاہ سکتا۔ ہمارا چاہنا آپ کے چاہنے پر موقوف ہے۔ جب تک آپ کی مشیت نہیں ہو گی ہم آپ کو کیسے چاہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا اپنے بندوں کی محبت پر۔ يَعْبُدُهُمْ وَيَحْبُبُونَهُ دلیل ہے کہ پہلے آپ بندوں سے محبت فرماتے ہیں پھر آپ کی محبت کے فیضان سے بندے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت يَعْبُدُهُمْ وَيَحْبُبُونَهُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

﴿قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ عِبَادِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ﴾
اس لیے اے اللہ! ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں کہ جب آپ ہم سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت کے فیضان سے ہم لامحال آپ سے محبت کریں گے لہذا جب تک آپ کا کرم شامل نہ ہو کوئی شخص کسی نیکی اور خیر کو چاہ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے خیر اور بھلائی اور نیکی کے ارادے، عزائمِ رشد و تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کے خیالات سب آپ کے فضل و کرم کے تابع ہیں۔ آپ کے ارادہ پر مراد کا تختلف محل ہے یعنی آپ کوئی ارادہ فرمائیں اور وہ مراد تک نہ پہنچے اور وہ کام نہ ہو یہ محال اور ناممکن ہے اور آپ نہ چاہیں اور وہ کام ہو جائے یہ بھی ناممکن اور محال ہے کیونکہ آپ کا ارادہ پر مراد کا ترتیب لازمی ہے لہذا اے اللہ! آپ ہمارے نیک بننے کا ارادہ فرمائیں تو ہمارا نیک اور متقدی بن جانا لازم ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ اگر نفس و

شیطان اور دنیا بھر کی تمام گمراہ کن ایجنسیاں مل کر کسی کو بہکائیں اور گناہوں میں مبتلا کر کے بر باد کرنا چاہیں تو اس شخص کو ہرگز بر باد نہیں کر سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تالا لگ جائے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تھانہ والے صرف مومنی لگا کر کسی تالہ کو سر بھر کر دیں جو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک جھٹکا مار تو کھل جائے لیکن تھانہ کی مہر دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکو کا نپتے ہیں تو اے اللہ جس پر آپ کی حفاظت کا تالا ہو تو نفس و شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس سے گناہ کر اسکیں نفس بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی قدرت قاہرہ کا ڈنڈا اسے اپنے سر پر نظر آتا ہے۔ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو دل کو اس قدر بے چین کر دیتے ہیں کہ گناہ کرنے کے خیال سے وہ لرزہ بر انداز ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جس کو آپ اپنا بناتے ہیں اس کو گناہ سے مانوس نہیں ہونے دیتے، اس کے قلب کو گناہوں سے بیزار کر دیتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ۔

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

اے اللہ! جس کو آپ اپنا بنائیں اور جس کی حفاظت کا ارادہ فرمائیں وہ خود چاہے بھی تو اپنے کو ضائع نہیں کر سکتا، گناہوں سے اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اس کا منہ اجالا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے اے اللہ! ہم آپ سے آپ کا جذب مانگتے ہیں کہ آج تک کوئی مجدوب مرتد اور مرد و نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے جس کو کھیچ لیا وہ اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ جذب اور احاطہ جذب سے نعوذ باللہ فرار لازم آتا اور اللہ کی قدرت کا عجز لازم آتا جو حال اور ناممکن ہے۔ پس اے اللہ آپ ہمیں چاہ لیجئے کیونکہ اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مرتد ہونے سے بچنا چاہے یعنی جو شخص چاہے کہ میرا خاتمه ایمان پر ہو اور میں مرتد نہ ہوں اور خدا کے دین سے فرار اختیار نہ کروں اور ساری زندگی اللہ کی چوکھ پر قرار حاصل رہے اور نفس و شیطان کے چکر سے نجی جاؤں اور اگر غیر اللہ سے دل لگانا بھی چاہوں تو دل ایسا بے چین ہو جائے جیسے مجھلی پانی بغیر ترپنے لگتی ہے۔

درد فرقہ سے مرا دل اس قدر بیتاب ہے

جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے

یعنی بارہ بجے دو پہر کا وقت ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ سے ریت گرم ہو اور ایک مجھلی کو نکال کر اس تپتی ہوئی ریت میں ڈال دو تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ میری کیفیت ہو جائے کہ گناہوں کے ماحول میں اور غیر اللہ سے دل لگانے کے خیال سے ہی ترپنا شروع کر دوں اور میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب سے

اس درجہ انس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے چکر میں نہ پڑوں۔

پس جو شخص چاہے کہ اللہ کے دین پر قائم رہے اور نفس و شیطان کے چکر میں کبھی نہ آئے تو اس کو اللہ سے محبت مانگنی چاہیے کیونکہ مرتد کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل محبت پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے۔

اے اللہ! آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کی مشیت سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے جو عادۃِ محال ہیں جیسے گلاب کے پھول کی جڑ میں بد بودار کھاد ہوتا ہے جس کے اجزاء تخلیل ہو کر اجزاءِ خامی کے ساتھ مل کر جڑ سے گلاب کے درخت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن اوپر گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور کرم ہے، کھاد کا کمال نہیں ہے۔ اگر کھاد کا کمال ہوتا تو پھولوں میں بد بھوتی۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے قادرِ مطلق ہیں کہ حسی نجاست سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں لہذا اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے گھبراً و مت، بس ان تقاضوں کو دبادو جیسے کھاد کو مٹی کے نیچے دبادیتے ہیں، اگر کھاد اوپر ہوگی تو درخت جل جائے گا۔ اسی طرح تم بھی اپنی بُری خواہشات پر کفُّ النفسِ عن الْهَوْنِ کی مٹی ڈال دو یعنی ان پر عمل نہ کرو تو اس سے ہم تمہارے دل میں تقویٰ کا گلاب پیدا کر دیں گے اور کھاد جتنا بد بودار ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے ہی شدید اور خبیث تقاضے ہوں ان سے مت گھبراً، مجاهدہ شدیدہ کی مٹی میں ان کو دبادو تو تقویٰ کا پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو جتنا زیادہ قوی الشہوۃ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قوی النور ہوتا ہے کیونکہ شہوت کو روکنے میں اس کو مجاهدہ شدیدہ کی مٹی میں اس کا مشاہدہ بھی اتنا ہی زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کا تقویٰ بھی اتنا ہی عظیم الشان ہوتا ہے۔ گندے تقاضوں کی بد بودار کھاد سے (بشرطیکہ اس کو دبادو) تقویٰ کا خوشبودار پھول پیدا کرنا یقیناً حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کا کمال ہے۔ اسی کو اصغر گونڈوی نے فرمایا تھا۔

جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارِ چن

گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا ہن

اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیاوی پھول چھپا سکتے ہیں جن کے برگ و پیرا ہن خود اللہ تعالیٰ کی خوشبو کے غماز ہیں، پھولوں میں یہ خوشبو کہاں سے آتی؟ یہ اللہ ہی کی تودی ہوئی ہے۔

اور اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے تو پودے کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کھاد میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور پانی بہتا ہوا ہو کہ کھاد کی گرمی کو بہا کر لے جائے، وہیں جمع نہ ہو درنہ جڑ سڑ جائے گی۔ پھر جہاں یہ کھاد والا پانی بہتا ہوا جائے گا وہاں بھی ہر یا میں آجائے گی اور

دوسرے پودے بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے اور کھاد کی گرمی سے یہ پودا بھی نہ جلے گا اور ہر ابھرا ہو جائے گا۔ پس جس کے دل میں شہوت کی کھاد زیادہ ہو وہ ذکر اللہ کے ماحول میں اور اہل اللہ کی صحبوں کے انوار میں زیادہ رہتے تاکہ اللہ کے نور کا پانی شہوت کی کھاد سے گذرتا رہے اور اس کی حرارت ٹھنڈی ہوتی رہے جس سے ایمان کا درخت بھی ہر ابھرا ہو جائے گا اور جہاں جہاں وہ آپ نور جائے گا ہر یا می ہو جائے گی (یعنی دوسروں کو بھی صاحب نسبت کرے گا۔ (فغان روی، ۳۱۵-۳۲۲)

آیت نمبر ۱۰۳

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾

(سورۃ الانفطار، آیۃ: ۱۳)

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ نیک بندے کون ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے:

ابرار جمع ہے بر کی۔ بر معنی نیک۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر فرماتے ہیں اللذین لا يُؤْذُونَ الظَّرَفِ نیک بندے وہ ہیں جو چیزوں کو بھی اذیت نہ دیں اور ولا یَرْضُونَ الشَّرَّ او راللہ کی نافرمانی سے ناراض رہیں خوش نہیں ہوتے۔ اگر دوسرے کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو دل میں دُکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو نیک بندوں کی دو علامات ہوئیں:
۱: وہ چیزوں کو بھی اذیت نہیں دیتے اور
۲: اللہ کی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے

اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے خصوصاً غصہ کی حالت میں کیونکہ غصہ میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے اس لیے غصہ میں آدمی دوسرے کو زیادہ اذیت پہنچادیتا ہے۔

آیت نمبر ۱۰۴

﴿إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلُهُ فِي عِبَادِيْ ۝ وَ ادْخُلُهُ جَنَّتِي ۝﴾

(سورۃ الفجر، آیۃ: ۳۰-۲۸)

اے نفس! لوٹ آپنے رب کے پاس تو مجھ سے خوش میں تجوہ سے خوش۔ اور بندوں کی خوشی کو مقدم کرنے میں بھی رحمت کی ایک جھلک ہے جس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے ابا اپنے بچہ کو لڑو دیتا ہے تو کہتا ہے لے لڈو خوش ہو جا، خوشی منا اور میں بھی تجوہ سے خوش ہوں۔ تو ہماری خوشی کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کی جھلک دکھائی ہے اور ہماری خوشی کو اس لیے بھی مقدم کیا کہ وہ ہماری طرف سے

خوشیوں سے بے نیاز ہیں اور اس پر اللہ نے مجھے دعا کا ایک مضمون عطا فرمایا جس پر میرے بعض احباب کو وجد آگیا کہ اے اللہ ہم سے تو تقویٰ کا، آپ سے محبت و وفاداری کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم اپنی نالائقیوں سے اپنی بشری کمزوریوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں خوش کر دیجئے کہ ہم بندے ہیں، آپ تو اللہ ہیں، مالک ہیں، بہت بڑے مالک ہیں آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں، ہماری طرف سے خوشی حاصل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ صمد ہیں اور صمد کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ **الْمُسْتَغْنِيُّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ** جو سارے عالم سے بے نیاز اور سارا عالم جس کا محتاج ہو۔ پس آپ ہماری طرف کی خوشیوں سے بے نیاز ہیں اور ہم آپ کی طرف سے خوشیوں کے محتاج ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی شدید غم آجائے تو ہمارا ہارٹ فیل ہو جائے۔ پس اے اللہ ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھئے اپنی رحمت سے ہمیں خوش کر دیجئے۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۷۶)

ملاقاتِ دوستاں یعنی ملاقاتِ اہل اللہ کی اہمیت

دوستوں کی ملاقات کی قدر بعض صوفیوں کو نہیں ہے۔ بس غلبہ حال ہے کیونکہ ذکر میں مزہ آرہا ہے لیکن فہم کی کمی ہے۔ دوستوں کی ملاقات اتنی اہم ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمारہے ہیں فاذخلي فی عبادی کہ جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو۔ عبادی میں یا نسبتی ہے یعنی یہ میرے ہیں۔ جو دنیا میں کثرتِ تعلقات اور کثرتِ اسبابِ معاصی اور اسبابِ شہواتِ نفس میں رہتے ہوئے بھی یہ نفس کے نہ ہوئے، غیروں کے نہ ہوئے، میرے بن کر رہے تو جب یہ دنیا میں میرے رہے تو میں کیوں نہ ان کو کہوں کہ یہ میرے ہیں۔ فاذخلي فی عبادی میں اپنے خاص بندوں کی ملاقات کو مقدم فرمایا اور فاذخلي فی عبادی میں جنت کو موخر فرمایا۔ یقیرر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت کی نعمت سے زیادہ اللہ والوں کی ملاقات ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ مقدم کر رہے ہیں کہ جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو جن کے صدقہ میں تم یہاں آئے ہو اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ جنت کے کیمین ہیں، جنت ان کام کان ہے اور کیمین افضل ہوتا ہے مکان سے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اہل اللہ کے پاس زیادہ رہنمائی عبادت کا اتنا اہتمام نہ کرو جتنا اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا کرو۔ فرماتے ہیں **كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللَّهُوَ الْوَلُوْنَ** کے پاس رہ پڑو۔ علامہ آلوی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ **خَالِطُوا هُمْ لِتَكُونُوا مِثْلُهُمْ** اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ، تمہارے دل میں وہی درد آجائے، آنکھیں ویسی ہی اشکبار ہو جائیں، تمہارے سینے میں ویسا ہی ترپتا ہو ادل آجائے ویسا ہی تقویٰ تمہیں نصیب ہو جائے۔

اب اس کی دلیل شرعی پیش کرتا ہوں اور یہ علم عظیم الحمد للہ ابھی عطا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آپس میں ملاقات اور ملائکا جانا مقصود نہ ہوتا تو جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی بلکہ یہ حکم ہوتا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، دروازے بند کرلو، خلوتوں میں مجھے یاد کیا کرو۔ نہیں! بلکہ پانچوں وقت مسجد میں جاؤ اور میرے بندوں سے ملو۔ اس میں ملاقات کی اہمیت ہے کہ مسلمان آپس میں ملتے بھی رہیں۔ کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے ہمیشہ الگ الگ رہیں۔ اگر بھائی آپس میں ملیں جلیں کھائیں پیں، ایک دوسرے کی دعوت کریں تو ابا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک تو پنجگانہ ملاقات رکھی لیکن جمع کے دن ایک بڑا اجتماع رکھا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمع نہیں ہوگا، قریب کبیرہ میں جاؤ۔ اس طرح جمع میں اور زیادہ مسلمانوں سے ملاقات ہو گئی۔ پھر عید و بقر عید میں اور زیادہ اجتماع بڑھادیا اور پھر حریمین شریفین حج و عمرہ کے لیے آؤ جہاں سارے عالم کے مسلمان مل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی ملاقات عظیم نعمت ہے اور عند اللہ مطلوب ہے۔ (فیض ربانی، صفحہ ۲۲۲-۲۲۳)

آیت نمبر ۱۰۵

﴿وَنَفْسٌ وَّمَا سَوَّاهَاۤ فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَاۤ وَتَقْوَاهَاۤۤ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّهَاۤ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَاۤ﴾
(سورۃ الشمس، آیات، ۷۶-۷۷)

اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کی آیات میں آسمان اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی و نفیس و ماسوواہ اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیئے فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت بھی پیدا کر دی اور مقنی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو ہمت کر کے مقنی بن کر اللہ کا ولی بن جائے۔ چاہے تو عبد الرحمن بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے یعنی شیطان کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تقویٰ کا راستہ اختیار کرے اور چاہے فجور کا راستہ اختیار کرے اسی اختیار پر جزا اور سزا ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو بعد میں کیوں بیان فرمایا فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا نا فرمائی کے ماڈے کو پہلے بیان فرمایا جبکہ قاعدہ کے مطابق اچھی چیز پہلے بیان ہونی چاہیے۔ مسجد میں آپ اچھا قدم یعنی داہنا قدم پہلے رکھتے ہیں، کھانا داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہر عملہ چیز مقدم ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فجور کو مقدم فرمایا تقویٰ پر۔ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ اگر یہ راز

معلوم ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے گناہوں کے تقاضوں سے غم نہ ہو۔ گناہ کا تقاضاً آپ کے لیے مضر نہیں ہے اس پر عمل کرنا مضر ہے۔ اگر تقاضاً ہی نہ ہو تو آپ متقد ہوئی نہیں سکتے۔

خونِ آرزو، آفتا بِ نسبت کا مطلع ہے

تقویٰ نام ہے کہ گناہ کا تقاضاً ہو، دل چاہے گناہ کرنے کو لیکن دل کو مارلو، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ اپنی غلط آرزوں کا خون کرا لو تو دل کے تمام آفاق، افقِ شرق، افقِ غرب، افقِ شمال، افقِ جنوب دل کے چاروں افقِ لال ہو جائیں گے۔ دنیا کا سورج تو ایک افق سے نکلتا ہے یعنی مشرق سے لیکن اللہ والے جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اپنی غلط آرزوں کا خون کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں تو دل کے چاروں افقِ شرق و غرب شمال و جنوب خونِ آرزو سے لال ہو کر چاروں طرف سے دل میں نسبت مع اللہ کا، علّق مع اللہ کا، اللہ کی ولایت اور دوستی کا سورج نکلتا ہے اور اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے جائیں گے، غلاظت پر غلاظت چڑھتی جائے گی، بدبو پر بدبو، بدنا می پر بدنا می، خوش نامی نہیں ملے گی۔ کوئی حضرت کہنے والا پھر روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ جب خلق کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت جو ہیں یہ بڑے حضرت ہیں۔ محاورہ میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے حضرت ہیں، بڑا استاد آدمی ہے، ذرا ان سے ہوشیار ہنا۔ اس سے اکرام کے القاب چھین لیے جاتے ہیں۔ گناہ کی ایک سزا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اکرام اور عزت کے القاب چھن جاتے ہیں اور ذلت کے لقب ملتے ہیں۔

آپ بتائیے کہ اس دل کا کیا عالم ہو گا جس کے ہر افق سے اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔

تقديم الہام الغجر على التقویٰ کاراز

اللہ تعالیٰ کا نفس کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ کوئی بہت بڑا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے عالم و محدث کے ساتھ میں لا ہور سے ریل میں کراچی آ رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے نماز فجر کی امامت کی اور یہی سورة تلاوت کی۔ نماز ہی میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو کیوں موخر فرمایا اور نافرمانی و فجور کے ماذہ کو پہلے کیوں بیان فرمایا میں نے ان عالم سے پوچھا تو نہیں کے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ۔

ماذہ فجور تقویٰ کا موقوف علیہ ہے

میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ جس طرح سے بغیر و خصو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر موقوف علیہ پڑھے ہوئے بخاری شریف نہیں مل سکتی اسی طرح یہ ماذہ نافرمانی تقویٰ کا

موقوف علیہ ہے۔ اگر یہ مادہ نافرمانی کا نہ ہوتا تو اس کو روکنا کیسے ثابت ہوتا۔ ہر ہنی اپنے منہی عنہ کے وجود اور اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے مثلاً میرے ہاتھ میں تسبیح ہے میں کہتا ہوں کہ بھی میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا۔ تو تسبیح کا وجود ضروری ہوا یا نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو اور میں کہوں کہ ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا تو سب کہیں گے کہ غلط بات ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے ہی نہیں۔

تقویٰ کے لیے تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے

تواللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ گناہ کے تقاضے کو روکو اور ہماری بات سنو، میرے غلام بن کر رہو، نفس نے تم کو نہیں پیدا کیا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے جب ہی تو روکنے کے لیے فرمارے ہیں۔ اگر تقاضائے گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تقویٰ کے معنی ہیں کہ گناہ کا تقاضا ہو اور پھر اس کو روک کر اس کا غم اٹھالے۔

راہِ حق کے غم کی عظمت

اسی غم سے اللہ ملتا ہے مگر افسوس ہے اور اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے مگر اللہ کے راستے کے گھبرا تا ہے جبکہ اللہ کے راستے کا غم اتنا معزز غم ہے کہ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے لیلیٰ و بجنون کا حسن و عشق ترازو کے اس پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کی دولت اسی پلڑے میں رکھ دو، دنیا بھر کے شامی کباب اور بریانیوں کی لذت اسی میں رکھ دو اور ایک پلڑے پر اللہ تعالیٰ کے راستہ کا ایک ذرہ غم رکھ دو تو دنیا بھر کی خوشیاں دنیا بھر کی لذتیں، دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے۔ آہ! علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا عمدہ شعر فرماتے ہیں۔

ترے غم کی جو مجھ کو دولت ملے

غم دو جہاں سے فراغت ملے

اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم، ان کے راستہ کا ایک ذرہ غم، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے، دونوں جہاں سے افضل ہے۔ اسی غم سے جنت ملے گی۔ یہ وہ غم ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ولی اللہ بناتا ہے، یہ وہ غم ہے جو دنیا میں بھی سکون سے رکھتا ہے، یہ وہ غم ہے جو جنت تک پہنچائے گا، اب اس غم کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کی خوشیاں اگر اللہ کے راستہ کے غم کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلام احترامی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ اتنا قیمتی غم ہے ان کے راستہ کا۔ اسی غم سے خدامتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے۔

دامنِ فقر میں مرے پہاں ہے تاج قیصری
ذرّہ درد و غم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

اگر یہ غم بندہ اٹھا لے تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے پریشان ہو لیکن پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور غم اٹھاتا رہے تو اللہ ارحم الرحمین ہے اس کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے کا لکناغم اٹھا رہا ہے۔ پہلے ڈاڑھی نہیں رکھتا تھا بُ ڈاڑھی رکھ لی۔ سب مذاق اڑا رہے ہیں مگر کہتا ہے کہ کوئی پروانہ نہیں۔ میرا اللہ تو خوش ہے آج تم لوگ مذاق اڑا لوقیامت کے دن ان شاء اللہ تعالیٰ میرا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ (حیات تقوی، صفحہ: ۱۱)

تقویٰ کیا ہے

دوستو! یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو پہلے بیان نہیں کیا۔ پہلے فرمایا فالہمہا فُجُورَهَا کہ میں نے تمہارے اندر نافرمانی کے تقاضے رکھ دیئے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس تقاضے پر عمل نہ کرو تو خود بخود آیت کے الگے جز پر تمہارا عمل ہو جائے گا یعنی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مادہ فجور یعنی نافرمانی کا مادہ تقویٰ کا موقوف علیہ ہے۔ تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف گناہ چھوڑ دو گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔

متقیٰ کسے کہتے ہیں؟

متقیٰ وہ شخص ہے جو گناہ سے اپنے کو بچائے، اپنی نظر کو بچائے عورتوں سے حسینوں سے۔ اپنے کو جھوٹ سے بچائے، رشت سے بچائے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی و بدتمیزی سے بچے، یہوی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے، پڑوسیوں کے حقوق میں ظلم کرنے سے بچے۔ ہر وقت جائز اور ناجائز پر عمل کرے۔ (حیات تقویٰ، صفحہ: ۱۲-۱۳)

شرح آیتِ بالاعنوانِ دُگر تقویٰ پر فجور کے تقدم کا سبب

ارشاد فرمایا کہ ایک عالم نے سوال کیا کہ فالہمہا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا میں فُجور کو تقویٰ پر کیوں مقدم کیا گیا جبکہ فجور شر ہے تقویٰ خیر ہے تو عقلًا تقویٰ کا تقدم ضروری تھا۔ حق تعالیٰ نے دل میں یہ جواب عطا فرمایا کہ تقویٰ کا حاصل *كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْهُوَيِ* ہے جس کی دلیل وَنَهَیٰ *النَّفْسَ عَنِ الْهُوَيِ* ہے اور ہر نبی اپنے منہ عنہ کے ثبوت کو چاہتا ہے جیسے میں کہوں کہ اس عینک کو مت دیکھو تو عینک کا وجود

ضروری ہے ورنہ نہ دیکھنے کا حکم لغو ہو گا کیونکہ جب عینک ہے ہی نہیں تو کس چیز کو نہ دیکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَأَمَّا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النُّفُسَ عَنِ الْهُوَى﴾

(سورۃ النازعات، آیہ: ۳۰)

دنیا میں جو اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو حرام خواہش سے روکا۔ اس آیت سے خوف کا معیار اور خوف مطلوب کی تشریح بھی ہوئی کہ بس صرف اتنا خوف مطلوب ہے جو ہوئی یعنی گناہ سے بچالے اور اسی کا خوف معتبر ہے جو اپنے نفس کو گناہ سے روک لے اور نفس کو گناہ سے روکنے کا نام ہی تقویٰ ہے پس آیت فَالْهُمَّ هَا فُجُورُهَا وَتَفْوِهَا میں فجور کو تقویٰ پر اسی لیے مقدم کیا کہ مادہ فجور ہی تقویٰ کا موقف علیہ ہے کہ مادہ فجور کو دبانے سے ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ پس جب فجور اور ہوئی کا وجود نہ ہو گا تو نفس کو کس چیز سے روکا جائے گا اور پھر تقویٰ کا ثبوت کیسے ہو گا۔ پس تقویٰ تقاضائے معصیت کے مقابلہ میں دفاعی طاقت کا نام ہے اور جب تقاضائے معصیت یعنی مادہ فجور نہ ہو گا تو مقابلہ کس چیز کا کیا جائے گا؟ پس واضح ہوا کہ فجور کے مادہ کا تقدم ضروری تھا تاکہ اس کے روکنے پر تقویٰ کا تحقیق ہو سکے۔ یعنی دلیل ہے۔

اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جب فجور کی قدرت دی گئی تو اس کے ساتھ تقویٰ کی قدرت بھی لازم ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اس آیت پاک میں فجور کو مقدم فرمایا کہ یہ تقویٰ کا موقف علیہ ہے یعنی فجور اور نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جیسے موجودہ سائنس کی تحقیق ہے کہ ثابت اور منفی (Positive) اور منفی (Negative) ان دو تاروں سے بھلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح اے اللہ آپ نے ماذہ فجور کا منفی تار اور تقویٰ کا ثابت تار ہمیں دے دیا تاکہ جب تمہارے اندر ماذہ فجور کا جوش ہو تو ہمارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے تقاضے پر عمل نہ کرنا یہی منفی تار ہے جس سے نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لا الہ کی تکملی سے الا اللہ نصیب ہوتا ہے، باطل خداوں کو نکالنے سے اللہ دل میں بھلی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماذہ فجور اور ماذہ تقویٰ کی کشمکش سے آپ ہی مقصود ہیں اور ان دو تاروں سے آپ اپنی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہی ہمارے مقصود بن جائیں اور ہمیں ولی اللہ بنالیں۔

لیکن خیر و شر یعنی ماذہ فجور اور ماذہ تقویٰ کی کشمکش اور مجاہدہ شاقد سے ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہم بے دم ہوئے جا رہے ہیں یعنی سخت فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہیں لہذا اے رب اپنے جذب سے آپ ہمیں

اپنی طرف کھینچ لججے تاکہ اختیار بین الطریقین کی کشمکش سے نجات حاصل ہو اور آپ کی راہ آسان ہو جائے۔ ابتداء سلوک میں نفس کو خیر و شر کے انجداب سے سخت مجاہدہ و کشمکش پیش آتی ہے، شر اور فجور کی طرف کشش ہوتی ہے تو مجاہدہ کر کے نفس کو روکتا ہے اور بہ تکلف اس کو خیر کے راستہ پر ڈالتا ہے۔ تو مولانا دعا فرمائے ہیں کہ اے اللہ اس مقامِ تلوین کو مقامِ تمکین و استقامت سے تبدیل فرمادیجئے تاکہ ہمیں آپ کا قرب تام اور سر وِ دوام حاصل ہو۔ (فناں روی، ۲۹۱ تا ۲۹۳)

اے کریم! اس تردید بین الطریقین سے ہمیں نجات عطا فرمائیے اور صراطِ مستقیم پر جذب فرمائججے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمالیں وہ کبھی مرد و نبیں ہوتا اور سوء خاتمه سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے اللہ ہم آپ سے جذب کی بھیک مانگتے ہیں کیونکہ شیطان سالک محض تھا، مجنزوب نبیں تھا ورنہ مرد و نبیہ ہوتا کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے آپ کا کھینچا ہوا کوئی شخص بھی مرد و نبیں ہوا۔ جتنے لوگ مرد و نبیہ ہوئے ہیں وہ سب سالک تھے، آپ کے جذب سے محروم تھے۔ سالک کو بھی آخر میں جذبِ نصیب ہوتا ہے کیونکہ بغیر آپ کے جذب کے کوئی آپ کا غیرِ محمد و دراستہ طے نہیں کر سکتا۔ آپ خالق مقناطیس ہیں، آپ کے جذب کیسے ہوئے کوئون آپ سے چھین سکتا ہے؟ پس اے کریم! صراطِ مستقیم کی طرف آپ کا ہمیں جذب کر لینا ہمارے تردید بین الطریقین اور اختیار بین الامرین کے غم سے بہتر ہے۔ (فناں روی، ۲۹۰)

مزید شرح آیتِ بالا الہام فجور و تقویٰ کی حکمت

اور فرماتے ہیں کہ تمہارے امتحان کے لیے میں نے تمہارے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ

دیئے:

﴿فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا﴾

(سورۃ الشمس، آیہ: ۸)

ہم نے تمہارے نفس میں فجور کا مادہ بھی رکھ دیا کہ تم گناہ کر سکتے ہو، خوب تقاضا ہو گا اور تقویٰ اور اپنا خوف بھی رکھ دیا۔ لہذا جس سائنس کو چاہو گڑ کر اس میں تقویت پیدا کردو۔ دیا سلامی میں دوسائنس ہوتی ہے لیکن جب تک رگڑو گے نہیں جلے گی نہیں لہذا ظلم نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کیوں ہمارے اندر گناہ کا مادہ رکھ دیا۔ جیب میں دیا سلامی ہوتی ہے تو کیا جیب کو جلا دیتی ہے؟ رگڑنے سے آگ لگتی ہے۔ اسی طرح نفس میں ایک طرف فجور ہے ایک طرف تقویٰ ہے، اگر حسینوں سے نہ ملکینوں سے، عورتوں سے لڑکوں سے میل جوں کرو گے تو نافرمانی کے مادہ میں رگڑ لگ جائے گی اور گناہ کی آگ بھڑک جائے گی اور اگر تم اللہ والوں کے پاس

رہو گے تو فرمائی برداری کے مادہ میں رکھ لگ جائے گی اور تقویٰ کا نور دش ہو جائے گا۔

تقویٰ کی تعریف

کیونکہ تقویٰ کے معنی ہی ہیں کہ نافرمانی کا تقاضا ہوا اور پھر اس کو روکے اور اس کا غم اٹھائے اس غم سے پھر تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماڈہ فحور نہ ہوتا تو **کُفُّ النَّفْسِ** عن الْهُوَی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَی جو نفس کی بری خواہش کو روکتا ہے وہ متقدی اور جنتی ہوتا ہے تو جب صوی کروکنا ہے تو ھوئی کا وجود ضروری ہو اور نہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو چشمہ ہے کو دیکھنا مست اور ہاتھ میں چشمہ نہ ہو تو کلام لغو ہو گیا اور اگر چشمہ ہے تو اب کلام صحیح ہوا۔ معلوم ہوا کہ ہر خی اپنے قی عنہ کے وجود کی متقاضی ہے اگر منی عنہ نہیں ہے تو خی لغو ہے اور اللہ کا کلام پاک ہے لہذا ماڈہ ھوئی کا ہونا لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَی جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ بری خواہشات کو روکتے ہیں اور روکنے کا غم اٹھاتے ہیں کیونکہ نفس کا مزاج یہی ہے اس کی غذا گناہ ہے۔

فرشتے معصوم ہیں متقدی نہیں

اس لیے جبریل علیہ السلام کو متقدی کہنا جائز نہیں، معصوم کہنا چاہیے، فرشتوں کو ہم معصوم کہتے ہیں متقدی نہیں کہہ سکتے کیونکہ متقدی وہ ہے جس کو گناہ کا تقاضا ہو، اس کو روکے اس کا غم اٹھائے۔ تقویٰ کا نام ہے **کُفُّ النَّفْسِ** عن الْهُوَی کا یعنی نفس کو اس کی بری خواہش سے روکنا اور فرشتوں میں بری خواہش ہے نہیں لہذا فرشتوں کو معصوم کہنا تو جائز ہے لیکن متقدی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں حسن میں اول آنے والی لڑکی کو اگر جربیل علیہ السلام کی گود میں بھی رکھ دلو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہ یہ لو ہے کا کھمبایا ہے یا ڈنڈا ہے یا لکڑی ہے یا پتھر ہے یا کوئی لڑکی ہے ان کو کوئی بُر ا تقاضا ہی نہیں ہو گا۔

فرشتہ کے بجائے انسان کو شرفِ نبوت عطا ہونے کا سبب

فرشتے جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے؟ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس کو سمجھ لیں اسی لیے پغمبر انسان بھیجا جاتا ہے تاکہ امت کے تمام تقاضا ہائے بشریت کو سمجھ سکے۔ فرشتے چونکہ تقاضائے بشریت کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس لیے اصلاح نعمتِ بشریت کے قابل نہیں ہوتے، ان کو بنی نہیں بنایا جاتا لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے نفس میں تقاضے ہوں تم ان کو روکو اور غم اٹھاؤ تاکہ میدانِ محشر میں پیش کر سکو کہ ہم نے آپ کے لیے بڑے غم اٹھائے ہیں۔

اللہ کا سچا عاشق کون ہے؟

میں کہتا ہوں کہ اصلی سالک اور اللہ کا سچا عاشق وہی ہے جو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا جانتا ہو اور غم

اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو۔ خالی نفل پڑھ لینا، نفلی حج عمرہ کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ زبردست نمکین شکل سامنے آ جائے اور نظر اٹھا کرنے دیکھئے اور غم اٹھا لے چاہے کیجیہ منہ کو آ جائے۔ اگر کلیج منہ کو آنے کی مشق ہو جائے اور حسینوں سے نظر بچانے کی توفیق ہو جائے تو ان شاء اللہ اس کو نسبت صحابہ ہوگی۔ ابھی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کیونکہ علماء موجود ہیں اس لیے قرآن پاک سے دلیل پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے ایمان کا یہ اعلیٰ مقام کس راستے سے دیا ہے؟

﴿وَبَلَغَتِ الْفُلُوبُ الْحَاجَرَ﴾

(سورہ الاحزاب، آیہ: ۱۰)

وہ ایسے سخت حالات سے گذارے گئے کہ کیجیہ منہ کو آگئے گویا کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق میں آگئے جہاد میں کیا ہوتا ہے اور ہم نے ان کو بڑے بڑے زلزلے اور جھکٹے دیئے ہیں:

﴿وَرُلُولُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾

(سورہ الاحزاب، آیہ: ۱۱)

وہ سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔ پس آج بھی جو شخص گناہ سے بچنے میں ہر قسم کا زلزلہ برداشت کرے گا اور کیجیہ اکھڑ کے اس کے منہ میں آ جائے پھر بھی کسی نامحرم نہیں دیکھے گا۔ ہر قسم کا عم تقویٰ کے راستے میں اٹھا لے گا اور اللہ کو راضی رکھے گا اپنے نفس کو ناخوش رکھے گا تو کیا ہوگا؟ ان شاء اللہ اس کو نسبت صحابہ حاصل ہوگی۔

تقویٰ کے انعامات

اللہ تعالیٰ نے ہم سے گناہ حضر و اکر ہم کو کیا دیا لہذا تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھئے۔

پہلا انعام..... ہر کام میں آسانی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ سے رہو گے تو ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا، ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے۔ کیوں صاحب! یہ نعمت نہیں ہے کہ انسان کے سب کام آسان ہو جائیں؟ (تقویٰ کے انعامات، صفحہ: ۱۳-۱۴)

تقویٰ کا دوسرا انعام..... مصائب سے خروج

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا اس کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال دیں گے اس کو

المصائب سے مخرج اور ایکٹ (Exit) جلد ملے گا۔

تیسرا انعام..... بے حساب رزق

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان

بھی نہیں ہوگا۔ تقویٰ بے خسارہ کی تجارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، بے خسارہ کی ہے اور سود بھی نہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے تجارت کرو اور خسارہ کی ضمانت لے لو کہ بھی نقصان کے ہم ساتھی نہیں ہیں تو سود ہو جائے گا جو حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قانون بندوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں ایسی تجارت نہ کریں۔ اگر تم تقویٰ سے رہو تو میں ایسی تجارت کی ضمانت لیتا ہوں کہ ہم تم کو رزق دیں گے اور بے حساب دیں گے اور اس میں سود بھی نہیں ہوگا، تقویٰ میں نفع ہی نفع ہے اس میں بھی خسارہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اگر وعدہ پورا ہونے میں کبھی تاخیر نظر آئے تو سمجھ لو کہ تم نے کہیں نالائقی کی ہے، تمہارے تقویٰ میں کمی آگئی۔

چوختہ انعام.....نور فارق

اور تقویٰ کا چوختہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نور فارق بھی عطا کرتے ہیں، ایک نور عطا کرتے ہیں جس سے برائی بھلائی کی تیز رہتی ہے۔

﴿يَا يَهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَعْجَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۲۹)

پانچواں انعام.....نور سکینہ

اور پانچواں انعام ہے کہ جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا کرتے ہیں۔ ہوں الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ جس کی وجہ سے وہ ہر وقت با خدار ہتا ہے، ایک لمحہ کو اللہ کو نہیں بھول سکتا، اگر جان بوجھ کر اللہ کو بھلا کر کسی حسین کی طرف رغبت کرنا چاہے تو اس کو اپنی موت نظر آئے گی۔

بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں

إِنَّ أَرَادَ سُوءً أَوْ فَصَدَ مَحْظُورًا عَصَمُهُ اللَّهُ عَنِ ارْتِكَابِهِ صاحبِ نسبتِ اگر کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے، کسی گناہ کے ارتکاب کا قصد بھی کر لے تو مالی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچالیں گے۔ اس کے دل میں ایسی بے چینی آئے گی اور گناہ میں اس کو ایسی موت نظر آئے گی کہ وہ گناہ اور تقویٰ دونوں کا بیلنگ نکالے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی تقویٰ ہی میں فائدہ ہے، اس گناہ میں توبہت مصیبت نظر آ رہی ہے۔

سکینہ آسمان سے نازل ہوتا ہے

تو تقویٰ سے نور سکینہ ملتا ہے آنzel سے نازل کیا کہ اس نور کو زمین سے نہیں پاسکتے یہ پڑوں نہیں

ہے جس کو سائنس داں نکال لیں وہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے دل پر سکینہ نازل کرتا ہے
وَيَشْبُثُ بِهِ التَّوْجِهُ إِلَى الْحَقِّ جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخدار ہتا ہے۔

تقویٰ کا چھٹا انعام.....پُر لطف زندگی

اور دوسرا طرف تقویٰ کا انعام کیا ہے۔ فَلَنْتُحِينَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو ہم تم کو ضرور بالطف زندگی دیں گے۔ اللہ کی فرماں برداری پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو بالطف زندگی دیں گے اور لام تا کید بانون شقیلہ سے فرمایا۔ ہماری نالائقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ظالم تم نفس کی بدمعاشیوں کے چکر میں ہو لہذا ہم یہ آیت لام تا کید بانون شقیلہ نازل کر رہے ہیں تا کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ پر لطف اور مزے دار زندگی دے گا ورنہ بغیر تا کید کے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام انتہائی موکد ہے آہ یہ ہماری نالائقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا۔

تقویٰ کا ساتواں انعام.....عزت و اکرام

اور ساتواں انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عزت و اکرام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے خاندان و قبائل بنائے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ سید، شیخ، مغل، پڑھان یہ خاندان اور قبیلے جو ہیں ان کا مقصد خالی لِتَعَارَفُوا ہے، عزت ان میں نہیں ہے یہ اس لیے ہیں کہ تعارف ہو جائے لیکن اسی کے بعد انَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْكُمْ معزز وہی لوگ ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں۔ ایک سید بدمعاش ہے، شرابی ہے زنا کرتا ہے اور ایک جولا ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے بتاؤ کون افضل ہے؟ ایک کا لے رنگ والا ہے لیکن اللہ کا ولی اور ایک سفید گوری چھڑی والا انگریز ہے چاہے مسلمان بھی ہو لیکن شراب اور زنانہ میں چھوڑتا تو وہ کا لاحبہ اللہ کا ولی ہے اس کے پیر دھوکر پی لو۔ چھڑی سے کچھ نہیں ہوتا۔

نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب

پیا جس کو چاہیں سہا گن وہی ہے

جس کو اللہ پیار کر لے وہی سہا گن ہے، قسمت والا ہے۔

تقویٰ کا آٹھواں انعام.....اللہ کی ولایت کا تاج

تقویٰ کا آٹھواں انعام سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ سے رہو گے تو ہم تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے یعنی تم کو ولی اللہ بنالیں گے اِنْ اُولَيَاءُهُ لَاَ الْمُتَّقُونَ اللہ کا ولی بن کر مرنا فائدہ مند ہے یا گنہگار اور فاسق ہو کر مرنا؟ اور متمنی ہو کر پھر کچھ دن جیو بھی

تاكہ اللہ کی ولایت اور دوستی کا صحیح مزہ دینا سے لے کر جاؤاللہ کے یہاں۔ یہ کیا کہ آج ولی اللہ ہوئے اور روح قبض ہو گئی۔ بیشک خاتمہ تو اچھا ہوا لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی دوستی کا مزہ کہاں چھا۔ ولی ہوتے ہی تمہارا انتقال ہو گیا اور یہ دعا کرو کہ اللہ ولایت بھی دے، نسبت صدیقین دے یعنی ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام اور پھر اس میں جینا بھی نصیب فرماء، میں جانوں بھی تو کہ آپ کے دوستوں کو کیا کیا ملتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے، آپ کا نام لینے میں اور آپ کی محبت میں کیا لطف آتا ہے؟ آپ کی محبت میں جینے کا کیا لطف ہے؟

تقویٰ کا نواں انعام کفارہ سینات

تقویٰ کا ایک انعام سینات اور برے اعمال کا کفارہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۲۹)

یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو ایسے اعمال صالح کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔

(ترجمہ تفسیر از معارف القرآن، جلد: ۳)

تقویٰ کا دسوں انعام آخرت میں مغفرت

تقویٰ کے انعامات میں سے ایک انعام آخرت میں مغفرت اور سب گناہوں، خطاؤں کی معافی

ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ﴾

(سورہ الانفال، آیہ: ۲۹)

(تقویٰ کے انعامات، صفحہ: ۱۶-۲۵)

آیت نمبر ۱۰۶

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

(سورہ الشرح، آیہ: ۳)

جب یہ آیت نازل ہوئی و رفعنا لکَ ذِكْرَكَ (اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ فِإِذَا ذُكْرُتْ ذُكْرُتْ مَعِيْ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اگر کوئی ساری زندگی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے گا اور

(آپ کا نام) مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ نہیں پڑھے گا تو کافر مرنے کا، اُسے ہنہم میں ڈال دوں گا، مجھے آپ اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی لاکھ میری عبادت کرے، ساری زندگی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتا رہے لیکن اگر مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ نہیں کہے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر الدار المنشور یہی لکھا ہے ایسی اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيْ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام زمین پر لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا، میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لازم کر دیا ہے۔ اذ انوں میں بھی جہاں اشہدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو گا وہیں اشہدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بھی ہو گا۔ (تجلیات جذب، ص: ۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ بلند کر دیں گے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ بلند کر دیا۔ وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کر دیں گے، اس کا انتظار کیجئے۔ انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے۔ اپنے محبوب کو کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے قرآن پاک نازل کیا اسی کی تفسیر بیان کی ہے اور تفسیر درِ منثور میں یہ موجود ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمائی کہ:

﴿إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيْ﴾

(صحیح ابن حبان، کتاب الزکوٰۃ، باب ذکر الاخبار عن ابا حاتمة)

جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا۔ یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرون کیا گیا ہے جیسے خطبہ میں، تشهد میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں ایمان بالرسالت توحید کا لازمی جز ہے۔

اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ اے رسول آپ کا نام بھی آئے گا۔ پس اگر کوئی شخص ایک کروڑ مرتبہ میرا نام لے اور آپ کا نام نہ لے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے لیکن مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ نہ کہے یعنی اللہ پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی توحید قبول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسالت کی تعظیم اور تصدیق توحید کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ کی عظمت بیان کی جائے اور رسول اللہ کی عظمت بھی

بیان کی جائے تب توحید کامل ہوتی ہے۔ یعنی عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام توحید ہے۔ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تصدیق کی جائے۔ جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا سفیر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ دیکھئے اگر امریکہ کا سفیر آجائے تو دنیوی حکومتوں میں زلزلہ مجھ جاتا ہے سب لوگ ڈرجاتے ہیں کہ بھی اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو اور یہ تو محض دنیاوی عزت ہے کہ ملک بڑا ہے یہ کوئی عزت نہیں ہے محض دنیاداری ہے لیکن اس مثال سے معلوم ہوا کہ ملک کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے۔ رسول، اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ پس جب اللہ عظیم الشان ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول بھی عظیم الشان ہے اور یہ بات سو فیصد تلقینی ہے کہ اگر کوئی عمر بھر لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتا رہے اور مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ نہ کہے یعنی آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہے وہ بتائیں کہ اس کا طھکانہ کہاں ہوگا؟ کیونکہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو اس نے مانا لیکن مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ تسلیم نہیں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم کر دیا۔ پس جس نے رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس لیے منکر رسالت کافر ہے۔ عظمت رسالت کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا اذا ذُكِرْتَ ذُكِرْتَ مَعِيْ جب میرانام لیا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ جب کوئی موذن اشہدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے گا تو اشہدُ أَنْ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ بھی کہے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

اب مرانام بھی آئے گا ترے نام کے ساتھ

یہ ہے عاشقوں کی عزت، عاشقوں کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے، اللہ اپنے عاشقوں کو عزت دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں، آپ جیسا عاشق ہونا ناممکن ہے، آپ جیسا اللہ کا عاشق نہ کوئی ہوا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ آپ کی بے مثل شانِ عشق اس حدیث سے ظاہر ہے:

﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْدَذْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيى ثُمَّ أُقْتَلُ﴾

(صحیح البخاری، کتابُ الجهاد والسیر، بابُ تمنی الشهادة، ج، ۱، ص: ۳۹۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا

جاوں پھر قتل کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ سجان اللہ! جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عشق تھا کہ اللہ کے راستے میں بار بار شہادت کی تمنا فرمائے ہیں اور آپ سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام خلائق میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ مضمون اتنا ضروری ہے کہ جزو ایمان ہے، عظمتِ توحید اور عظمتِ رسالت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان

دینوی حکومتوں کا سفیر اس ملک کے بادشاہ کا نمائندہ ترجمان اور امین ہوتا ہے اور جتنا ہی بڑا ملک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے سفیر کی عزت ہوتی ہے۔ سفیر کی زبان بادشاہ کی زبان ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں۔ اس لیے آپ کافرمان اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ۵۰

(سورة النجم، ایات، ۳-۴)

ترجمہ: اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے با تین بناتے ہیں بلکہ ان کا ارشاد خالص وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ (بیان القرآن)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس میں فرق کرنے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ کے فرمان سے الگ سمجھنے والا یعنی آپ کے ارشادات کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل ایمان سے فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاقْتَهُوا﴾

(سورة الحشر، ایہ: ۷)

یعنی ہمارا رسول تمہیں جو کچھ دے اسے سر آنکھوں پر رکھ لو اور جس چیز سے روک دے اس سے روک جاؤ۔ حضرت حکیم والامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیں تم روک جایا کرو (اور یہی حکم ہے انعامات و احکام میں بھی)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کی اجمانی معرفت کے لیے یہی انتساب کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اظاہر توبیہ تین لفظ ہیں، محمد، رسول اور اللہ لیکن اس میں کس قدر عظمت چھپی ہوئی ہے، ذرا

اس انساب کو دیکھو کہ کس کے رسول ہیں، میری عظمت و جلال و کبریائی سے میرے رسول کی عظمت شان کو پچانو کہ یہ میرے رسول ہیں اور رسول بھی کیسے کہ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ﴾
(سورۃ الاحزاب، آیہ: ۳۰)

معارف القرآن میں ہے کہ صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالاتِ نبوت و رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾

(سورۃ المائدۃ، آیہ: ۳)

یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ ان بیانات سبقین کے دین بھی اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے کوئی ناقص نہ تھا لیکن کمال مطلق اس دین مصطفوی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے جدت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔

لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی اس وجہ سے آپ کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہو گی اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہو گی۔ (معارف القرآن)

پس آپ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالاتِ رفیعہ سے سرو رِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی معرفت

قرآن پاک کی مذکورہ بالا بعض آیات اور بعض احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی اجمالی معرفت کے لیے بیان کی گئیں لیکن آپ کی معیت اور صحبت مبارکہ جو صحابہ پر اثر انداز ہوئی اور ان کی زندگی میں جوانقلاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ سند کے طور پر قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں:

﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾

﴿يَتَّغَوُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ﴾

(سورۃ الفتح، آیہ: ۲۹)

اے لوگو! میرے رسول کی جلالت شان کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جتنا عظیم میں ہوں اسی سے میرے رسول کی عظمت کو پہچانو۔ بادشاہ کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے۔ جتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے سفیر کی عظمت و اہمیت ہوتی ہے۔ میں تورب العالمین ہوں، حکم الامم کیمیں ہوں، سلطان السلاطین ہوں اس سے میرے رسول کی عظمت کو پہچانو لیکن جس طرح تمہاری عقل و فہم و ادراک میری عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اسی طرح میرے رسول کی عظمتوں کا تم کیا احاطہ کرو گے، میرے رسول کے انوارِ نبوت کو بلا واسطہ دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاصر ہیں۔ لہذا میرے رسول کے انوار کو والدینَ معَهُ میں دیکھو یعنی ان لوگوں کے اندر دیکھو جن پر میرے رسول کے نور کا عکس پڑ گیا ہے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کی خوشبو میں بسائے گئے ہیں ان میں میرے نبی کی خوبصورتگوکہ جن کے شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی کیا شان ہوگی! یہاں معَهُ یعنی معیت رسول کا فیض ہے جس نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فروال کر دیا

پہلے جاں پھر جاں جاں پھر جاں جاناں کر دیا

جو پہلے کفر و شرک سے مردہ تھے معیت رسول سے حیاتِ ایمانی سے مشرف ہو گئے، جو بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے اب اللہ وحدۃ الاشیریک کی عبادت میں سرگرم ہیں اور کفر و شرک سے ایسی شدید نفرت ہو گئی کہ آگ میں جل جانا ان کو کفر پرلوٹ جانے سے زیادہ محظوظ ہے، جان مال آل اولاد سب سے زیادہ اب اللہ پیارا ہو گیا، جو شدتِ غصب پہلے اللہ اور اللہ کے عاشقون سے تھی رسول پاک کی معیت و صحبت کی برکت سے اب وہ شدت اللہ کے دشمنوں پر محض اللہ کی رضاۓ جوئی کے لیے صرف ہونے لگی جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں موقعِ مدح میں بیان فرمائے ہے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ میرے نبی کی صحبت یافتہ کافروں کے مقابلہ میں بہت اشد، بہت سخت اور تیز ہیں لیکن آپس میں ان کا کیا حال ہے رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ آپس میں بہت مہربان ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہیں یہ اس مَعَهُ کا فیض ہے کہ جو محبت پہلے نفسانی خواہشات کے لیے تھی میرے نبی کی صحبت نے اس کا رُخ بدل دیا اور وہی محبت اب اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرنے والوں پر شمار ہونے لگی۔

میرے رسول کی معیت کا فیض دیکھو کہ بندوں کے ساتھ اُن کے اخلاق میں یہ حرمت انگلیز انقلاب آگیا اور میرے ساتھ اُن کی عبادت کیا مقام ہے تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا تم دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، کبھی سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ کبھی باطل خداوں کی عبادت کیا کرتے تھے

میرے رسول کی صحبت نے اس محبت کا رُخ پھیر دیا اور باطل معبدوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو معبد و حقیقی کے سامنے جھکا دیا۔ اور ان کے اخلاق و اعمال میں یہ انقلاب کس وجہ سے آیا؟ کافروں کے ساتھ شدت اور ایمان والوں کے ساتھ محبت و رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکوع و تجوید میں انہاک کس غرض کے لیے تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **يَسْتَغْوِنُ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا رَوْقَتِ اللَّهِ** تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ صحابہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشودی کو سونگھتے پھرتے ہیں کہ کیا کرلوں کہ میرا رب خوش ہو جائے۔ اُن کے اخلاص کا یہ اثر ہے کہ سیمماہم فی وُجُوهِہِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ اُن کی عبدیت کے آثار بوجہ تاشیر سجدہ کے اُن کے چہروں سے نمایاں ہو رہے ہیں، یہ آثار خشوع و خضوع کے انوار ہیں جو مومن متقی کے چہرہ میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں، کمال اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر نور ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ دل جب نور سے بھر جاتا ہے تو آنکھوں سے چھلنے لگتا ہے، چہرہ سے چھلنے لگتا ہے۔ اسی کو علامہ آلوی نے تفسیر روح المعانی میں سیمما کی تفسیر میں فرمایا:

﴿هُوَ نُورٌ يَظْهِرُ عَلَىٰ وُجُوهِ الْعَابِدِينَ يَبْدُو مِنْ بَاطِنِهِمْ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمْ﴾

(تفسیر روح المعانی، تحت سورۃ الفتح)

سیما ایک نور ہے جو اللہ کے عبادت گذار بندوں پر اُن کے باطن سے چھلک کر اُن کے ظاہر پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتا دیا کہ یہ اوصاف جو صحابہ میں پیدا ہوئے یہ ان کی ذاتی صفات نہیں تھیں بلکہ چونکہ وہ **وَالَّذِينَ مَعَهُ تَحْقِيقِ مَعِيتِ** رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل تھیں، یہ اسی معیت کا فیض تھا کہ اب قیامت تک ان کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بڑے سے بڑاوی بھی ایک ادنیٰ صحابی کے برادر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو میسر نہیں ہو سکتی۔ جو وَانَّ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفْيِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ کے مصداق تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے اب نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پڑ جانے سے ہدایت کے چراغ بن گئے، ہر صحابی ستارہ ہدایت بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿أَصْحَابِيْ كَالْجُوْمِ فَبَيَّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المناقب)

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اُن میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، مدایت پا جاؤ گے۔ مشکوٰۃ نبوت سے جس صحابی پر جس قسم کی جوش شعاع پڑ گئی وہ اس کا مصدقہ ہو گیا۔ نگاہِ رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو بکر صدیق پر پڑی توَرَ حَمْ اُمَّتِيْ ابُو بَكْرٍ ہو گئے کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحمدیل ابو بکر ہیں اور اسی نگاہ مبارک کے صدقے میں شب معراج کی ایک تصدیق سے آپ صدیق ہو گئے جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چشمِ احمد بر ابو بکرے زدہ از یکے تصدیق صدیق آمدہ

حضرت ابو بکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا ایسا فیضان ہوا کہ ایک تصدیق سے وہ صدیق ہو گئے اور صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے اور مُشکوٰۃ نبوت سے فارِق بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کی ایک شعاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی اور آپ فاروق ہو گئے اور اسی نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى كے احکام کی تعمیل میں میں سب سے اشد عمر ہیں۔ حیاء نبوت کی ایک شعاع نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اَصْدَفَهُمْ حَيَاةً عُثْمَانُ بنا دیا کہ میرے صحابہ میں حیاء کے اعتبار سے سب سے بڑھے ہوئے حضرت عثمان ہیں اور نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شعاع کے فیضان ہی سے آپ ذوالنورین بھی ہو گئے اور نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم و معارف سے آراستہ کر کے بَابُ الْعِلْمِ (علم کا دروازہ) اور اَسَدُ اللَّهِ (شیر خدا) اور اَقْصَاهُمْ عَلَىٰ یعنی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک لفظ مَعَة نازل کر کے بتا دیا کہ معیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کایا پلٹ دی اور جیسا کہ اوپر حدیث پاک مذکور ہوئی کہ ہر صحابی ستارہ ہدایت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صحبت میں اللہ تعالیٰ نے کیمیا کا اثر رکھا ہے۔ جس طرح کیمیا تانبہ کو سونا بنادیتا ہے اسی طرح صحبت کفر و فتن سے مردہ دلوں کو حیات ایمانی سے مشرف کرتی ہے اور دوسروی آیت میں کُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نازل فرما کر مزید صراحةً فرمادی کہ اہل صدق، اہل تقویٰ کی صحبت و معیت کے بغیر تم صاحب تقویٰ اور صاحب ولایت نہیں ہو سکتے کیونکہ تقویٰ ہی ولایت کی بنیاد ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں سوائے ان کے جو متقی ہیں اور صادقین اور متقین کلی تساوی ہیں جس کی دلیل قرآن پاک کی آیت اُلِّیکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ اُلِّیکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو صادق ہے وہ متقی ہے اور جو متقی ہے وہ صادق ہے۔

عظمتِ رسالت کا منکر جہنمی ہے

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا شان دی ہے علماء امت

کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے لہذا جو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ قربان ہو، پھر اس کی کیا قربانی ہے، کوئی اللہ پر قربان ہے، شہادت کے لیے تیار ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا اس لیے عظمت رسالت بھی ایمان کے لیے لازمی ہے۔

(مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت قیمتی بات فرمائی۔ جامع)

بعض لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں کمی ہے جس کی دلیل ہے کہ سنت کی اتباع نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے تو یہ دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت میں بھی کمی ہے۔ عظمت رسول، عظمت اللہ کی دلیل ہے جس کے دل میں اللہ کی جس قدر عظمت ہوگی اسی قدر اس کے دل میں رسول کی عظمت بھی ہوگی۔ ثابت ہوا کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت نہیں اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے اس لیے رسالت کا منکر اللہ کا منکر ہے اس لیے جہنمی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اُسوہ حسنة کن لوگوں کو محبوب ہوتا ہے؟

اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

﴿لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾
(سورۃ الانحزاب، آیہ: ۲۱)

سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت کس کو نصیب ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنة کن کو محبوب ہے اور کون لوگ آپ کے اُسوہ حسنة کو اختیار کرتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ سے مراد صرف ذکر لسانی نہیں ہے بلکہ تمام احکاماتِ خداوندی کی اطاعت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ آیت میں متعلقات کو مقدم کیا گیا جن کا حق تاخرا تھا جس سے معنی حصر کے پیدا ہو گئے۔ آنَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفْيِيدُ الْحَاضِرَ تو معنی یہ ہوئے کہ صرف میرے رسول ہی میں اُسوہ حسنة موجود ہے، رسول اللہ کے علاوہ اُسوہ حسنة کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا اور چونکہ اُسوہ حسنة وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں یعنی مومن کامل ہیں اور ذا کریعین مطیع و فرماں بردار ہیں اس لیے صوفیاء ایمان میں ترقی، اللہ اور آخرت پر یقین اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ذکر اور مجاہدات کرتے ہیں تاکہ یَرْجُوا اللَّهَ کے مصدق ہو کر قیمع سنت ہو جائیں۔ سنت

پُر عمل وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور یومِ قیامت سے ڈرے گا اور فرمائی بردار ہو گا۔ یہ لطائفِ قرآنیہ سے ہے تفسیر نہیں ہے۔

درود شریف کی اہمیت اور لفظ درود کے معانی

درود شریف کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف

پڑھنے کا حکم دیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلِئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾

(سورہ الاحزاب، آیہ: ۵۶)

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھجتے ہیں ان پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان والوں بھی آپ پر رحمت بھیجا کر واخوب سلام بھیجا کرو (تاکہ آپ کا حق عظمت جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو جائے)۔ (بیان القرآن) اس آیت کی تفسیر میں حضرت حکیم الامم مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجننا تو رحمت فرمانا ہے اور مراد اس سے رحمتِ مشترک نہیں ہے کہ اس سے اختصاص مقصود ثابت نہیں ہوتا بلکہ رحمت خاصہ ہے جو آپ کی شایانِ عالیٰ کے مناسب ہے اور فرشتوں کا رحمت بھیجننا اور اسی طرح جس رحمت کے بھجنے کا ہم کو (مسلمانوں کو) حکم ہے اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے اور اسی کو ہمارے محاورہ میں درود کہتے ہیں (انٹھی کلامہ) یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمت بھجنے سے مرادِ نزول رحمت ہے اور رحمت بھی مشترک نہیں جو دوسروں کو بھی حاصل ہے بلکہ وہ رحمت خاصہ مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانِ عالیٰ کے شایانِ شایان ہے اور جو خلق میں سوائے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو حاصل نہیں اور فرشتوں کے رحمت بھجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس رحمت خاصہ کی دعا کرتے ہیں اور آیت میں آگے مونین کو جو رحمت بھجنے کا حکم ہو رہا ہے اس سے بھی مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے جس کو حرف عام میں درود کہتے ہیں اور آیت کا عاشقانہ ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اے مسلمانو! تم بھی میرے نبی سے پیار کرو۔

حضرت مولانا نفضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقانہ ترجمہ یوں کرتے تھے کہ اللہ پیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سلامت رکھاں کو۔

مفتي اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:

اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل صلوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عام مومنین کو اس کا حکم دیا جس میں آپ کے شرف اور عظمت کو اتنا بلند فرمادیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجتے والے مسلمانوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرمالیا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی (انتی) پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہیں۔

آگے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلوٰۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ ان کا آپ کے لیے دعا کرنا ہے اور عام مومنین کی طرف سے صلوٰۃ کا مفہوم دعا و مدح و ثناء کا مجموعہ ہے۔ عامہ مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالعالیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثناء ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اکثر موقع اذان واقامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرشماں کر دیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالباً کیا اور آپ کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا اس کے ساتھ آپ کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا اور آخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کیا اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی جائی نہ تھی اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا جس کو مقامِ محمود کہا جاتا ہے۔ (انتی کلامہ)

درو دشیریف کے کچھ مزید معانی

بعض اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھینے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محمود تک پہنچانا ہے جو مقامِ شفاعت ہے اور فرشتوں کے درود بھینے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا اور آپ کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور مومنین کے درود سے مراد سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کے اوصافِ جمیلہ و سیرتِ عالیہ کا تذکرہ و تعریف کرنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلِ محبو بیت

اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلِ محبو بیت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور اعزاز و اکرام فرمایا مثلاً آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو وجہ کا حکم دیا لیکن کسی حکم اور کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ درود شریف کی نسبت پہلے اپنی طرف فرمائی اور پھر فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے مسلمانو! تم بھی میرے نبی پر درود بھجو۔ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شرکت نعمت نہیں ہے؟ جس تجارت میں بادشاہ کا حصہ بھی ہواں تجارت میں خسارہ اور (Loss) ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ گھاٹے میں جا سکتی ہے؟ درود شریف بھیجاں اللہ کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے اس میں اپنا حصہ لگا لو، یہ تجارتہ لئے تبُورَ ہے اس میں خسارہ ہے ہی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت و شفقت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت، رحمت اور شفقت اپنی امت کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک

میں اس کی شہادت دے رہے ہیں:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾
(سورة التوبہ، آیہ: ۱۲۸)

یعنی ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو تم میں ہی سے ہیں یعنی تمہاری جنس (بشر) سے ہیں جن کی شفقت و رحمت کی کیا شان ہے؟ کہ تمہاری مضرت کی بات ان کو گراں گذرتی ہے، چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور وہ تم پر حریص ہیں اور حریص کس بات پر ہیں؟ علامہ آلوسی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ:

﴿حَرِيْصٌ عَلَى إِيمَانِكُمْ وَصَلَاحٍ شَانِكُمْ﴾

وہ تمہارے ایمان پر اور تمہاری صلاح شان پر حریص ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور تمہاری حالت کی اصلاح ہو جائے۔ اس کو کسی شاعر نے کہا ہے۔

حَرِيْصُكُمْ دَائِرٌ عَلَى إِيمَانِنَا
لَا بِذَاتٍ بَلْ صَلَاحٍ شَانِنَا

اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرص کا تعلق ذات سے نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان اور ہماری صلاح شان سے ہے۔

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحَرِصَ لَا تَسْعَلُ بِذَادِ أَتِهِمْ کیونکہ اس حرص کا تعلق اے صحابہ تمہاری ذات سے نہیں ہے، ان کی نظر تمہاری دنیا اور تمہارے مال پر نہیں، وہ صرف تمہارے ایمان اور تمہاری اصلاح حال پر حریص ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ہر نبی کی زبان سے یہ اعلان کرایا ہے کہ:

﴿وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورہ الشعرا، آیہ: ۱۰۹)

میں تم سے اس دعوت الی اللہ کا کوئی بدلہ اور صلنہیں مانگتا، میرا صلد تو میرے رب کے پاس ہے۔ اس حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ میں اُمُتِ دعوت یعنی کفار بھی شامل ہیں۔ آپ کی شفقت و رحمت کی یہ شان ہے کہ کفار کے ایمان و اسلام کے لیے بھی آپ اپنی جان پاک کو گھلارہ ہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا اے نبی کیلان کافروں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے:

﴿فَلَعْلَكَ بَاخْرُ نَفْسَكَ عَلَى الْأَثْرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾

(سورہ الكھف، آیہ: ۲)

﴿لَعْلَكَ بَاخْرُ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

(سورہ الشعرا، آیہ: ۳)

جب دشمنوں پر آپ کی رحمت کی یہ شان ہے تو اہل محبت یعنی مومنین کے ساتھ آپ کی رحمت و شفقت کا کیا عالم ہوگا؟ اسی کو حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمادیا جو تخصیص بعد العجمیم ہے یعنی حَرِيْصُ عَلَيْكُم میں تو عموم ہے کہ اس میں مومنین و کفار دونوں شامل ہیں لیکن آگے مومنین کو خاص فرمारہ ہے ہیں کہ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ مومنین کے ساتھ تو آپ رووف و رحیم ہیں یعنی بڑے ہی شفقت اور مہربان ہیں۔ راءفت کے معنی ہیں دفعہ مضرت اور رحمت کے معنی ہیں جلب متف适用ت تو یہ معنی ہوئے کہ جو با تیں اہل ایمان کے لیے مضر ہیں ان کو دفعہ کرتے ہیں اور جو با تیں مومنین کے لیے نفع بخش ہیں وہ عطا کرتے ہیں اور ایک

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر آپ کی شان رحمت کی یوں شہادت دی ہے کہ:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾
(سورۃ الاحزاب، آیہ: ۶)

یعنی اے ایمان والو! جتنی محبت تمہیں اپنی جانوں کے ساتھ ہے ہمارے نبی کو اس سے زیادہ محبت تمہاری جانوں سے ہے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو خود ہمیں اپنی جانوں سے نہیں تو ہم پر آپ کا حق اپنی جان سے زیادہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں کیونکہ۔

فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطْبِعٌ

عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمां بردار ہوتا ہے۔

لہذا اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم اپنی کروڑوں جانیں قربان کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلَّهِمْ

اے ہمارے رب! آپ اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ قیامت تک پیار فرمائیے اور ان کو سلامت رکھئے یعنی ان پر رحمت سلامتی نازل فرماتے رہتے جو ساری خلائق میں سب سے زیادہ آپ کے پیارے ہیں۔ (عقلمند رسالت، صفحہ: ۱۲-۲۵)

آیت نمبر ۷۰

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

(سورۃ العلق، آیہ: ۱)

صحبت اور کتاب کے متعلق ایک الہامی علم عظیم

صحبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک لاکھ کتاب میں پڑھنے والے میں وہ بات نہیں پاؤ گے جو صحبت یافتہ لوگوں سے پاؤ گے۔ دیکھئے قرآن پاک ابھی مکمل نازل نہیں ہوا صرف اقرأً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوئی اور نبوت عطا ہو گئی۔ قرآن پاک ابھی ۲۳ سال میں مکمل ہو گا لیکن نبوت آپ کو ایک ہی آیت کے نزول پر مکمل عطا کی گئی۔ نبوت ناقص نہیں دی گئی کہ قرآن پاک ابھی مکمل ہوا تو نبوت تھوڑی سے دے دی گئی ہو نہیں!

مکمل نبوت عطا ہوئی اور ایسی مکمل ہوئی کہ جس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا وہ صحابی ہو گیا اور مکمل صحابی ہوا ہے، ناقص صحابی نہیں ہوا۔ وہ صحابی مکمل آپ نبی مکمل، اگرچہ قرآن پاک ابھی مکمل نازل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ نبوت اور صحابیت، کتاب اللہ کی تکمیل کی تابع نہیں۔ اگر کتاب صحبت سے زیادہ اہم ہوتی تو افراطِ باسُمِ رَبِّکَ کے نزول کے وقت ایمان لانے والے صحابی نہ ہوتے بلکہ یہ ہوتا کہ ابھی تو ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے جب پورا قرآن نازل ہو جائے گا تب صحابی ہونے گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس وقت ایمان لانے والے صحابہ کا مقام سب سے بڑھ گیا اور وہ سابقونَ الاؤ لون کھلائے۔ اور آج پورا قرآن سینوں میں ہے۔ لیکن کوئی صحابی بن کر دکھائے۔ اس سے اندازہ کبھی کہ صحبت کیا چیز ہے۔ انڈا ایک لاکھ سال تک رہے تو انڈا ہی رہے گا بلکہ گندرا ہو جائے گا اور مرغی کی صحبت میں ۲۱ دن تک رہے تو حیات آجائی ہے۔ ایسے ہی جو لوگ بزرگوں کے پاس رہتے ہیں ان کو حیاتِ ایمانی عطا ہوتی ہے۔ صحبت یافتہ عامی کے اخلاق میں اور غیر صحبت یافتہ عالم کے اخلاق میں آپ زمین و آسمان کا فرق پائیں گے۔ بے صحبت یافہ کہیں دولت سے بک جائے گا، کہیں مال سے، کہیں جاہ سے، کہیں باہ سے اور اللہ کا ولی اور صاحبِ نسبت بکھی بک نہیں سکتا۔ سورج اور چاند سے نہیں بک سکتا، سلاطین کے تخت و تاج سے نہیں بک سکتا، لیلائے کائنات کے نعمیات سے نہیں بک سکتا اور مجانینِ عالم کی عشقیات سے بھی نہیں بک سکتا۔

اسی لیے بڑے پیر صاحب شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے علماء کرام مدرسون سے فارغ ہو کر چھ مہینہ کسی اللہ کے ولی کے پاس رہ لوتا کہ تمہاری نفسانیت مٹ جائے اور للہیت آجائے۔ ایک محدث نے کیا خوب کہا ہے۔

اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی
تو علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے

ورنہ ضمیر فروشی اور نفس پرستی رہتی ہے۔ جس کے دل میں خالقِ دل مجھی نہیں اس کا دل دل نہیں ہے وہ دل دل میں پھنسا ہوا ہے۔ میرا شعر ہے۔

صحبتِ اہلِ دل جس نے پائی نہ ہو
اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں

(عطاء بر بانی، صفحہ: ۳۷-۳۸)

صحبت کی قیمت علم سے زیادہ ہے کیونکہ جو پہلے ایمان لائے ان کو نبی کی صحبت زیادہ ملی، ان کا درجہ ان سے بڑھ گیا جو تمیں پاروں کے بعد ایمان لائے۔ یہ ہے صحبت کی اہمیت اور جو شیخ اور مرتبی جتنا قوی

النسبت ہو گا اس کے صحبت یافتہ بھی اتنے ہی قوی النسبت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیدا ہو گا اس لیے آپ کے صحابہ بھی امم سابقہ کے صحابہ سے افضل ہیں اور اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن نسبت قیامت تک سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ اس لیے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں دعائی تھی کہ اے اللہ! جو ہم میں صاحب نسبت نہیں ہیں ان کو صاحب نسبت کر دے اور جو صاحب نسبت ہیں مگر ضعیف اور کمزور تعلق ہے ان کو قوی کر دے اور جو قوی النسبت ہیں ان کو قوی کر دے یعنی ان کو اس قدر قوی النسبت کر دے کہ ان کی صحبتوں سے دوسرے ولی اللہ پیدا ہونے لگیں۔ اس لیے جس شخص سے تعلق کریں پہلے خوب دیکھ لیں کہ وہ قوی النسبت بھی ہے یا نہیں۔ (فیضان حرم، صفحہ ۳۱-۳۰)

آیت نمبر ۱۰۸

﴿إِذَا زُلْزِلتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا وَقَالَ إِلَيْنَا مَالَهَا يَوْمَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَ يَانَ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا﴾

(سورہ الزلزال، آیات، ۱-۵)

جبکہ زمین اپنی جنپش سے خوب ہی ہلاڑا لی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک نکالے اور آدمی بول اٹھ کا سے (یہ) ہوا کیا؟ اس دن زمین اپنی سب چیزیں بیان کر گزرے گی، یہ اس لیے کہ آپ کے پروردگار کا حکم اسے یہی ہو گا۔

زمین کی شہادت

جب حشر بر پا ہو گا، اس دن زمین کے پیٹ اور پیٹھ کی ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ مردے، سونا، چاندی اور دیگر جو بھی دفینے اور معدنیات زمین کے اندر ہیں، اس کے لیے آپس میں اڑتے جھگڑتے ہیں۔ خون خرا بہ ہوتا ہے، لیکن اس دن یہ باہر پڑے ہوں گے اور کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو گا اور سب جان لیں گے یہ کس قدر بے حقیقت ہیں۔

اس طرح مومن اور کافر ہر انسان سے جو بھی اچھا عمل یا بُر اعمال صادر ہوتا ہے، وہ زمین ہی پر ہوتا ہے۔ آج یہ زمین بے زبان ہے، لیکن حشر کے دن قادر مطلق کے حکم سے زمین میں قوت گویائی آجائے گی، یعنی ساکت، ناطق ہو جائے گی اور چھوٹے بڑے، اچھے بُرے، ہر ہر واقعہ کی پوری پوری شہادت پیش کرے گی۔ گویا آج یہ زمین زندگی کے تمام اقوال و افعال اور حرکات و مکنات کو جوں کا توں ٹیپ کر رہی ہے کل ٹیپ کا بند کھول دیا جائے گا اور پورا ٹیپ کیا ہو امور و مسائلے آجائے گا مثلاً کہے گی کہ فلاں شخص نے

نماز پڑھی تھی، فلاں فلاں کی مصیبت میں کام آیا تھا، فلاں ہر کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا تھا، فلاں اللہ کے سامنے سر نیاز خم نہ کرتا تھا اور اس کے ہر حکم سے سرتابی کرتا تھا، فلاں نے چوری کی تھی، ظلم کیا تھا، خون نا حق بھایا تھا۔ ان حقائق و قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

زمین کی اس عظیم شہادت کے پیش نظر شیخ محب الدین ابن عربی نے ایک بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ جس زمین پر انسان سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس جگہ کوئی نیک کام بھی کر دے تا کہ وہ زمین جو حشر کے دن اس کے گناہوں کی گواہی دے، ساتھ ہی نیکی کی شہادت بھی پیش کرے اور معاملہ برابر ہو جائے بلکہ نیکی پر تو وعدہ ایک پر دس دینے کا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سارا مال اہل حقوق میں تقسیم فرمادیتے اور بیت المال خالی ہو جاتا تو اس میں دور کعت نماز ادا کرتے اور پھر فرماتے تجھے قیامت میں شہادت دینی ہو گی کہ میں نے تجوہ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ اس لیے زمین پر رہتے ہوئے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہم ہوشیار اور چونکار ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن زمین ہمارے تمام اعمال اور حرکات و مکانات کی ٹھیک ٹھیک گواہی اللہ کے حضور پیش کرے گی، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے حق میں زمین کی گواہی نجات کا ذریعہ ہے۔

(روح کی بیاریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۳۰۲-۳۳۰)

آیت نمبر ۱۰۹

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝﴾

(سورۃ الاخلاص، آیۃ: ۱-۲)

صفتِ صمدیت حق تعالیٰ کی احادیث کی دلیل ہے

دیکھو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ میں احمد نازل ہوا، واحد نازل نہیں کیا حالانکہ واحد بھی اللہ کا نام ہے اور واحد کے معنی بھی ایک ہیں۔ احمد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ احمد کا اطلاق صرف ایک پر ہوتا ہے اور واحد کا اطلاق متعدد پر بھی ہو جاتا ہے جیسے واحد مائیہ ایک سو، واحد الف ایک ہزار۔ واحد ایک ہے لیکن ہزار پر بھی اطلاق ہو رہا ہے عرب جب کہے گا کہ ایک ہزار لاو تو واحد الف کہے گا، ایک سو کو واحد مائیہ کہے گا لیکن واحد الف واحد مائیہ عربوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ واحد کا اطلاق صرف ایک ہی ذات پر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت نازل کی کہ احادیث میرے لیے خاص ہے۔ واحد کا استعمال تم ایک ہزار روپیہ پر بھی کر سکتے ہو جیسے الف واحد کہتے ہو لیکن احمد کا لفظ سوائے اللہ کے کہیں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب

دلیل کیا ہے۔ سنتے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل ہے آللہ الصَّمَدُ کیونکہ اشتراک دلیل احتیاج ہے، مشترک حکومت قائم کرنا، لمیٹڈ فرم قائم کرنا یہ محتاجی ہوتی ہے۔ جب اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا تب لمیٹڈ فرم قائم کرتا ہے۔ اشتراک ہمیشہ احتیاج کی دلیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے اشتراک نہیں کرتا ہوں، اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں صمد ہوں۔ صمد کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صمد کی تفسیر فرماتے ہیں:

﴿الْمُسْتَغْنُى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَالْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ﴾

جو ساری کائنات سے مستغنی ہو اور سارا عالم اس کا محتاج ہو۔ کیونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارا عالم میرا محتاج ہے پس یہ عدم احتیاج میرے احمد ہونے کی دلیل ہے میری احادیث کی دلیل میری صدیت ہے۔ اس لیے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں کیسا شخ تھا۔ یہ الہامی علوم ہوتے تھے میرے شخ کے۔ کیا عجیب علم ہے کہ احادیث کی دلیل یہی صدیت ہے۔ اللہ اس لیے واحد ہے کہ اس کو اشتراک کی احتیاج نہیں ہے۔ اس کا صمد ہونا یعنی اشتراک کا محتاج نہ ہونا دلیل ہے اس کے احمد ہونے کی۔ یہی دلیل پیش کر دی کہ چونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارے عالم کو اپنا نیاز مند محتاج رکھتا ہوں یہ میری صدیت دلیل ہے میری احادیث کی۔ سبحان اللہ کیا علوم اور کیا دلائل ہوتے تھے میرے شخ کے کہ مزہ آ جاتا تھا۔ (حیاتِ تقویٰ، صفحہ: ۳۱۔ ۳۰)

گناہ سے بچنے کا بہترین علاج

اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دو ایسی آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر ان کا استحضار رہے تو آدمی کو گناہ کرنے کی بہت نہ ہوگی۔ اس استحضار سے اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت و ہیبت پیدا ہو جائے گی کہ گناہ کی طاقت تو رہے گی مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے گی۔ پہلی آیت ہے:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمَانًا كُتُمٌ﴾

(سورة الحديدة، آیہ: ۳)

جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اب ایک اشکال یہ ہو سکتا تھا کہ ساتھ تو ہے لیکن ساتھ رہنے سے دیکھنا تولازم نہیں آتا جیسے کوئی نایمنا آپ کے ساتھ ہو مگر دیکھنیں رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس وتم باطل کی اصلاح فرمادی:

﴿الَّمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾

(سورة الملق، آیہ: ۱۲)

کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے جو دوسروں کو آنکھیں عطا کرتا ہے وہ بھلا خود ناپینا ہو گا
جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے

یہ میرا شعر ہے کہ جو لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھتا نہیں وہ جان لیں کہ خدا
ان کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے سید الطائف شیخ العرب وائم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی
رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صوفی بلکہ ہر مون کو چاہیے کہ تھوڑی دریخواہ دو منٹ یا ایک منٹ یا مراقبہ کرے
کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چند منٹ کا مراقبہ چوبیں گھنٹے کام دے گا جیسے گھری میں چابی تو آپ آدھے
منٹ میں لگا دیتے ہیں مگر وہ چلتی ہے پچوبیں گھنٹے۔ لہذا روزانہ چند منٹ آنکھ بند کر کے آپ اتنا سوچ لیں کہ
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ خیال چوبیں گھنٹے قائم رہے گا اور جب روزانہ کی مشق سے دل میں جنم جائے گا تو
پھر گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو گی۔ نافرمانی اور گناہ چھوڑنے کا یہ بہترین علاج ہے جو خود اللہ تعالیٰ کا بتایا
ہوا ہے۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۲۷-۲۸)

آیتِ بالا کی تشریح بعنوانِ دُکر دین کی حلاوت حاصل کرنے کا طریقہ

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾

(سورۃ الاخلاص، آیۃ: ۳)

ایک جملہ میں پورا دین پیش کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہ سے
کبھی دل میں خوشی درآمد نہ کیجئے۔ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناخوش کر کے غلاموں کو اپنے دل میں خوشی
لانا شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ آنکھوں میں روشنی کس نے دی؟ رزق کون دے
رہا ہے؟ کھاؤ اللہ کی اور گاؤ نفس و شیطان کی یہ کہاں کی شرافت ہے۔ اس لیے دل میں ٹھان لججھے اور کوشش
کیجئے کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے ان شاء اللہ ایسا مزہ ملے گا کہ آپ کے مزہ کے عالم کو سارا عالم نہیں سمجھ
سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے مثل ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، کائن کی خبر کُفُواً کو مقدم کر دیا
اور اَحَدٌ اسم کو موخر کر دیا اور انکرہ تحت لغی بھی ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مثل اور ہمسر نہیں
ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے تو ان کے نام کی لذت بے مثل نہیں ہو گی؟ ان کا نام مجموعہ لذات
کائنات کا کپسول ہے۔ (فوض رباني، صفحہ: ۵۳-۵۴)

ہروالی کی شانِ تفردا و راس کی وجہ

اللہ کی ذات بے مثل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ اللَّهُ كَوَيْ مِثْلُ، کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ پس جو اللہ کو پا گیا کیونکہ وہ حامل بے مثل ذات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک شانِ تفردا فرماتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے اس خاص شان میں وہ بے مثل ہو جاتا ہے پس ہروالی کے اندر ایک تفرد کی شان ہوتی ہے تاکہ وہ تو حید کی علامت رہے۔ (پیش ربانی، صفحہ: ۷۰)

تمام کائنات کے حسن سے زیادہ حسین کیا چیز ہے؟

﴿وَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلًا مِمْنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

(سورہ فصلت، آیہ: ۳۳)

کائنات کے تمام حسینوں سے زیادہ حسین تعالیٰ کی طرف، خاتم لیلائے کائنات کی طرف بلاانا ہے کیونکہ وہ مولائے کائنات ہی تو خاتم نمکیات لیلائے کائنات ہے۔ تمام کائنات کے حسینوں کا حسن اس کی ادنیٰ سی بھیک ہے جس پر لوگ پاگل ہو رہے ہیں لیکن چند دن کے بعد جب وہ نمک جھٹر گیا اور حسین قبروں میں لیٹ گئے تو پھر پچھتا تھے ہیں کہ آہ ہم کہاں عکس پر فدا ہوئے اور ایامِ زندگی ضائع کیے۔ اس لیے سارے حسینوں سے حسین وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا نے میں استعمال ہوں اور اس کی دلیل آج پہلی بار ابھی ابھی عطا ہوئی جس کی طرف کبھی زندگی میں ذہن نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے قول سے زیادہ حسین کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلارہا ہے۔ ساری دنیا کے حسین ایک طرف لیکن میری طرف، میری محبت کی طرف بندوں کو بلانا اور میری محبت کو سارے عالم میں نشر کرنا یہ سارے حسینوں سے احسن ہے کیونکہ مولیٰ سے بڑھ کر کوئی احسن نہیں اور ان کی محبت کی باتیں سنانے سے بہتر کسی کا کوئی قول نہیں۔ اے حسینوں کے چکر میں رہنے والو! اگر تم کو حسن پرستی ہی کا ذوق ہے تو ہم تمہیں سارے حسینوں سے احسن چیز پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہماری محبت کی بات نشر کی جائی ہی ہو اس کو سنو یا تمہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمادے اور اتنا در دعیم تمہارے قلب میں پیدا ہو کہ تم دعوت الی اللہ کا کام شروع کر دو تو مولائے کائنات کی خوبیو پا کر تم ساری لیلائے کائنات سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ احسن اسم تفضیل ہے، حسین سے افضل ہے الہذا جب کبھی نفس میں حسینوں کی جستجو پیدا ہو تو احسن کام میں لگ جایا کرو۔ جب احسن سامنے ہو گا تو حسین کی طرف توجہ نہ ہو گی۔ (پیش ربانی، صفحہ: ۷۹-۸۰)



رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو

کسی عاشق کی جب بھی داستان اس کی زبانی ہو
تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدر دانی ہو

اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملتا یقینی ہے
کہ جس کے باغِ دل میں اہل دل سے با غبانی ہو

جود رِ دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے متبر پر
کرے شرحِ محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو

ولایت اہلِ دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے
مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو

نہیں آسان ہے اسرارِ محبت کو بیان کرنا
مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل راز دانی ہو

ملا کرتا ہے دردِ دل بڑی خونِ تمبا سے
رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو

فدا لیکن ہے اس ذرہ پہفتِ قلیم کی دولت
بصورت دردِ دل میں اگر درد نہانی ہو

ہزاروں غمِ اٹھائے جس نے ان کی راہ میں آخرت
نہ پھر کیوں دکھ بھری اے دوستو اس کی کہانی ہو



